

حَمْدُ اللّٰهِ وَكَبْرٌ لِّلّٰهِ حَمْدٌ وَلِلّٰهِ شُفٰعٌ عَلٰى تَعَوّذِي

لِفْوَطَاتِ حَكْمِ الْأَمَّةِ

اداره تاليفات اشرفیہ

چک فوارہ نشان پاکستان
(061-4540513-4519240)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْفَاضِلَاتُ الْيَوْمَيَّةُ مِنَ الْأَفَادَاتِ الْقَوْمِيَّةِ



جلد نمبر ا

از

حَجَّمِ الْجَمِيعِ وَالْمَلَكُوتِ حَضْرَةُ مَوْلَانَا أَشْرَفُ عَلَى تَحْالُوْيَ

عنوانات

حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی مدظلہ

استاذ الحدیث دارالعلوم کراچی

ناشر:

061-540513
061-519240

ادارۃ تالیفات اشرفیہ
چوک فوارہ ملتان پاکستان
E-MAIL: Ishaq90@hotmail.com // Website : www.Taleefat-e-Ashrafaia.com

ضروری وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی صحیح و اصلاح کیلئے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ تفاصیل ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے ذریعہ اس کی اخلاقی کی صحیح پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔

تاذم پوچنکہ یہ سب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کسی غلطی کے رو جانے کا امکان موجود ہے۔

لبذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرمادیں تاکہ آئندہ لیڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ)

نام کتاب "ملفوظات حکیم الامت" جلد ایامہ محمد اسحق عفی عنہ
تاریخ اشاعت ۱۴۲۷ھ تحریک الادبی
مطبع سلامت اقبال پرنس ملتان



ملنے کے پتے

- ☆ ادارہ تالیفات اشرفیہ چوک فوارہ ملتان
- ☆ ادارہ اسلامیات انارکلی ، لاہور
- ☆ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور
- ☆ مکتبہ رشیدیہ ، سرکی روڈ ، کوئٹہ
- ☆ کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار راولپنڈی
- ☆ یونیورسٹی بک ایجنسی خبر بازار پشاور
- ☆ دارالاشراف اردو بازار کراچی
- ☆ صدیقی ثرست سبیلہ چوک کراچی نمبر ۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عرض ناشر

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

ملفوظات اولیاء اللہ کے اس لشیں کلام کو کہا جاتا ہے جو وہ امت مسلمہ سامنے

اپنے گھرے مشاہدات و تجربات اور علوم و معارف الدینی کی روشنی میں پیش کرتے ہیں اور جن کے بیع کرنے کا اہتمام ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے، نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ مجتبی ﷺ کی سانی گھر بارے جو موئی نکل، صحابہ کرام کی شان عشق نے بڑے اہتمام کے ساتھ اسے ضبط فرمایا اور پوری امانت، دیانت کے ساتھ آنسو والی نسلوں کے سپرد کیا ان موتیوں کا نام اصطلاح شرع میں "حدیث" ہے جو قرآن حکیم کی علمی اور عملی تشریح بھی ہیں اور اسلامی اصولوں میں سے قرآن حکیم کے بعد دوسرا بڑی بنیاد بھی، یعنی وہ بڑی بنیاد جس پر اسلام کی عمارات قائم کرے۔

رسول اللہ ﷺ کے بعد صحابہ کرام، تابعین، فقہائے کرام اور اولیاء اللہ ﷺ کے بعد نسل اسلام کی دعوت کوئئے نئے اسلوب کے ذریعہ لوگوں تک پہنچاتے رہے ان کی پیر اثر باتوں سے ڈاؤں کا زنگ و حلتا رہا اعمال شرعیہ اور رسوم و رواج کے درمیان تمیز قائم ہوئی رہی اور حق کی وضاحت کا عمل مسلسل جاری رہا اولیاء اللہ کی مختصر لغتہ لشیں باعثیں لوگوں میں حیران کن انقلاب برپا کری رہیں اور ان کی بدولت مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے ترقی کی نفعوں میں بہت گھرے اور درجہ منانگ اور اثرات مرتب ہوئے اور یہ ائمہ صاحب دل، صاحب علم و عمل، بوریائیشین، درویشان خدامت کی باتوں کا اثر ہے کہ مرور زمانہ کے باوجود دین کی علمی خلائق بالکل تحریری ہوئی ہے اور آج بھی اخلاق کے ساتھ عمل کرنے والے کیلئے دین حق پوری طرح واضح ہے اولیاء اللہ کی ائمہ لشیں باتوں کا درس نام "ملفوظات" ہے۔

ملفوظات کے اس طویل سلسلہ میں سب سے اہم الافتراضات الیومیہ کا سلسلہ ہے جو اس وقت

آپ کے سامنے ہے یہ کتاب ایک بار تھانہ بخون اور دوسرا بار کراچی میں طبع ہوئی مگر اب غرض سے ناپید بھی اور شائعین دیکھی سے اس کے منتظر تھے اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے ادارہ تالیفات اشرفیہ ملستان کو اس کی طباعت کی توفیق عطا فرمائی اور اب یہ کتاب آپ کے سامنے ہے سابقہ اشاعتوں اور ملفوظات پر عنوان موجود نہ تھے، اس مرتبہ عنوانات کا اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ قاری کو سہولت ہو جائے، اس کی ابتدائی تک چندوں پر عنوانات محسن و مشفیق دوست مولانا محمود اشرف صاحب عثمانی مدظلہ العالی تے لگائے ہیں جبکہ باقی ۲ جلدوں پر ہمارے محترم بزرگ جناب محمد اقبال قریشی صاحب مدظلہ العالی (بادران آباد) نے عنوانات تحریر فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کو جزاۓ خیر عطا فرمائے، آمين۔

قارئین سے درخواست ہے کہ ناشر کیلئے بھی دعا فرمائیں کہ یہ سلسلہ مکمل ہو جائے اس وقت

تک الحمد للہ چھپس جلدیں شائع ہو چکی ہیں باقی سات جلدیں زیر طبع ہیں اس طرح ان شاء اللہ یہ سیٹ تیک جلدیں میں مکمل ہو گا۔ واخر و عنوان ان الحمد للہ رب العالمین، فقہائے محمد اسحق عقی عنہ

اظہار مسرت و تحسین

از حضرت القدس مرشد و مری مولانا الحاج محمد شریف صاحب رحمہ اللہ
(خلیفہ ارشد: حکیم الامم مجدد الامم حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تحانوی قدس سرہ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مجھے دلی خوشی ہے کہ عزیز القدر حافظ محمد اخلاق صاحب مجدد الامم حضرت
تحانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات شائع کرنے کے حریص ہیں انہیں حضرت سے صرف
محبت ہی نہیں محبت کا نشہ ہے، حضرت کے مسلک اور مذاق کی تبلیغ کے بہت خواہشمند ہیں
اور زر کیش صرف کر کے حضرت کی کتابیں جو نایاب ہیں چھپواتے رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو قبول فرمائے ظاہرین کیلئے نافعیت اور ہدایت
اور ان کے لئے سرمایہ آخوت بنادیں، دعاء گوا

حضرت محمد شریف عشقی عنہ

مکتوب گرامی

حضرت اقدس عارف باللہ اکٹر عبد الجبیر صاحب عارفی رحمہ اللہ

(خلیفہ ارشد: مجدد امت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ)

مشفقی و مکرمی دامت برکاتہم السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

عثایت نامہ با عز و شرف ہوا، آپ کے ادارہ تالیفات سے جو بھی مجموعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ یا مانفوظات شائع ہوتا ہے آپ از راہ کرم تحفہ اس ناکارہ کو اسال فرماتے رہتے ہیں آپ کی اس خیال فرمائی کا بدل منون ہوں، اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو ہمیشہ قائم رکھیں اور مسلمانوں کو اس اشاعت علوم دینیہ سے زیادہ مستفیض فرمادیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور مانفوظات کے مطالعہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضرت اس دور حاضر کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے ایسے ایسے علوم شرعیہ مسنونہ بیان فرمارے ہیں جس کی تشقیقی خواص و عوام اب بھی محسوس کر رہے ہیں اسی سے حضرت رحمۃ اللہ کی شان مجدد و دیت نمایاں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ادارہ کے جذبہ تبلیغ کو اور زیادہ قوت عطا فرمائے اور مطبوعات کی اشاعت کو عالمگیر فروغ عطا فرمادیں، آمين۔

احقر محمد عبد الجبیر عفی عنہ

فہرست مضمون

| عنوان | صفحہ نمبر | عنوان | صفحہ نمبر |
|---|-----------|--|-----------|
| متبدی کوشش کی تقلید چاہیے ۳۲ | ۲۲ | صحیح کی مجلس خاص کا اجراء ۲۲ | |
| رہبر کے محقق اور مشفق ہونے کی ضرورت ہے ۳۲ | ۲۳ | مشتی محمد حسن صاحب کا اظہار تشکر ۲۳ | |
| شیخ کا ماہر فن ہوتا ضروری ہے ۳۲ | ۲۵ | مجلس خاص کے انتظام کی رعایت ۲۵ | |
| ایک صاحب کی بدبی کی خواہش ۳۲ | ۲۵ | اپنی جماعت کے ساتھ گلہدہ ہنے میں فائدہ ہے ۲۵ | |
| اور حضرت کا جواب ۲۸ | ۲۶ | اپنی فلکر کرنی چاہیے ۲۶ | |
| حزن سے مرائب سلوک تیزی ۲۸ | ۲۷ | میدان میں آتا چاہیے کافر ۲۷ | |
| سے طے ہوتے ہیں ۲۸ | ۲۷ | طلبا، کی سیاست میں شرکت ۲۷ | |
| بٹکٹ دیل میں سفر کرنے میں کوئی گنجائش نہیں ۲۹ | ۲۷ | مل کر کام کرنے کا مطلب ۲۷ | |
| حلال، جلال اور جمال ۲۹ | ۲۷ | شیعیت اور سیاست کو علیحدہ سمجھنا ۲۷ | |
| ادب تعظیم کا نہیں راحت رسائل کا نام ہے ۲۹ | ۲۹ | دیبا ٹیوں کی مزیدار گفتگو ۲۹ | |
| حضرت معاویہؓ کے دستِ خوان پر ایک بدرو ۲۹ | ۳۰ | کشمیر کے واقعات پر قوت نازلہ ۳۰ | |
| سیدنا حضرت معاویہؓ کی حرطاء اجتہادی ۳۰ | ۳۱ | حالات کشمیر سے متعلق ایک بیکار سوال کا جواب ۳۱ | |
| حضرت سے تعلق کا نتیجہ ۳۱ | ۳۱ | قوت نازلہ کا حکم ۳۱ | |
| حضرت اور تقویٰ کا اہتمام ۳۱ | ۳۱ | سیاسی لوگوں کے نئے طریقے ۳۱ | |
| جدت بھی ایک آفت ہے ۳۲ | ۳۲ | آج کل کے لیڈر اور قرآن و حدیث ۳۲ | |
| تصوف کی پہلی شرط اسلام ہے ۳۲ | ۳۲ | صلح حدیبیہ کے واقعہ سے خلاط استدلال ۳۲ | |
| ایک بندو کی حضرت گنگوہی سے بیعت درخواست ۳۲ | ۳۲ | آج کل کے مجرم عالم ۳۲ | |
| گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا سوال ۳۵ | ۳۳ | قدم اٹھانے سے پہلے مظلوب متعین ہونا ۳۳ | |
| تدفین کے لئے نماز جمعہ کا انتظار نہ کریں ۳۵ | ۳۳ | ایک ہی جلسہ میں خدا کے رستے پر لگاؤ دینا ۳۳ | |

| عنوان | صفحہ نمبر | عنوان | صفحہ نمبر |
|---|--|---|---|
| رمضان المبارک کے فضائل و حقوق ۵۶ | مسجد کے معاملہ میں مسلمان کی مخالفت ۲۵ | رمضان المبارک میں معا�ی ۵۶ | دین کی غیرت اور حق پرستی کا عجیب واقعہ ۲۵ |
| سے بچنے کا خاص اہتمام ۵۶ | حضرت اور نو مسلم بھلی کا جھوننا پانی پینا ۲۵ | کامل کی صحبت سے ہمت پیدا ہوتی ہے ۵۶ | اپنے ایمان پر ناز نہیں شکر ہونا چاہیے ۲۵ |
| نفس اور اخلاق ذمیس ۵۷ | حضرت کے وعظ محسن اسلام کا فتح علم ۳۹ | معا�ی سے نجوست اور تلکت کی دلیل نقی ۵۸ | بدنہی کا کوئی علاج نہیں ۵۰ |
| حقوق واجہہ کا ترک اور نوافل کا اہتمام ۵۹ | ایک خاتون کا خط اور درخواست بیعت ۵۰ | آج کل کی دروسی دوپیسہ کی ۵۹ | پیری کرنا بھی مشکل ہے ۵۰ |
| طریق کی دشواری اور مسئلہ اختیاری وغیراختیاری ۶۰ | پیر کے نام کے مطابق اسم باری تعالیٰ تلاش کرنا ۵۰ | اسلام کی نشأۃ ثانیۃ ۶۱ | شجاع رحمدل ہوتا ہے اور بزول بے رحم ۵۱ |
| شادی کے بعد سرال سے تعلق بڑھانے میں اعتدال ۶۲ | تحریک خلافت میں دشمنی کے واقعات سے باطنی فتح ۵۱ | خانقاہ تھانہ جھون کی فتوں سے دوری ۶۳ | ترک موالات ۵۲ |
| اویلیاء پرہیزت اعمال کا انکشاف ۶۳ | ابتکاع اور انتظام کا فقدان ۵۳ | دارد کی مخالفت ۶۳ | تذبذب کی حالت میں جان دینا جائز نہیں ۵۲ |
| فلان کافلان کی نسبت سلب کرنا ۶۴ | سلطنت کو ظلم سے زوال ہونا ۵۳ | کیفیات اور اعمال کا فرق ۶۵ | سیاسی تحریکوں کے زمانے میں ۶۴ |
| بعدی اور ان کی محنت و مجاہدہ ۶۶ | دینی مقتداؤں کی حالت ۵۴ | عارفین کو عبادات کی لذت سے بے تو جبی ۶۷ | خیر القرون کا سوادا عظیم مراد ہے ۵۴ |
| جو ابادت میں سائل کی مہماںگ کی رعایت کرنا ۶۷ | امور تکوپیہ اور مجذوب ۵۵ | | رمضان کی برکت کا احساس ۵۵ |

| عنوان | صفحہ نمبر | عنوان | صفحہ نمبر |
|--|-----------|--|-----------|
| فقہا کے دلائل کی مثال | ۷۵ | حضرتؐ کی درستی یاد رستی | ۶۷ |
| سفر میں حرم ساتھ ہونے کی حکمت | ۷۶ | آیت میں مجاہدہ سے کیا مراد ہے؟ | ۶۸ |
| ایک ہندو کے نکتے | ۷۶ | قرض کی یادداشت کیلئے ایک کاپی | ۶۹ |
| ایک مولوی صاحب کو حضرتؐ کا لطیف جواب | ۷۷ | سوادِ اعظم میں نور شریعت ہونا ضروری ہے | ۷۰ |
| موت کے وقت سب سے خطرہ کی چیز | ۷۷ | اپنے رنج کا اظہار جائز ہے | ۷۰ |
| خاص سفارش کو پسند نہ کرنا | ۷۸ | فقہی سوال و جواب کے لئے اتفاق کی ضرورت | ۷۰ |
| ایک گول مول خط کا جواب | ۷۸ | حضرتؐ کے یہاں قیام کی شرط سکوت | ۷۱ |
| نفس کی خباثت اور اتابائی سنت کا کید | ۷۹ | اوراد کی تبدیلی کی خواہش | ۷۱ |
| دوستوں کا خیر خواہ | ۷۹ | حضرت حاجی صاحبؒ کا قول مفت کی قد نہیں | ۷۱ |
| مستجاب الدعوات تھے | ۷۹ | اپنی مصلحت اور راحت پر عمل کرنا | ۷۲ |
| حضرت حاجیؒ کی شان عبدیت | ۷۹ | شریفہ پھل | ۷۲ |
| عبدیت کیلئے دعا کرنا کیسا ہے؟ | ۸۱ | حضرتؐ کے یہاں مزاح ہونا | ۷۳ |
| ایک صاحب کو تعلویہ دینے سے انکار | ۸۱ | خواب کی وجہ سے رجوع | ۷۳ |
| نورِ ظلمت کو مغلوب بلکہ مسلوب کر دیتا ہے | ۸۲ | ایک صاحب کے خط کا جواب | ۷۳ |
| اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کا علاج | ۸۲ | حکمتیں تلاش کرنا جدید تعلیم کا اثر ہے | ۷۳ |
| سہل چھوڑ کر مشقت اختیار کرنا حماقت ہے | ۸۲ | ایک صاحب کا لایعنی خط | ۷۴ |
| آج کل کی خوش اخلاقی اور حضرتؐ کی داروں کیر | ۸۳ | حضرات انبیاء علیہم السلام کا صبر | ۷۴ |
| عدم مناسبت جدائی کا سبب بُتی ہے | ۸۳ | الغاظ کی رسم | ۷۴ |
| ایک مرید صاحب کا خط | ۸۴ | اپنے بزرگوں کی جو تیوں کا صدقہ | ۷۴ |
| ایک تووارو پر موافقہ | ۸۴ | چھتیں کوں یعنی اڑتا لیں میں | ۷۵ |

| عنوان | صفحہ نمبر | عنوان | صفحہ نمبر |
|---|-----------|---|-----------|
| حضرت کی تواضع اور تصرف و کرامت کے نہ ہونے پر اظہار لشکر | ۸۵ | سچ بولنا آسان ہوتا ہے | ۸۵ |
| ۹۸ | | دعا سے زیادہ کوئی وظیفہ موثر نہیں | ۸۵ |
| اوہ دکا ہونا بھی اور نہ ہونا بھی حکمت ہے | ۸۶ | ذکر میں مزہ ن آتا | ۸۶ |
| ۹۸ | | ایک صاحب کی گستاخی اور پھر معافی | ۸۷ |
| حضرتؐ کے عقدتائی کا واقعہ مدرسہ دیوبند اور حضرتؐ کی | ۸۷ | اصلاح، اصلاح کے طریقہ سے ہوتی ہے | ۸۸ |
| ۹۹ | | ذکر قلبی افضل ہے یا ذکر لسانی؟ | ۸۹ |
| زمانہ طالب علمی کا امتحان | ۸۹ | ذکر کے وقت تصور ذات | ۸۹ |
| برڈی مجلس میں مجمع کے حقوق ہوتے ہیں | ۹۰ | بدعتی اور تکلیف سازی | ۹۰ |
| ۱۰۲ | | نسبت اور پیر پر اختراض | ۹۰ |
| کیفیات کا نہ ہونا بھی موجب رحمت ہے | ۹۰ | حضرت سید احمد شہیدؒ اور شرک فی النبوت | ۹۱ |
| آج کل کے لیڈر اور سیاسی تحریکات کے بارے میں حضرتؐ کا تفصیلی نقطہ نظر | ۹۱ | حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کی ایک عبارت | ۹۱ |
| ۱۰۲ | | اسباب کی ضرورت اور ضعف طبعی | ۹۲ |
| سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے لفظ سے کراہت | ۹۲ | کرامت کی حقیقت | ۹۲ |
| سورہ یس کی فضیلت پر ایک شبکہ کا جواب | ۹۳ | فقیہی مسائل میں لوگوں کی دلیری | ۹۳ |
| حدیث انجی مسن الایمان کا مطلب | ۹۳ | عاشق ہمیشہ نامراہی رہتا ہے | ۹۳ |
| ۱۲۷ | | امور تکویدیہ بجز و بین کے پروردگری میں حکمت | ۹۴ |
| کلام بضرورت ہونا چاہیے | ۹۴ | وعظ کے اندر روانی نہ ہونا بھی حکمت ہے | ۹۵ |
| ۱۲۸ | | دوہی طبقے حکماء کہلانے کے متىق ہیں | ۹۶ |
| آج کل کی خوش اخلاقی | ۹۶ | دارالعلوم دیوبند کے قرن اول کا حال | ۹۶ |
| ۱۲۹ | | طلباں کی تحریکات میں شرکت کے نتائج | ۹۶ |
| عورتوں کی عفت اور پرده کی فطری ضرورت | ۹۵ | | |
| ۱۳۰ | | | |
| اپنے خط کی اصلاح بھی دین میں داخل ہے | ۹۶ | | |
| ۱۳۱ | | | |
| باشویک پارٹی | ۹۶ | | |
| ۱۳۲ | | | |
| اور اک حق کی مختلف صورتیں۔ | ۹۶ | | |

| عنوان | صفحہ نمبر | عنوان | صفحہ نمبر |
|---|-----------|--|-----------|
| حضرت پر تہمت اور حضرت کے چند مواعظ ۱۳۳ | ۱۳۲ | سادگی اور تضع | |
| صاحب حال کو حال پر عمل کرنے سے شد و کنا ۱۳۵ | ۱۳۳ | ایک بزم خود عالم شخص کا حال | |
| مریدی کی نجات کے لئے کافی نہیں ۱۳۵ | | غیر محقق پیر کے مریدوں کی | |
| ایک ہندو کور وک نوک کا فائدہ ۱۳۵ | ۱۳۳ | اصلاح میں مشکل ہوتی ہے | |
| "کیا میں جاسکتا ہوں" کا محاورہ ۱۳۶ | ۱۳۴ | اپنے بچے کو عربی پڑھاؤ یا انگریزی؟ | |
| اقضائے طبعی کی وجہ سے عمل صالح کا ۱۳۶ | | دارس کے طلباء پر ایک صاحب | |
| حدود رابعہ ثواب ہے ۱۳۶ | ۱۳۵ | کے اعتراض کا جواب | |
| بعض جگہ سکوت بھی عبادت ہے ۱۳۶ | ۱۳۵ | سب سے ہر امجادہ کامل کے سامنے ہٹا ہے | |
| حضرت کے یہاں دوسرے کے ۱۳۶ | | یہاں تا انگریزی کی پالیسی ہے نفاری کی پالیسی | |
| احوال باطنی کی رعایت ۱۳۶ | ۱۳۸ | اکثر مشائخ کے مترین کا حال | |
| بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا کا مطلب ۱۳۶ | | حضرت حاجی صاحب کے انتقال | |
| حضرت کی نظر ۱۳۹ | ۱۳۸ | پر حضرت گنگوہی کی حالت | |
| یہ طریق بہت ہی نازک ہے ۱۵۰ | ۱۳۹ | قرآن مجید کو بوسہ دینا | |
| اس طریق میں قیل و قال سے کام نہیں چلتا ۱۵۰ | ۱۳۹ | آیت ولله العزة ولرسول وللمؤمنین کا مطلب | |
| بڑوں کے دل میں چھوٹوں کی محبت و شفقت ۱۵۰ | ۱۳۹ | سب بزرگوں کی جو یوں کا صدقہ ہے | |
| ذکر میں زبان کی طرف توجہ ۱۵۲ | | خانقاہ تھا نہ بھون اور حضرت | |
| اشغال کچھ نہیں اصل اعمال ہیں ۱۵۲ | ۱۳۹ | حاجی صاحب کی نشت | |
| بزرگوں کی زندہ ولی اور آجکل کا وقار ۱۵۲ | | استغناہ اور کبر میں فرق معلوم | |
| تنظیم کا طریقہ ۱۵۳ | ۱۳۲ | کرنے کا آسان طریقہ | |
| فضول علمی تحقیقات اور عمل سے غفلت ۱۵۳ | ۱۳۲ | اصل کمال کا استغناہ اور سریڈ کے دو واقعے | |
| نمایا جا حصہ بھی بڑی دولت ہے ۱۵۳ | ۱۳۳ | کام پرداز کرنے سے پہلے اہلیت کی تحقیق | |

| عنوان | عنوان |
|--|---|
| صفحہ نمبر | صفحہ نمبر |
| شیخ کی طرف دیکھنے کا طریقہ ۱۶۷ | شیخ سے اپنی چیز استعمال کرو اکے تبرک کرنا ۱۵۵ |
| صاحب کشف کو کسی بھی وقت کشف ہو سکتا ہے ۱۶۷ | حضرت حاجی صاحبؒ کی شان عبدالیت ۱۵۵ |
| ایک صاحب کی ایک روپیہ میں ۱۶۸ | خوف و شکر کو جمع کرنا ۱۵۵ |
| خلافت لینے کی خواہش ۱۶۸ | ہمارے کمالات کی حقیقت ۱۵۵ |
| مکمل و مدلل بزرگ کا الطیف ۱۶۸ | سالک کی حالت خوف و رجاء ۱۵۵ |
| ایک شخص کا خط حضرت حاجی صاحبؒ کے نام ۱۶۸ | ذوق سلیم پیدا کرنے کا طریقہ ۱۵۵ |
| اپنے شیخ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے؟ ۱۶۹ | بعض حضرات سے عدم مناسبت کے واقعات ۱۵۸ |
| ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود لوگ کا حضرت سے پہنچا ۱۶۹ | اپنی اصلاح کے طریقے سوچنے رہنا ۱۵۹ |
| مشورے مانگنے والے کو حضرتؒ کا جواب ۱۷۰ | حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کی |
| ایک صاحب کو اپنے اندر حسد کا شہر ۱۷۰ | اپنے شیخ کے سامنے فناستیں ۱۵۹ |
| طیبیب کے پاس خود جانا ۱۷۰ | یہاڑہ کر بے فکر ہوتا اور حضرتؒ |
| ملازموں سے تعلق ۱۷۰ | کی اپنے بارے میں رائے ۱۶۰ |
| خانقاہ کی ہربیات زرالی و لکش ۱۷۱ | دوسروں کے حقوق کی گہری رعایتیں ۱۶۱ |
| لوگوں کی روایات سے متاثر نہ ہونا ۱۷۲ | بد فہمی اور بد عقلی کا کوئی علاج نہیں ۱۶۲ |
| بڑوں کو حوصلہ ہوتا ہے ۱۷۳ | آنیوالوں کے قدموں کی |
| ظاہری تعظیم سے کیا ہوتا ہے ۱۷۳ | زیارت کو باعث نجات سمجھنا ۱۶۲ |
| گلستان بوستان جیسی کتابوں کی برکت ۱۷۴ | ایک بعدی کا قول ۱۶۵ |
| اپنے اور دوسرے پر بوجھنہاًانا ۱۷۵ | مرتد کے بیہاں چوری ۱۶۵ |
| مسلسل کام کی برکت اور حضرتؒ کا تممول ۱۷۵ | ائنسیں پر سامان کا وزن کرنے میں تسلی ۱۶۵ |
| خط کے جواب میں تاخیر نہ کرنا ۱۷۶ | ایک صاحب کی حاضری کیلئے نگران کی شرط ۱۶۶ |

| عنوان | صفحہ نمبر | عنوان | صفحہ نمبر |
|--|--|-------|-----------|
| کا خرچے برداشت کرنا ۱۹۲ | دوسروں کو آزا اور کھانا، خاص مشورہ تدینا ۱۷۶ | | |
| مسلمانوں کو اپنی دولت کی خبریں ۱۹۲ | پرانی باتیں پرانے لوگ ۱۷۷ | | |
| مختلف مسائل جمع کرنے پر حضرت کا لطیف جواب ۱۹۳ | شیخ محقق کی تعلیم کا طریقہ ۱۷۸ | | |
| بجمل سوال کی تشقیح ۱۹۳ | گھر میں پکار کر داخل ہونا چاہیے ۱۷۹ | | |
| علماء کے احترام کی حقائق ۱۹۴ | دوسرے کو کام پر مجبور نہ کرنا ۱۷۹ | | |
| قیمتی اشیاء کے استعمال سے احتراز ۱۹۵ | فرقہ واریت کا نقصان ۱۸۰ | | |
| حضرت گی زندگی اور واقعات سے متعلق دو خواب ۱۹۵ | اور حضرت حاجی صاحبؒ کی فیصلت ۱۸۰ | | |
| اعتكاف اور رجع کا مرض ۱۹۵ | طریق کی حقیقت سے بے خبری ۱۸۰ | | |
| تعویذوں کی فرمائش سے گھبراہٹ ۱۹۷ | عبدات میں جی نہ لگنا ۱۸۲ | | |
| ایک صاحب سے قیامِ تھانہ بھون کی وجہ دریافت ۱۹۷ | قوتِ ایمانی کے کر شے ۱۸۳ | | |
| کام خود کرنا آسان کرنا مشکل ۱۹۸ | پہلے کام شروع کرو پھر سہولت ہوگی ۱۸۳ | | |
| ترجمہ ترجیح نہ معلوم ہو؟ ۱۹۸ | تمام مجاہدات و اشغال کا مقصود ۱۸۳ | | |
| ہر عمل پر آمادہ ہو جانا شرط اول ہے ۱۹۸ | آج کل کے تعلیم یافت ۱۸۵ | | |
| تواضع کے ساتھ تکبر کا علاج ۱۹۹ | اہل ظاہر کو تقلید سے عار ۱۸۸ | | |
| شیخ کی خدمت میں ایک خاص مدت تک رہنا ۲۰۰ | لحاظ کر شوائے کو مزید دبانے کا مرض ۱۸۹ | | |
| اس طریق میں مناسبت بڑی چیز ہے ۲۰۰ | آج کل اخلاق کے معنی کیا ہیں ۱۸۹ | | |
| ممکن ہے کہ شیخ کے پیر سے مناسبت نہ ہو ۲۰۱ | غیر مقلدین میں بدگمانی کا مرض ۱۸۹ | | |
| یا جو جن ماجون کا حال ۲۰۱ | اب ہر شخص مجتهد ہے ۱۹۰ | | |
| آئینہ میں تصویرِ نظر نہیں آتی ۲۰۲ | ایک صاحب کا سلیقہ کا خط ۱۹۱ | | |
| آرام کے وقت دوسرے کو تکلیف دینا ۲۰۲ | بد خطی کا جواب ۱۹۱ | | |
| کتاب دیکھ کر وعظ کہنے کا معمول ۲۰۳ | حضرت کا بعض حالات میں خط و کتابت ۱۹۱ | | |

| عنوان | صفحہ نمبر | عنوان | صفحہ نمبر |
|--|-----------|--|-----------|
| حضرت گنگوہی اور احمد رضا خان ۲۱۵ | ۲۰۳ | پیش کرو و عطا کہنا ۲۰۳ | ۲۱۵ |
| خشوع کے حاصل کرنے کا طریقہ ۲۱۶ | ۲۰۳ | حضرت اور امور تکمیلی سے عدم مناسبت ۲۰۳ | ۲۱۶ |
| فاتحہ خلف الامام نہ جہری میں نہ سری میں ۲۱۷ | ۲۰۳ | ابن عربی کے زندیک شیخ کی صفات ۲۰۳ | ۲۱۷ |
| مسریزم کے چند کرشمے ۲۱۸ | ۲۰۵ | حضرت حاجی صاحبؒ کی وجہ سے اتحاد ۲۰۵ | ۲۱۸ |
| امام صاحبؒ کی تکمیل مسلم میں احتیاط اور زبان ۲۱۸ | ۲۰۵ | احصل خانقاہ کو ایک دوسرے سے محبت ۲۰۵ | ۲۱۸ |
| کرامت است دراج میں فرق ۲۱۹ | ۲۰۵ | دنیاوی معاملات میں لوگوں کو مشورہ نہ دینے کی وجہ ۲۰۵ | ۲۱۹ |
| حضرت شاہ ولی اللہ کا قول شیخ اقر کے بارے میں ۲۲۰ | ۲۰۶ | بغیر فکر اصلاح کے شیخ کے پاس قیام بیکار ہے ۲۰۶ | ۲۲۰ |
| خلف فی الوعید بھی ممتنع ہے ۲۲۰ | ۲۰۶ | حضرتؒ کی بیعت کا واقعہ ۲۰۶ | ۲۲۰ |
| رخصتوں پر عمل ۲۲۰ | ۲۰۷ | حضرت گنگوہی اور حضرت تھانویؒ ۲۰۷ | ۲۲۰ |
| سماں اور اس کے نفسانی اثرات کی تحقیق ۲۲۱ | ۲۰۷ | حضرت گنگوہیؒ سے طبعی مناسبت ۲۰۷ | ۲۲۱ |
| پکی ہائڈی کا سورتا مشکل ہے ۲۲۳ | ۲۰۸ | حضرت حاجی صاحبؒ کے ۲۰۸ | ۲۲۳ |
| تمن کتابیں لمبیں ۲۲۳ | ۲۰۸ | یہاں ظاہری محاسبہ نہ تھا ۲۰۸ | ۲۲۳ |
| صرف ذات یاری کا آتصور ۲۲۳ | ۲۰۸ | حضرتؒ اور محاسبہ ۲۰۸ | ۲۲۳ |
| عین ہونے کے معنی ۲۲۳ | ۲۰۸ | غیر مقلدی کا انجام مرسکشی اور گستاخی ۲۰۸ | ۲۲۳ |
| حضرت حاجی صاحبؒ اور علوم طریق کا اظہار ۲۲۳ | ۲۰۹ | مجذوب اور بجنون میں امتیاز ۲۰۹ | ۲۲۳ |
| وسوہ کیا ہے؟ ۲۲۳ | ۲۱۱ | حضرتؒ کی زندگی میں حضرتؒ کی کتابوں پھیل جانا ۲۱۱ | ۲۲۳ |
| بزرگوں کے خطوط میں اشعار خلاف ادب ۲۲۴ | ۲۱۲ | مسلمانوں کے دوزخ میں جانے کی صورت ۲۱۲ | ۲۲۴ |
| حضرتؒ اور توجہ اصطلاحی ۲۲۵ | ۲۱۳ | آج کل کے لیدر اور شہرت مال کا نشر ۲۱۳ | ۲۲۵ |
| تفسیر اور تفسیف سے زیادہ مناسبت ۲۲۵ | ۲۱۳ | اعمال حسن کے اندر ابتداء میں نیت کر لینا کافی ہے ۲۱۳ | ۲۲۵ |
| حقوق شیخ کا آسان خلاصہ ۲۲۵ | ۲۱۳ | ملکات رذیلہ اپنی ذات میں مددوم نہیں ۲۱۳ | ۲۲۵ |
| حضرتؒ اور مجدد وقت ۲۲۵ | ۲۱۵ | ایک صاحب کو پیشین گوئیوں کا مرض ۲۱۵ | ۲۲۵ |

| عنوان | صفحہ نمبر | عنوان | صفحہ نمبر |
|--|---|--|---|
| یہ بے پر دلگی کے حامی ۲۳۲ | قطب الگوین، قطب الارشاد اور قطب الاقطاب ۲۲۵ | ۲۳۳ | انبیاء کی معصیت طاعت ہوتی ہے ۲۲۶ |
| محبت کا بدل ۲۳۳ | معاصی کے مدارک کا طریقہ ۲۲۷ | شورش عشقی کا پیش آنا ۲۳۳ | سلف کی عظمت سے دین قائم ہے ۲۲۸ |
| شریعت و طریقت کے جامع کیلئے مشکل ہے ۲۳۴ | بعض اوقات ماضی پر افسوس جواب ہو جاتا ہے ۲۲۹ | علم غیب سے متعلق ایک سوال کا جواب ۲۳۴ | ایک مولوی صاحب کی مفصل |
| خواب اور تعبیر ۲۳۴ | حالت اور حضرتؐ کی تشخیص ۲۲۷ | مدرسہ کی سند سے متعلق حضرت مولانا ۲۳۵ | ایک نظر میں کامیابی کی توقع ۲۲۸ |
| محمد یعقوبؓ سے درخواست ۲۳۵ | حضرت کی تسلی کا اثر ۲۲۸ | نہر کی کمی کا مطلب ۲۳۶ | احیاء احکوم کے باب الخوف کا مطالعہ کرنے کیلئے ۲۲۸ |
| تحریک خلافت میں حضرتؐ پر بہتان ۲۳۶ | حضرت کی سختیاں آسانی کا پیش خیم ۲۲۹ | ملازم میں کی راحت کی فکر ۲۳۷ | اطیف کھاتا زیادہ سرٹا ہے ۲۲۹ |
| اپنے کو بڑا سمجھتے پر قہر الہی نازل ہونا ۲۳۷ | مناسب عنوان اختیار کرنا ضروری ہے ۲۲۹ | اویاء اللہ کو تکلیف پہنچانے پر انقام ۲۳۷ | بلکہ مسلمان، مسلمان نہ ہے ۲۳۰ |
| تفیر دیکھ کر جواب دینا ۲۳۷ | حضرتؐ کی تسبیح ۲۳۰ | سوال کا سلیقہ ۲۳۸ | جسہ شریف کی رسمیں ۲۳۰ |
| مقصود کے لئے صرف شخص سے تعلق رکھنا چاہیے ۲۳۸ | مسجدہ تعظیمی کی حرمت ۲۳۱ | جبلا اوصوفی اور آیت روح کی تفسیر ۲۳۸ | غلیظہ حال کے وقت کا عمل ۲۳۱ |
| جبلا کو اتنا ترنہ ہونا چاہیے ۲۳۹ | ایک عجیب شعر ۲۳۱ | کفار کے سود کا حکم ۲۳۹ | ظہور اور حلول میں فرق ۲۳۲ |
| اوہ راحت رسانی کا نام ہے ۲۴۰ | ۲۳۲ | | |

| عنوان | صفحہ نمبر | عنوان | صفحہ نمبر |
|--|--|-------|-----------|
| ۲۲۷ تیج اللہ کی یادوں ہے جو فکر اصلاح کے ساتھ ہو | ۲۳۰ قبول دعا کرامت نہیں | | |
| ۲۲۷ نفع کا مدار مناسبت پر ہے | ۲۳۰ حضرت شاہ فضل رحمن حنفی مراؤ | | |
| ۲۲۸ اچھا کھانا اچھا پہننا خود مذموم نہیں | ۲۳۲ حضرت سلیم چشتی اور جہانگری | | |
| ۲۲۸ والدین اور بپول کی تربیت | ۲۳۲ صوفیہ کے تذکرہ سے قلب میں حرارت پیدا ہونا | | |
| ۲۲۹ غیر مقلدا اور بد تہذیبی | شیعوں کے ایک مسئلہ پر | | |
| مبتدی کو مختلف بزرگوں کے پاس | ۲۳۳ حضرت نانو توی کی ظرافت | | |
| ۲۲۹ پیشتنا مناسب نہیں | ۲۳۳ سردی میں رسائل رات کو نہ کھانا | | |
| ۲۵۰ بیکاری سب خرایوں کی بڑی | ۲۳۳ مشائخ کے ترکہ کے تحریکات میں ورثاء کا حق | | |
| ماسوی اللہ سے قلب کو خالی کرنے | ۲۳۳ زکوٰۃ کی رقم اور اہل مدارس | | |
| ۲۵۰ کا مطلب اور طریقہ | ۲۳۳ کلید مشنوی میں چند چیزوں کا التزام | | |
| ۲۵۱ عشق اکحال اور ان کے عذر کی تحقیق | ۲۳۳ حدیث جبریل کا ایک جملہ | | |
| وساوس کو نفع کرنے کی طرف متوجہ ہونا ضرور ہے | ۲۳۳ مشنوی سے استفادہ کا طریقہ | | |
| اپنی خواہش کے مطابق اپنی حالت | ۲۳۳ تو اضع کے بغیر طریقہ بے کار ہے | | |
| ۲۵۲ کی طلب عبدیت کے خلاف ہے | ۲۳۵ حصول تواضع کا طریقہ | | |
| ۲۵۲ کیفیات لذیذ ہیں مگر مقصود نہیں | ۲۳۵ اپنی اصلاح کی طرف توجہ سے سرت | | |
| ۲۵۲ کیفیات نفسانی و روحانی کا معیار | ۲۳۵ اظہار عیوب میں شیش سے شرمنے کی وجہ | | |
| ۲۵۲ کیفیات کو قرب میں داخل نہ ہونے کی مثال | ۲۳۶ اصلاحی خطوط کا مطالعہ | | |
| ۲۵۲ ایک نووار دمولوی صاحب پر مواجهہ | ۲۳۶ حدیث من صلی اللہ علیہ وسلم اکل ذبحیتا سے ایک اشارہ | | |
| ۲۵۶ عارفین کی نظر | ۲۳۶ امراض کے علاج کا طریقہ | | |
| ۲۵۷ تقویض کی حقیقت اور دعا کا وجوب | ۲۳۷ علم بھی بڑی نعمت ہے | | |

| عنوان | صفحہ نمبر | عنوان | صفحہ نمبر |
|--|-----------|--|---|
| حضرت ناٹو توی حضرت حاجی صاحب کی زبان تھے ۲۶۶ | ۲۵۷ | مبدی اور فتنی حالتوں میں مشابہت ۲۵۹ | ۲۵۷ اشغال و مجاہدات صوفی بدعۃ نہیں ۲۶۰ |
| ایک شخص کی اذہوری بات پر موافق ۲۶۶ | ۲۶۰ | حق تعالیٰ حاکم بھی چیز حکیم بھی ۲۶۰ | ۲۶۰ اس راہ میں مت کریں کچھ ملتا ہے ۲۶۱ |
| بے روزگاری کے لئے وظیف ۲۶۷ | ۲۶۱ | استعداد کرنے والوں میں پیدا ہوتی ہے ۲۶۱ | ۲۶۱ وجہ کی تعریف اور روتانہ آنے ۲۶۲ |
| عطاء خداوندی کے لئے طلب شرط ہے ۲۶۷ | ۲۶۲ | پرافسوں ہوتا روتا ہے ۲۶۲ | ۲۶۲ جمال صوفیہ اور کوہ مغربی ۲۶۳ |
| کلام الہی کی عظمت و جمال ۲۶۸ | ۲۶۳ | روزہ میں اگر بتی کی خوبی سوچتا ۲۶۳ | ۲۶۳ آج کل کے مصنفوں ۲۶۴ |
| امراض باطنی سے بچنے کی بڑی تدبیر ۲۶۸ | ۲۶۴ | پہلے کتاب کا نام دیکھو ۲۶۴ | ۲۶۴ سہو و تیان اور حسد و عیب جوئی ۲۶۵ |
| علماء کو عوام کا تائیخ نہیں بنانا چاہیے ۲۶۹ | ۲۶۵ | ایک شخص کے جواب کیلئے دھمکی ۲۶۵ | ۲۶۵ اصلاح طالب سے چشم پوشی خیانت ہے ۲۶۶ |
| بڑی اور حضرت حاجی صاحب کا معمول ۲۷۱ | ۲۶۶ | مصائب کے وقت بڑے گناہ کو سوچتا ۲۶۶ | ۲۶۶ مصائب کے وقت بڑے گناہ کو سوچتا ۲۶۷ |
| میر منصب علی کا شیعہ سے سنبھال ہوتا ۲۷۲ | ۲۶۷ | ایک اطیفہ ۲۶۷ | ۲۶۷ ایک عورت کے عاشق کے خط کا جواب ۲۶۸ |
| بزرگوں کے بیہاں لذائذ کا استعمال ۲۷۳ | ۲۶۸ | رخصتوں پر عمل ۲۶۸ | ۲۶۸ واعظ کے لئے بعمل ہونا شرط نہیں ۲۶۹ |
| حضرت حاجی صاحب اور وحدۃ الوجود ۲۷۳ | ۲۶۹ | ایک مولوی صاحب کے بے اصول سوال پر گرفت ۲۶۹ | ۲۶۹ |
| طریق اور منصود میں فرق ملاحظہ رکھنا ۲۷۷ | ۲۷۰ | | |
| ایک شاہ صاحب جنت سے استغناہ طاہر گرنا ۲۷۸ | ۲۷۰ | | |
| دل سے سارے خطرات کو نکالنے کی ۲۷۸ | ۲۷۱ | | |
| کوشش کی ایک عجیب مثال ۲۷۸ | ۲۷۱ | | |
| حضرت کا تیرسے درجہ میں سفر کرنا ۲۷۸ | ۲۷۲ | | |
| فرست کلاس میں سفر کرتے ہوئے ۲۷۹ | ۲۷۲ | | |
| ایک صاحب کا واقعہ ۲۷۹ | ۲۷۳ | | |
| ایک انگریز کے ساتھ سفر کا واقعہ ۲۸۰ | ۲۷۳ | | |

| عنوان | صفحہ نمبر | عنوان | صفحہ نمبر |
|---|--|-------|-----------|
| جبوت آدم سے متعلق کچھ تفہیمی نکات ۲۹۰ | غیر مسلموں کی نتحقیر نہ احترام ۲۸۱ | | |
| علماء دین بند کی شان ۲۹۲ | لکمال دکھانے پر ایک انگریز کا شکریہ ۲۸۱ | | |
| توبیدنیاوم کے لئے مریض کو لانا افضل ہے ۲۹۲ | بلا ضرورت اور کے درجہ میں سفر نہ کرنا چاہیے ۲۸۱ | | |
| ایک صاحب کا مجیب یہ ہو وہ سوال ۲۹۲ | تفوییۃ الائیمان کی ایک عبارت ۲۸۲ | | |
| ایک صاحب کے نامناسب طرزِ عمل پر موافق ۲۹۳ | حضرت مولانا اشرف علی خاں ۲۸۳ | | |
| اپنے موافقہ اور ان کی حرکت پر اظہار رنج ۲۹۵ | ہندوستان میں شیعوں کا اثر ۲۸۳ | | |
| کانے بجائی والوں کا حضرت پر غصہ ۲۹۷ | حضرت علیؑ کے ساتھ کرم اللہ و جہاد لکھنے کی وجہ ۲۸۳ | | |
| حضرتؓ کے چھوٹے بھائی کی شادی کا حال ۲۹۷ | حسین بن مظہور علیؑ پر غلبہ حال ۲۸۴ | | |
| حضرتؓ کا اپنی علاقی بھیشیرہ کی ۲۹۹ | حلانؒ کی وجہ تسمیہ ۲۸۵ | | |
| شادی میں شرکت نہ کرتا ۲۹۹ | حقیقت تصوف کا اظہار اور مسئلہ وحدۃ الوجود ۲۸۵ | | |
| ایک ریس کے لڑ کے ختنہ کی تقریب میں ۳۰۰ | بیعت کو تعلیم پر ترجیح دینا کم فہمی ہے ۲۸۶ | | |
| حضرتؓ کی عدم شرکت ۳۰۰ | نقع عام یا نقع تام ۲۸۷ | | |
| حضرتؓ سہار پوری کی توبیہ ۳۰۰ | کون سماز اح محنت ہے؟ ۲۸۷ | | |
| حضرت شیخ الہندؒ کا فرمان ۳۰۰ | تسخیر اور اسہز اور برادری میں ۲۸۷ | | |
| ریت سے حروفِ نہج کرتا ۳۰۵ | اللہ کرے کا مفہوم حضرت گنگوہی سے ۲۸۸ | | |
| دوسروں کی گرفتاری کی ردعایت فرماتا ۳۰۵ | ایک ابنِ وقت شخص کی شاگردی ۲۸۸ | | |
| حضرت گنگوہی کی اپنے بارے میں قسم ۳۰۶ | رفائلی اور مداری کی نسبت ۲۸۸ | | |
| اپنے بزرگوں کے متولیین ۳۰۶ | اولیاء اللہ اور نبیت موسوی نبیت موسوی ۲۸۸ | | |
| حضرت حاجی صاحبؒ کی شان تحقیق ۳۰۷ | حق کی حفاظت سے جان چڑھاتا ۲۸۸ | | |
| حضرت حاجی صاحبؒ کی تعلیم و عملی ۳۰۸ | مسلمانوں کی دینوں ترقی سے بھی خوشی ہوتا ۲۹۰ | | |

| عنوان | صفحہ نمبر | عنوان | صفحہ نمبر |
|---|--|---|--|
| اصل خجد میں وجد کی کمی اور شاہ سعید کا عذر ۳۱۸ | جامل صوفیوں کا جنت سے استغنا ۳۰۸ | جنت کی طلب نامور ہے ۳۰۸ | جامل صوفیوں کا جنت سے استغنا ۳۰۸ |
| تبرکات میں خواہ کا غلو ۳۱۹ | منظوم مناجات، میری بار کیوں دیر اتنی کرے ۳۰۸ | تصوف کا ہر راز آشکار کرو یا گیا ۳۱۹ | امبیاء، کرام اور اولیاء اللہ کے درمیان تفصیل ۳۰۸ |
| دور حاضر کے بڑے بڑے القاب و آداب ۳۲۰ | ایک مصیبت پر تین شکر ۳۱۰ | دو رحیم ۳۲۰ | ایک مصیبت پر تین شکر ۳۱۰ |
| شیخ الاسلام کا القب معروف ہے ۳۲۱ | سب مسلمان ولی ہیں ۳۱۰ | معتقدین کی افسانہ طرازیاں ۳۲۱ | ہر مسلمان میں نور ایمان ہے ۳۱۱ |
| حضرت شیخ البندگی تو اضع اور حضرت کی فنا بیت ۳۲۱ | وسووں کی مثال آئینہ پر کھی ۳۱۱ | اسپنے بارے میں کسی خاص معمول کا پابند نہ ہونا ۳۲۱ | وساویں کا اعلان ۳۱۱ |
| عمل میں سہولت پسندی اور فضول ۳۲۲ | حضرت مولانا محمد یعقوب " کو وسوہ ۳۱۱ | مدقائقات سے تغیر ۳۲۲ | ایک صاحب کی حضرت سے کتابوں کی فرمائش ۳۱۲ |
| محکمات کو سخت کرنے کی خواہش اور حضرت مولانا ۳۲۳ | طلب صادق ۳۱۲ | یعقوب صاحب کا جواب ۳۲۳ | القصیر فی الشفیر کی تسهیل ۳۱۲ |
| حضرت کے ماہ رمضان کے معمولات ۳۲۴ | سان کے توعید کے لئے عامل کا پتہ بتانا ۳۱۵ | حضرت کے اپنے معمولات کے بارے میں خیال ۳۲۴ | ہندوؤں کی خبائث اور مسلم لیڈروں کی حماقت ۳۱۵ |
| حضرت کی اپنے بارے میں ا وضع ۳۲۵ | کب حلال کے سلسلہ میں فتوی اور لغوی ۳۱۶ | حضرت کی اپنے بارے میں خواہش ۳۲۵ | واجد علی شاہ کی ظرافت ۳۱۶ |
| اپنے پیر سے مناسبت اور اس پر اعتقاد ۳۲۶ | حضرت پرناں مثول کا الزام ۳۱۷ | حضرت کے اپنے بارے میں خیال ۳۲۶ | فرنخی صورتوں کے بارے میں تجویز کرنا ۳۱۷ |
| معمولات براؤ رست مجھ سے پوچھیں ۳۲۷ | حضرت حاجی صاحب کی مقبولیت ۳۱۸ | ماہوار سال کے نام رکھنے کا مشورہ ۳۲۷ | حضرت حاجی صاحب کی مقبولیت ۳۱۸ |
| حضرت خواجہ محبین الدین چشتی کی عظمت ۳۲۸ | | | |

| صفحہ نمبر | عنوان | صفحہ نمبر | عنوان |
|-----------|---|-----------|---|
| ۳۲۲ | آج کل اجازت شیخ کی حیثیت | ۳۲۰ | شہابان اسلام کو مورخین نے بدمام کیا ہے |
| ۳۲۳ | محبت اور مناسبت میں فرق ہے | ۳۲۱ | کتابوں کا زبانی یاد کر لیتا |
| ۳۲۴ | عامل کی تاقد ری نہ کرنا | ۳۲۲ | بزرگ شاعر بھی ہو سکتے ہیں |
| ۳۲۵ | ہدایا کی واپسی اور شان تو کل | ۳۲۳ | غیر نی کافل جنت نہیں |
| ۳۲۶ | عقلی محبت کی زیادہ ضرورت ہے | ۳۲۴ | اپنے معمولات میں دوسروں کی راحت کی تدابیر |
| ۳۲۷ | رمضان میں بیعت نہ فرمانا | ۳۲۵ | راستہ میں ساتھ ہونا |
| ۳۲۸ | اللہ کا واسطہ کے کھیر سوال | ۳۲۶ | ایک صاحب کی عرض کا لطیف جواب |
| ۳۲۹ | اس طریق کا ادب اپنی رائے کا فتا کرنا ہے | ۳۲۷ | گلرو اہتمام نظر آئے تو ناگواری نہیں ہوتی |
| ۳۳۰ | فیض شیخ کی کیفیت بیان میں نہیں آ سکتی | ۳۲۸ | شرع کی جگہ شرح |
| ۳۳۱ | عشق کے لئے ادب لازمی ہے | ۳۲۹ | اپنے متکبر ہونے کا خیال |
| ۳۳۲ | اول ہی میں تمام مرحل طے کروادینا | ۳۳۰ | انجام کا کسی کو علم نہیں |
| ۳۳۳ | چھوٹی چھوٹی باتوں میں احتیاط | ۳۳۱ | کلیات سے سوال کافی نہیں |
| ۳۳۴ | سہل علاج کی درخواست پر حضرت کا جواب | ۳۳۲ | بیعت نہ کرنے پر خود کشی کی دھمکی |
| ۳۳۵ | دوسرے کے برخیل میں کھانا کھانے میں احتیاط | ۳۳۳ | حضرت کی حالت شکر و رضا |
| ۳۳۶ | جنت کی امید پر نماز پڑھنا | ۳۳۴ | ایک غیر مقلد کے خط کا جواب |
| ۳۳۷ | صہیتم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا | ۳۳۵ | دوسرے کے معمولات کی جستجو مناسب نہیں |
| ۳۳۸ | رفیع الدین کے کمالات باطنی | ۳۳۶ | تجددی تصوف و سلوک |
| ۳۳۹ | غیر مقلدین اور ہم | ۳۳۷ | گورنمنٹ اور صوفیہ کی نگرانی |
| ۳۴۰ | ایک صاحب کی بُنگی اور وعدہ کی مخالفت کا واقعہ | ۳۳۸ | علماء بھی کم مجاہدہ نہیں کرتے |
| ۳۴۱ | حضرت مولانا عبدالحی لکھنؤی کا علمی کمال | ۳۳۹ | فن تصوف کا مجہد |

| عنوان | صفحہ نمبر | عنوان | صفحہ نمبر |
|--|--|---|--|
| رشتہ دار عورتوں سے پردہ ۳۶۲ | ۳۵۳ فن تصور کا احیاء | بچھے کرو خالی مدت رہو ۳۵۴ | |
| جب خرابی کی ابتداء ہو گی بے پردازی سے ہوگی ۳۶۳ | ۳۵۴ شخچ سے عقیدت میں کمی پر لفڑی میں کمی | ایک بیگانی طالب علم کی تھانہ بھون رہنے کی ۳۶۴ | ۳۵۴ ایک صاحب کی ناموشی پر موافقہ |
| خواہش انسان بتا مشکل ہے ۳۶۴ | ۳۵۴ حضرت اور پاؤں پکڑنے کا علاج | دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ۳۶۵ | ۳۵۴ غیر مقلدوں کا اتشددا و رساو |
| موافقہ کے وقت الجہ سخت مگر دل زرم ہوتا ہے ۳۶۵ | ۳۵۸ حضرت اور مولا نا یعقوب کی پیشین گوئی | خاموش رہنے کی شرط کا فائدہ ۳۶۵ | حضرت حاجی صاحبؒ کی نظر میں |
| حضرتؒ کی شفقت و نرمی ۳۶۶ | حیرتی مریدی کا فائدہ | طريق اصلاح کے استعمال کرنے میں مجبوری ۳۶۷ | ۳۵۹ اضولیات میں پڑنے سے فہم سخن ہو جاتا ہے |
| خین و اخذہ کرتے وقت حضرتؒ کی اپنی حالات ۳۶۷ | ۳۶۰ کام میں لگا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا | شیخ کو بھی لرزائی و ترسائی رہتا چاہیے ۳۶۸ | توجہ کے طالب ایک مولوی |
| ہدیہ میں خلوص کی ضرورت ہے فلوس کی نہیں ۳۶۹ | ۳۶۰ صاحبؒ کی درخواست معافی | ہدیہ دینے کے بھی شرائط و آداب ہیں ۳۷۰ | حضرت گندھری کی ادا خانقاہ تھانہ بھون میں |
| آج کل مولوی طماع کیوں ہونے لگے؟ ۳۷۱ | ۳۶۱ ایک مولوی صاحبؒ کے تحریفی کلمات | اب بھی رازی و غزاٹی پیدا ہو سکتے ہیں ۳۷۲ | پر حضرت کا جواب |
| آج کل کچھ پیسہ جمع کر کے رکھتا چاہیے ۳۷۲ | ۳۶۲ حق میں اطمینان قلب ہے | دین و دنیا کی مفت خوری، حضرتؒ کی توضیح ۳۷۳ | راہ سلوک میں دو چیزیں ثابت |
| غیرت کر کے تو اپنی ماں کی کرے ۳۷۳ | ۳۶۲ اور دو چیزیں راہ زن ہیں | شب قدر میں تین چیزوں کا اہتمام ۳۷۳ | |



مژده اے دل کہ میجانے می آید ☆ کہ ازانہاں خوش بوئے کے می آید
الحمد لله رہاں چیز کو خاطر مخواست ☆ آمد آخر زہس پر وہ تقدیر پدید

تمہید

مژده جانفرائے فیض جدید ☆ یعنی در شهر صوم عود العید
الایا ایها الطلاط طوبی ☆ فعود العید مستطاب

جز وے از حسن العزیز

حمد و صلوٰۃ کے بعد عرض ہے کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملک قطب الارشاد سلطان الشاخ اشرف العالماء مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب محدثنا اللہ بطور حیاتہ و افاض علیہ من شاہیب برکاتہ کے یومیہ افاصات و کلمہ طیبات یعنی ملفوظات پیشتر باوجود کسی مستقل انتظام نہ ہونے کے وقایہ فوقاً کوئی نہ کوئی ضبط کرتا رہتا تھا اور وہ ب عنوان "حسن العزیز" شائع ہوتے رہتے تھے لیکن ایک عرصہ بے یہ سلسلہ اتفاقاً بوجہ نہ ہونے کسی ضابطہ کے بند تھا جس کے سخت قلق تھا۔ بالخصوص جب کہ حضرت اقدس نے کچھ عرصہ سے بوجہ بعض عذرات و ععظ فرماتا بھی تقریباً موقوف ہی فرمادیا ہے الانادر اور اس کے بجائے صرف ملفوظات ہی پر اکتفا فرماتے ہیں جو حسب ارشاد مدد و حجۃ بوجہ

انطباق علی الحالات الجزئیہ اتفاق واقع (بوجہ شخصی) اور جزئی حالات کے مطابق ہونے کے زیادہ نافع اورقابل فہم ہوتے ہیں (۱۲) فی النفس ہوتے ہیں۔ ادھر تصنیفات کا سلسلہ بھی وجہ کثرت خطوط و نظر اصلاحی مواضع وغیرہ و ہجوم طالبین وضعف قوی برائے نامہ تھی رہ گیا ہے لنظر پڑھلات موجودہ اس کی ختن ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ضبط ملفوظات کا کوئی مستقل انتظام کیا جائے۔ کہ اب یہی ایک صورت افاضہ عام کی باقی رہ گئی ہے۔ چنانچہ حسن اتفاق سے ایک موقع خاص پر چند احباب خاص کا خانقاہ شریف میں اجتماع ہوا اور اس ضرورت شدیدہ کا تذکرہ ہو کر آپس میں ماہوار چندہ ہوا اور ایک صاحب کو جو شفقت اور بالیقد ہیں۔ ملفوظات کیلئے مقرر کر دیا گیا جنہوں نے بعض از راه خلوص اپنی شان کے خلاف فی الحال بہت قلیل معاوضہ پر قناعت فرمائی اس خدمت کو ربمان المبارک

۱۳۵۔ اے اپنے ذمہ لے لیا فجزا ہم اللہ خیرالجزاء

از عنایات قاضی حاجات ہڈا بازشہ انتظام ملفوظات
کرد حق بحر فیض باز رواں ہڈا اے خوشعود عید در رمضان

چونکہ مخلص افراد کے ماہوار چندہ سے ان افاضات یومیہ کے ضبط کا انتظام ہوا ہے اس روایت سے اس مجموعہ کا نام "الافاضات اليومیہ مک الافادات القومیہ" تجویز کیا گیا جس کے اجزاء انشاء اللہ تعالیٰ مثل دیگر مسودات ضبط شدہ بعد نظر اصلاحی حضرت القدس و قاؤ قناع حسب موقع شائع ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا مزید احسان یہ ہے کہ ساتھ کے ساتھ ان افاضات روزانہ کی اشاعت ماہانہ کا بھی انتظام رسالہ النور میں شروع ہو گیا ہے جس کے ذریعہ سے تازہ بہ تازہ ملفوظات ہدیہ مشتاقین ہوتے رہیں گے جن سے انشاء اللہ تعالیٰ غائبین کو حضوری کا حاضرین مجلس کو جو بالمشافہ بھی سن چکے ہیں۔ قند مکر کا لطف حاصل ہو گا۔ اگر خصوصیت کسی مضمون کی مقتضی ہوئی تو کچھ ملفوظات صاحب موصوف کے پاس سابق کے لکھنے ہوئے بھی موجود ہیں وہ بھی اسی سلسلہ میں شائع کر دیے جائیں گے اور بغرض احتیاز ان کے آخر میں لفظ قدیم میں القویں بڑھادیا جائے گا۔ اب آخر میں دعا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ و نعمتوال، اس سلسلہ خیر کو مدت مدید تک جاری اور اس کے منافع و برکات کو قلوب طالبین میں ساری رکھے آمین ثم آمین۔

امفتقر الی رحمۃ اللہ الصمد الاحقر حافظ جلیل احمد رئیس علی گڑھ

خازن چندہ ملفوظات، مicum خانقاہ امدادیہ تھانہ بخون ضلع منظر گرناصف شوال ۱۳۵۰ھ

نوت ۱: پہلے افاضات یومیہ کے سات حصے تھے جو کسی مصلحت کی بنا پر نہ ہونے تھے بلکہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے ہو گئے تھے اسی لئے ان کی ضخامت میں بہت فرق تھا چونکہ یہ حصوں کی تقسیم حضرتؐ کی تجویز کر دہنے تھی میری ہی کی ہوئی تھی اس لئے اب میں نے اس کل مجموعے کے دس حصے کر کے سب کی یکساں ضخامت کروئی ہے تاکہ ناظرین کو مطابعہ میں آہولت ہو۔ شبیر علی

نوت ۲: اس مرتبہ فارسی اشعار اور عربی عبارات کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ لفظی ترجمہ نہیں ہے بلکہ حاصل ترجمہ ہے اور آیات قرآنیہ کا ترجمہ تفسیر بیان القرآن سے نقل کیا گیا ہے۔

۲۷ شعبان المعظم ۱۳۵۰ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم پنجشنبہ

صحح کی مجلس خاص کا اجراء

ملفوظ ا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فرمایا! کہ صحح کو مجلس عام کی وجہ سے بے حد تعقیب ہوتا ہے جس کی برداشت نہیں۔ (اس کے قبل صحح کو بھی مجلس عام ہوتی تھی) اس لئے آج یہ سوچا ہے کہ بجائے مجلس عام کے صحح کو مجلس خاص کر دی جائے اور صورت اس کی یہ ذہن میں آتی ہے کہ جو لوگ خاص خاص ہیں جن میں اکثر اہل علم ہیں وہ اگر آکر بیٹھا کریں تو اس سے مجھ پر کوئی تعقیب نہ ہوگا اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ کہ مجمع کم ہوگا۔ جب جی چاہے گا مجلس کو ثتم کر دیا جائیگا۔ مجمع زائد نہ ہونے کی وجہ سے ختم کر دینے میں کوئی گرانی بھی نہ ہوگی۔ دوسرے یہ کہ جب مجلس عام نہ ہوگی تو جس روز طبیعت صاف نہ ہوگی یا جی نہ چاہے گا بالکل ہی موقوف رکھی جائے گی اور اس کی اطلاع اس روز کر دی جایا کرے گی اور کبھی کبھی عام بھی کر دی جایا کرے گی جب کہ طبیعت اچھی ہو آج کل طبیعت بھی خاص نہیں کہا نہیں کی وجہ سے تکلیف ہے اب ضرورت اس کی ہے کہ اس کا کوئی معیار یا اصطلاح ہوئی چاہیے جس سے یہ معلوم ہو کہ اس وقت مجلس عام ہے یا مجلس خاص۔ اس کی صورت یہ کبھی میں آتی ہے (اور احرقت صیر احمد کی طرف حضرت والا نے مناطب ہو کر فرمایا) کہ ان حضرات کے نام کی ایک فہرست بنالی جائے جو مجلس خاص میں شرکت کیا کریں گے ان کے نام میں بتاؤں گا جب میں کہوں ان کو اطلاع کر دی جائے اور مجلس عام کی اطلاع حافظ اعجاز کے ذریعہ سے ہوا کرے گی جس کی صورت

یہ ہو گی کہ وہ لوگ حافظ اعجاز سے معلوم کر لیا کریں کہ تم کو اطلاع دی گئی ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ دی گئی ہے تب تو آ جائیں اگر وہ کہیں نہیں دی گئی نہ آ کیں یہ انتظام اس وجہ سے ہے کہ کبھی بعض حضرات قیاس مع الفارق پر عمل فرمائیں۔ دوسروں کو بینھنے دیکھ کر آ کر بینھنا شروع کر دیں۔

میں چ عرض کرتا ہوں مجھ کو اس کا بھی خیال ہے کہ لوگ محبت کی وجہ سے آتے ہیں سب کے ساتھ بر تاؤ میں مساوات رہے مگر جو بات قوت سے باہر ہے اس کا کس طرح تخل کروں۔ اگر کوئی اس عدم مساوات پر بر امانے مانا کرے مجھ کو اس کی پرواہ نہیں۔ مولوی محمد حسن صاحب امر تسری عرض نے کیا کہ ہم لوگوں کو تو بہت وقت بحالت کیلئے دیا جاتا ہے جو حضرت والا کی شفقت اور محبت پرمنی ہے اگر یہ حکم دیا جائے کہ سال بھر تک دروازہ پر کھڑے رہو ایک سال کے بعد ملاقات کی اجازت ہو گی اس پر بھی ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے اور حضرت والا کا احسان ہے۔

فرمایا یہ آپ کی محبت کی بات ہے میں تو خود ہی اس قسم کی رعایت اور اس کے دقائق پیش نظر رکھتا ہوں ہاں اس کو ضرور جی چاہتا ہے کہ خدمت بھی ہوتی رہے اور کچھ وقت آرام کا بھی ملے اور مجلس عام کی صورت میں آرام نہیں مل سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی وقت انہوں جانے کو جی چاہے جمع کی رعایت سے نہیں انہوں سکتا۔

نیز بعض مرتبہ جمع کیشہ ہونے کی وجہ سے تقریر میں آواز بلند ہو جاتی ہے اور یہ امر طبعی ہے جی چاہتا ہے کہ سب سینیں جس کا اثر دیر تک دماغ پر رہتا ہے یہ بھی ایک تکلیف ہے باقی ملکوم بن کر رہے کو تو جی گوار نہیں کرتا۔ ظہر کے بعد کا وقت عشر تک بھی مجلس کے لئے پچھ کم نہیں کافی وقت ہے۔ فرمایا کہ مولوی صاحب ایساں پر شروع میں جس وقت آئے تھے اس وقت سے یہ صحیح کی مجلس کی رسم قائم ہو گئی ان کی رعایت دو وجہ سے تھی ایک تو یہ کہ ان کا تعلق مولوی صاحب سے ہے یہ خیال ہوا کہ مولوی صاحب کہیں یہ خیال نہ کریں کہ ہمارے آدمی کے ساتھ بے اتفاقی کا بر تاؤ کیا دوسرا ہے ان کو خود بھی مجھ سے محبت اور تعلق ہے اور مجھے تو بحمد اللہ سب ہی کا خیال ہے مگر اب ضعف کے سب تخل نہیں۔ اس کا میرے پاس کیا علاج ہے فرمایا پیشتر رمضان المبارک میں یہ معمول تھا کہ حالات

کا پرچہ بکس میں جو کہ مدرسہ میں الگ ہے ڈالنے کی عام اجازت تھی۔ مگر اب تجیر سے معلوم ہوا کہ جن کو قلت مناسبت ہوتی ہے ان کے پرچوں سے بھی افزیت پہنچتی ہے۔ اس لئے اس مرتبہ یہ سمجھی میں آیا کہ جس پر پچھر روز سے عملدرآمد بھی ہے کہ ایسے لوگ پرچہ بھی نہ ڈال کریں۔ مناطقیت مکاتبہ دونوں بندریں بلکہ چند روز خاموش مجلس میں پیشے رہیں اور جس وقت مناسبت پیدا ہو جائے اس وقت اس فتح کا سلسلہ زبانی یا تحریری اختیار کریں تو مفہماً لفڑیں مگر پیشتر مناسبت پیدا کر لیں جس پر لفڑ کا انحصار ہے۔ اس صورت میں کام بھی ہو جائے گا اور کلفت بھی طرفین میں سے کسی کو نہ ہوگی۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کام بھی کم ہو جائیگا اب زیادہ کام کی برداشت بھی نہیں ضرورت کے لحاظ سے اور بہت سے تجربوں کے بعد یہاں پر قواعد مرتب ہوتے ہیں ان قواعد سے طرفین کی راحت رسانی مقصود ہوتی ہے خدا تھوڑی حکومت تھوڑا ہی مقصود ہے اور جیسا مجھے دوسروں کی اصلاح کا اہتمام ہے اللہ تعالیٰ کا لا اکہ لا کھشکر ہے اپنی اصلاح کا بھی خاص اہتمام ہے اور صاحب کون بے فکر ہو سکتا ہے کس کو خبر ہے کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا معااملہ ہوگا۔

ملفوظ ۲: مجلس خاص کے انتظام کی رعایت

احقر جامع سے حضرت والا نے فرمایا ان حضرات کے نام جو مجلس خاص میں شریک کئے جائیں گے درج فہرست کرنے والے جائیں پھر ان حضرات کے نام فرمائے جو حضرات اس وقت خانقاہ میں موجود تھے ان کے نام لکھوادیئے کے بعد فرمایا کہ بعض حضرات فلاں فلاں آنے والے ہیں ان کے آجائے پرانے کے نام بھی درج فہرست کرنے والے جائیں اور روزانہ نوساز ہے تو بچھ کو جب میں کہوں ان حضرات کو اطلاع کرو دی جائیا کرے اس میں یہ سہولت ہوگی کہ سب کے روزانہ نام الگ الگ لے کر نہ کہنا پڑے اور نہ یہ خود ایک مستقل کام ہو جائیگا۔

ملفوظ ۳: اپنی جماعت کے ساتھ لگے رہنے میں فائدہ ہے

صحیح کی وسیلے والی گزاری سے چند حضرات تشریف لائے مجملہ اور حضرات کے حافظ

عبدالاطیف صاحب ناظم منظاہر علوم بھی تھے۔ حافظ صاحب سے بابو ولی محمد صاحب کا ذکر آیا۔ حضرت والانے دریافت فرمایا کہ بابو صاحب کہاں پر ہیں عرض کیا کہ رنگوں گئے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے بڑا جی خوش ہوا کہ ان کا تعلق مدرسہ ہی سے رہا۔ میں بھی کام کے آدمی اس عمر میں علم دین کا حاصل کرتا ہم تکی بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ان کو بابونہ کہوں مولوی کہوں مگر اور صحیح سمجھ میں نہ آنے کے خیال سے کہنا تھی پڑتا ہے۔ بطور مزاج فرمایا کہ علم دین حاصل کر کے بھی بابو نہیں رہے۔ مدرسہ سے ان کا تعلق رہنا یہ بھی خدا کی بڑی رحمت ہے اس لئے کہ جماعت سے جدا ہو کروہ حالت ہی نہیں رہتی۔ یہ سب ملے جلے رہنے کی برکت ہوتی ہے کہ آدمی اپنے کام میں لگا رہتا ہے اور اسی میں عافیت ہے بڑوں کیلئے بھی اور چھوٹوں کیلئے بھی یعنی جیسے چھوٹوں کو ضرورت ہے کہ بڑوں کی صحبت ہو۔ اسی طرح بڑوں کو ضرورت ہے کہ چھوٹوں کی صحبت ہو۔ اس پر (کہ اپنی جماعت سے جدا ہو کروہ حالت نہیں رہتی) یاد آیا کہ ہمارے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہماری مثال روڑ کی گودام کے کاریگروں جیسی ہے جب تک گودام کے اندر ہیں سب کچھ ہیں اور جہاں گودام سے باہر ہوئے نہ مستری مستری ہیں اور نہ کاریگر ہیں اسلئے کہ وہاں کام تو مشینیں کرتی ہیں اور وہ محض چلانے والے ہیں اس لئے جب اس احاطہ سے باہر ہوئے کچھ بھی نہ رہے سب کاریگری ختم! اسی طرح جب تک ہم اپنی جگہ پر ہیں سب کچھ ہیں کام بھی سب ہو رہے ہیں درس و تدریس بھی ہے تجدب بھی ہے ذکر و شغل بھی ہے۔ غرضیکہ سب ہی کچھ ہے باہر نکل کر کچھ بھی نہیں رہتا یہ منتہا ہے ہمارے کمالات کا۔ واقعی حضرت مولانا بہت ہی وسیع النظر تھے بڑے ہی محقق تھے کیسی کام کی بات فرمائی۔ میں تو اس کو بہت ہی بڑا فضل خداوندی سمجھتا ہوں کہ جس کو اپنوں کی معیت نصیب ہو جائے ورنہ یہ زمانہ بہت ہی پر فتن ہے دوسرا جگہ جا کروہ حالت رہتی ہی نہیں اکثر تجربہ ہو رہا ہے۔

ملفوظات: ۲۷:

ایک صاحب نے کوئی مسئلہ پیش کر کے عرض کیا کہ فلاں صاحب نے یہ دریافت کیا ہے ان کی حالت کے مناسب فرمایا کہ خود آپ کو جو ضرورت ہو اس کو معلوم کیجئے دوسروں کے

معاملات میں نہیں پڑنا چاہئے بڑی ضرورت اس کی ہے کہ ہر شخص اپنی فکر میں لگے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے آج کل یہ مرض عام ہو گیا ہے عوام میں بھی اور خواص میں بھی کہ دوسروں کی تو اصلاح کی فکر ہے اپنی خبر نہیں۔ میرے ماموں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جیسا دوسروں کی جو تیوں کی حفاظت کی بدولت کہیں اپنی گھر سے انہوں نے نہ آئی۔ واقعی بڑے کام کی بات فرمائی۔

ملفوظ ۵: میدان میں آنا چاہیے کا نعرہ

فرمایا کہ اب تو یہ حالت ہے اور اسی کی فکر ہے کہ میدان میں آنا چاہئے میدان میں آنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجرہ بھی ہاتھ سے جاتا رہتا ہے اور میدان بھی ہاتھ نہیں آتا پھر ان لوگوں کے نزدیک میدان میں آنے کے نہ کچھ شرائط ہیں نہ حدود ہیں۔ دیوانوں کی ایک بڑی ہے کہ میدان میں نکلا چاہئے آنا چاہئے یہاں تک نوبت آگئی کہ زبانوں پر یہ آتا ہے کہ مسائل کا وقت نہیں کام کا وقت ہے کام کرنا چاہئے جو لوگ ایسے ہیں وہ خود تو کسی کام کے رہے ہی نہیں اس پر غصب یہ ہے کہ خود تو بتا ہوئے ہی تھے بے چارے طالب علموں کو جو پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے انکو بھی اس بلا میں بتا کرو یا اور میدان میں لاکھڑا کیا یہ ایسا چیل میدان ہے کہ دادا ہے نہ پائی نہ دنیا پی نہ دین۔ اس بندھی اور بے ذہنگے پن کی کوئی حد ہے۔

میری یہ رائے ہے کہ کسی تحریک میں بھی طالب علموں کو شرکت کی اجازت نہ ہوئی چاہئے اس میں سخت مفترضت ہے آئندہ کیلئے جو کہ اس وقت محسوس نہیں ہوتی آخر میں پوچھتا ہوں کہ پڑھنے پڑھانے میں جب کوئی مشغول تر ہے گا تو پھر یہ جماعت علماء کی آئندہ کام کرنے والی کہاں سے پیدا ہوگی۔ تم تو سب کچھ ہو علماء ہو مقتدا ہو پیشو ہو تم ہی کرو جو کرنا ہے مگر طلباء کو تو اپنے کام میں لگا رہنے دوتا کہ آئندہ دین کے احکام بتلانے والی جماعت کا سلسلہ جاری رہے۔ کیا یہ خیال ہے کہ آئندہ دین کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ اب مسائل کا وقت نہیں کام کا وقت ہے۔ کوئی ان حضرات سے پوچھئے کہ جو آپ مقتدا اور پیشو اکھلائے یا بنے وہ لکھنے پڑھنے ہی کی بدولت تو بنے اور اب اسی کی جڑ کاٹ رہے ہو۔ خود تو مزے میں رہے سب کچھ بن گئے دوسروں کی جڑ کاٹی جا رہی ہے۔

میں نے انبالہ کے ایک وعظ میں کہا تھا کہ سب کوں کر کام کرنے کے یہ معنی نہیں کہ سب ایک ہی کام میں لگ جائیں یا ایک کام دوسرا کرنے لگے اس پر ایک مثال بیان کی تھی کہ جیسے ایک مکان تیار کیا جا رہا ہے اس کی تیاری کیلئے معمار کی بھی ضرورت، بڑھنی کی بھی ضرورت، مزدور کی بھی ضرورت۔ اب یہ بتاؤ کہ سب مل کر جو تعمیر کا کام کر رہے ہیں اس کیا طریقہ ہے یہ ہی کہو گے کہ معمار ایسٹ لگائے بڑھنی آرہ چلائے مزدور گارا پہنچائے ایسٹ پہنچائے۔ جب یہ سمجھ میں آگیا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ سب مل کر ایسٹ ہی لگانے لگیں یا سب کے سب آرہ ہی چلانے لگیں یا سب کے سب گارا ایسٹ ہی پکڑانے لگیں کیا مکان تیار ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے نہیں۔ تو اسی طرح یہاں خیال کرو کہ سب کوں کر کام کرنے کے معنی صرف یہ ہیں کہ تجربہ کا کام تولید رکریں اور اس طرح رکریں کہ وہ کسی کام کرنے سے قبل علماء سے جائز ناجائز معلوم کر لیا کریں اور احکام بتانے کا کام علماء کریں۔ لب اس طرح ہر شخص اپنے فرض منصبی کو انجام دے اس صورت میں امید کامیابی کی نکل سکتی ہے کہ ہم اپنا کام کریں وہ اپنا کام کریں سب کے مل کر کام کرنے کے یہ معنی نہیں کہ سب ایک ہی کام میں لگ جاؤ یہ علاوہ دین کے عقول کے بھی تو خلاف ہے۔ خدا معلوم یہاں ان لوگوں کی عقل کیوں کام نہیں دیتی مولیٰ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں ایک اور مثال سے سمجھ لجئے کہ اگر مرد کمایا بھی کرے اور پکایا بھی کرے جھاڑ دیجی دیا کرے پھوں کا ہاتھ منہ بھی دھلایا کرے یعنی یہ سب ایسکے ذمہ ہو یا اسی طرح غورت امور خانہ داری کی بھی ذمہ دار ہو اور باہر سے کما کر بھی لا یا کرے اس گڑ بڑ میں کچھ بھی نہ ہو گا نہ کمائی ہو گی نہ امور خانہ داری کا انتظام ہو گا سب نظام گڑ بڑ ہو جائے کا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہر شخص کو اپنا اپنا کام انجام دینا چاہئے یہ ہی کامیابی کا راستہ ہے ورنہ گڑ بڑ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ علماء کا کام مسائل بتانا ہے جواز و عدم جواز ہم سے پوچھلو۔

احقر جامع نے عرض کیا کہ حضرت ان کو پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جس طرح جہلاء صوفیاء نے شریعت اور طریقت کو دو چیز بتلا کر احکام سے جان بچالی اور ایک مستقل فرقہ بن گیا اب وہ شریعت کی ضرورت نہیں بھتے اسی طرح اس گروہ نے شریعت اور سیاست کو جدا جدا بتلا کر احکام سے جان بچالی یہ بھی ایک مستقل فرقہ بن گیا۔ فرمایا بالکل صحیح ہے ان لوگوں کو شب یہ ہو گیا ہے کہ

مولوی تو ہر چیز کو حرام ہی کہیں گے۔ اس بدگمانی کا کیا علاج ہے اس لئے ان سے پوچھنا ہی بیکار ہے ان لوگوں کی قویہ حالت ہو گئی ہے کہ یہاں پر پچھلے دنوں کچھ لوگ نماز کی تبلیغ کیلئے باہر سے آئے تھے مجھ سے بھی آکر ملے تھے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ خود نماز بھی نہ پڑھتے تھے ہاں نظمیں خوب پڑھتے تھے ان کے مضمون خلاف شرع بھی تھے مجھ سے بڑی کوشش کی کہ وہ نظمیں خانقاہ میں سنائیں۔ میں نے دل شکنی نہیں کی نہایت لطیف عذر کے ساتھ ٹال دیا دین شکنی بھی نہیں کی یعنی خانقاہ میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ عین نماز کے وقت ایک مسجد کے قریب نظمیں پڑھ رہے تھے مگر وہاں جب نماز نہیں پڑھی تو خیال ہوا کہ شاید دوسری مسجد میں پڑھی ہو گی معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی نہیں پڑھی تو خیال ہوا کہ شاید تیسری مسجد میں پڑھی ہو۔ معلوم ہوا کہ کہیں بھی نہیں پڑھی خود تو نماز سے بھاگیں اور دوسروں کو تبلیغ کریں یہ حالت ہے ان تحریکات میں شرکت کرنے والوں کی کہ خود اپنی حالت پر نظر نہیں دوسروں پر نکتہ چھینی کی جاتی ہے۔ بعض علماء کی بھی یہی حالت ہے مگر ان کے پھسلنے کا بے حد حق ہے۔

۷۲ شعبان المعتشم ۱۳۵۰ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم پنجشنبہ

ملفوظ ۲: دیہاتیوں کی مزیدار گفتگو

ایک گفتگو کے سلسلہ میں فرمایا کہ کالے دھولے (سیاہ و سفید) پر ایک حکایت یاد آئی ایک گاؤں کا آدمی یہاں پر آیا اور مجھ سے دریافت کیا کہ مولوی اشرف کون سا ہے میں نے کہا کہ بھائی میں ہی ہوں کہا تو نہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ اس کی کوئی خاص پہچان ہے کہا کہ ہاں ہے میں نے دریافت کیا کہ کیا پہچان ہے۔ کہا وہ دھولا دھولا (گورا گورا) ہے میں نے پوچھا کہ دیکھا تھا معلوم ہوا بہت عرصہ ہوا جب دیکھا تھا میں نے کہا کہ بھائی وہ جوانی کا زمان تھا جب تم نے دیکھا تھا جوانی کا رنگ و رونگ اور ہوتا ہے اب بدھے ہو گئے کہا کہ کیوں جھوٹ بولے مولوی جبیب احمد صاحب سامنے بیٹھے تھے میں نے کہا کہ یہ دیکھی یہ ہوں گے یہ ہیں دھولے کہا کہ یہ بھی نہیں۔ یہ دھیر دھولا (زیادہ گورا) ہے تب میں نے اس سے کہا کہ دیکھی وہ معمار مزدور کام کر رہے

ہیں ان سے پوچھ لے دوڑا گیا ان سے جا کر پوچھا پھر آیا کہنے لگا باب تو ہی ہے میری کھطا (خطا) معاف کر دے۔ فرمایا کہ الفاظ تو اس کے پاس نہ تھے مگر خلوص تھا جی چاہتا تھا کہ اسی بے تہذیبی کے ساتھ سلسلہ گفتگو جاری رہے بے حد لطف آرہا تھا۔ ایک ایسی ہی حکایت قاری عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی کی مولوی حبیب احمد صاحب نے روایت کی۔ کہ

قاری صاحب ریل میں سفر کر رہے تھے ایک گنوار کو معلوم ہوا کہ یہ قاری ہیں اور وہ اتنا جانتا تھا کہ قاری خوش آواز اور بجھ سے قرآن شریف پڑھنے والے کو کہتے ہیں اس پر اس کو خیال ہوا کہ قاری صاحب سے قرآن شریف سننا چاہئے۔ غرضیکہ قاری صاحب سے درخواست کی قاری صاحب نے درخواست منظور فرمائیا یہ گنوار سن کر کچھ خوش نہ ہوا اس لئے کہ وہاں اتار چڑھا اور نگینی نہ تھی قاری صاحب سے کہا کہ اب میرا بھی سن لے۔ مطلب یہ تھا کہ میں بھی اچھا پڑھنے والا ہوں قاری صاحب نے اجازت فرمادی اس نے بھی پڑھ کر سنایا اس طرف سے بھی کوئی داد نہ ملی تو کیا کہتا ہے قاری صاحب سے کہ جیسا تو پڑھے ویسا ہی میں پڑھوں فرک (فرق) یہ ہے کہ توجانی (زنانی) بولی میں پڑھنے اور میں مردانی بولی میں مطلب یہ تھا کہ تیری باریک بولی ہے اور میری مولی۔ زنانی سے مراد باریک اور مردانی سے مراد مولی۔

ملفوظے: کشمیر کے واقعات پر قتوت نازلہ

ایک صاحب نے دریافت کیا یہ سوالات و جوابات اس وقت کے ہیں جب انگریزی عہد میں کشمیر میں مسلمانوں کی راجہ سے جنگ جاری تھی۔ ۱۲۴۷ء کے حضرت کشمیر کے مسلمانوں پر جو واقعات پیش ہیں اور ان پر کہتی ہو رہی ہے ایسے وقت میں اگر قتوت نازلہ پڑھی جائے کیا حکم ہے۔ فرمایا کہ مولوی ظفر احمد صاحب نے اس کے احکام اور موقع و طریق و شرائط کے متعلق لکھا ہے۔ میں نے بھی ان سے کہہ دیا تھا کہ اس بحث کو اچھی طرح لکھ دینا غالباً یہ بحث اعلاء السنن ۱۲۴۷ء کے متعلق مفصل بحث اعلاء السنن حصہ ششم میں ہے ۱۲۴۷ء شیر علی میں ہے اس میں دیکھ لیا جائے یہ صحیح یا نہیں کہ چھپے ہوئے نسخہ میں ہے یا مسودہ میں یہ مولوی شیر علی سے معلوم ہو جائے گا۔

ملفوظ ۸: حالات کشمیر سے متعلق ایک بے کار سوال کا جواب

ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت کشمیر کے متعلق اکثر لوگوں کو مالی و جانی امداد کرنے میں اشکال ہیں اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے چونکہ اس سائل کا قصد خود عمل کا نہ تھا ویسے ہی مشغله کے طور پر پوچھتا تھا اس نے فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ امداد کرنے کا ہوا س کو خود سوال کرتا چاہے اس کو جواب دیا جائے گا اگر آپ کا ہی ارادہ ہے تو آپ ظاہر کریں کہ کون سی امداد کرتا چاہتے ہیں تاکہ اس کا حکم ظاہر کروں۔ عرض کیا کہ بعض لوگ دریافت کرنے لگتے ہیں فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھنے نہیں پھر سن لیجئے کہ جس شخص کا ارادہ ان دونوں صورتوں میں سے امداد کا ہو وہ خود آکر سوال کرے اس کو جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کا ہی ارادہ ہے تو آپ ہی فرمائیں کہ کون سی امداد کرتا چاہتے ہیں سیدھی بات کو الجھاتے کیوں ہو۔ سوال اس ہی شخص کو کرنا چاہئے جس کا کچھ کرنے کا ارادہ ہو باقی دوسروں کو جواب دینے کی آپ کو کیا فکر۔ کوئی پوچھئے کہہ دیجئے ہم کو معلوم نہیں۔ دوسرے جواب توجہ ہی ہو سکتا ہے جب کہ سوال کی صورت معین ہو دہاں کے واقعات کی تشقیح جب تک نہ کی جائے جواب کس بات کا ہو۔

فرمایا کہ اس کے متعلق یہاں پر بہت سوال آتے ہیں میں جواب میں لکھ دیتا ہوں کہ زبانی سمجھنے کی بات ہے زبانی آکر سمجھلو۔ یہ اسی واسطے کے سائل سے واقعات کی تشقیح تو کر لی جائے۔ فرمایا کہ کشمیر پر جو حقیقتے جاری ہے ہیں ان کی متعلق ایک صاحب مجھے سے فرمانے لگے کہ ان جھنوں کے جانے کا جائز و ناجائز ہونا تو الگ بات ہے مگر نافع بہت ہے میں نے کہا جی ہاں خمر (شراب) بھی نافع ہے میں سر (جو اسکے بھی نافع ہے بلکہ ان کا نافع ہونا تو نص سے ثابت ہے آپ تو اپنی ہی رائے کا اظہار فرمار ہے ہیں اگر نافع ہونے پر مدار ہے تو ان چیزوں میں بھی کوئی جرم نہ ہونا چاہیے۔

ملفوظ ۹: قوت نازلہ کا حکم

ایک سوال کے سلسلہ میں فرمایا کہ قوت نازلہ کے احکام اصل مذہب میں مختلف نہیں اس لئے میں نماز و بیگانہ کے بعد دعا کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں اور میں نے تو اس موقع خاص کیلئے بعض

دعا میں قرآن و حدیث سے منتخب کر لی ہیں ہر نماز کے بعد یا جس وقت جی چاہا پڑھ لیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ بھی قابل نظر ہے کہ قوت نازلہ کا اختیار کرنا دوسروں کو یاد دلانا ہے کہ ہمیں فکر ہے اندریش ہے۔ میرے نزدیک بجائے قوت نازلہ کے یہ ہی بہتر ہے کہ ہر نماز پڑھانے کے بعد دعا کریں یہ عجیب و غریب طریق ہے۔ میں نے بھی پہلے قوت نازلہ پڑھی ہے مگر زیادہ تر رجحان اسی طرف تھا کہ جب کہ ایک طریق اسلام و اہل ہے اور اس میں انخفا بھی ہے۔ اس کو ہی کیوں نہ اختیار کیا جائے دوسرا طریق میں اظہار ہے اور انخفاء کی صورت بہتر ہے اظہار سے اور حضرت جو اصلی مدیر ہے اس کی طرف اس وقت تک بھی کسی کو خیال نہیں وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح میں لگ جائیں اگر ایسا کریں تو چند روز میں انشاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دشمن خائف ہو جائیں۔ اور مختصر طریقوں کے متعلق فرمایا کہ ایسے وقت میں شریعت میں دو ہی صورتیں ہیں۔ قوت کے وقت مقابلہ اور بجز کے وقت صبر۔ خدا معلوم یہ تیری صورت بخوبی گرفتار ہو جانے کی کہاں سے نکالی ہے ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ گاندھی کی تعلیم ہے۔ فرمایا گاندھی کہاں سے لایا اس نے بھی یورپ سے ہی سابق حاصل کیا ہے مگر گاندھی کے کہنے سے اس کو قرآن و حدیث پر منطبق کیا جاتا ہے انا لله و انا الیہ راجعون۔

آج کل کے لیڈر اور قرآن و حدیث

فرمایا کہ اکبرالہ آبادی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ لیڈروں کے یہاں قرآن و حدیث میں توفال دیکھی جاتی ہے باقی عمل رزویوشن پر ہوتا ہے واقعی تجھی بات ہے فرمایا اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے بعض لوگ طبیعت خوش کرنے کی غرض سے مشنوی شریف یادیوں حافظہ سے قالیا کرتے ہیں ارادہ تو اس کام کا پہلے سے ہوتا ہے محض تائید کا نام کرنے کو ان میں بھی دلکھ لیا کہ وہ بھی یہی فرمار ہے ہیں یہ ہی معاملہ قرآن و حدیث کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ رزویوشن پاس کر لیا اور پھر اس کو قرآن و حدیث پر منطبق کر دیا اور وہ منطبق کرنا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ایک صاحب نے آیہ لاتسبوا الذین یدعون من دون الله اخ (۴) دوسروں کے معبودوں کو برامت کہو۔ (۱۲)

سے گاؤ کشی کی حرمت پر استدلال کیا تھا کہ گائے ان کا مجبود ہے اور ذبح کرنے میں ان کے مجبود کی اہانت اور بے ادبی ہے اور اس کو اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے یہ استدلالات ہیں زمانہ شورش سے لا جوں والا قوۃ اللہ اسی طرح صلح حدیبیہ کے واقعہ سے استدلال کیا گیا تھا کہ حضور ﷺ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانا چاہا تو مشرکین نے اس کے لکھنے جانے سے انکار کیا آپ نے ان کی اس درخواست کو منظور فرمایا کہ بسم اللہ تم لکھوایا پھر حضور ﷺ نے محمد رسول اللہ لکھوانا چاہا تو انہوں نے محمد رسول اللہ کے لکھنے سے بھی انکار کیا تو آپ نے محمد بن عبد اللہ اس کی وجہ کے لکھوایا۔ معلوم ہوا کہ صلح حدیبیہ کیلئے شعائر اسلام کو بھی چھوڑنا جائز ہے۔ میں اسکے متعلق ایک موٹی اسی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ باریک بات تو علماء جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا جاتی ہے اور ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ جب دو قوموں میں صلح ہوتی ہے اور صلح نامہ لکھا جاتا ہے تو وہ صلح نامہ فریقین کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اس صلح نامہ میں وہی مضمون لکھا جاتا ہے جو دونوں فریق کے مسلمات سے ہو۔ اس میں کوئی اسی بات نہیں لکھی جاتی جو فریقین کو تسلیم نہ ہو۔ جب یہ حقیقت ہے تو اب سننے کہ جس صلح نامہ پر حضور ﷺ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور محمد رسول اللہ لکھوانا چاہا تھا اس کے ساتھ صرف مسلمانوں ہی کا تعلق نہ تھا بلکہ مشرکین مکہ بھی اس سے تعلق رکھتے تھے یعنی وہ دونوں کی طرف منسوب تھا اور دونوں ہی کے اس پر دخخط ہوتے ہیں اور جیسا کہ اس میں یہ بات قابلِ لحاظ تھی کہ اس میں کوئی بات مسلمانوں کے خیالات کے خلاف نہ ہو اسی طرح یہ بات بھی قابلِ رعایت تھی کہ اس صلح نامہ کا ہر مضمون خصم کو بھی تسلیم ہوا ہی وجہ سے جب حضور ﷺ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور محمد رسول اللہ لکھوانا چاہا تو مشرکین اور کفار مکنے صلح نامہ میں اس کا لکھا جانا منظور نہ کیا اور ان کا اس انکار سے مطلب یہ تھا کہ صلح نامہ جس طرح مسلمانوں کی طرف منسوب ہو گا اسی طرح ہماری طرف منسوب کیا جاوے گا اور جس طرح مسلمانوں کے دخخط اس پر ہونگے اسی طرح ہم کو بھی دخخط کرنے ہو نگے اس لئے صلح نامہ میں ایسے الفاظ نہ ہونے چاہیں جس کے قبول کرنے سے ہم کو انکار ہے کیونکہ ایسے الفاظ ہوتے ہوئے ہمارے اس پر دخخط کیے ہوں گے۔

کفار مکہ کو فریق ہونے کی حیثیت سے صلح نامہ کے مضمون میں دخل دینے کا حق حاصل تھا اور بسمک اللہم اور محمد بن عبد اللہ کا لکھا جانا مسلمانوں کے کسی خیال کے خلاف نہ تھا اس وجہ سے حضور ﷺ نے ان کی اس درخواست کو منظور فرمایا اور وہی الفاظ اور مضمون صلح نامہ میں درج کرائے جو ہر دو فریق کے متفق علیہ تھے اور جن الفاظ پر فریقین کو دستخط کر دینے آسان تھے اب اس کی حقیقت سمجھ لینے کے بعد بتائیے کہ کیا اس سے یہ استدال صحیح ہو سکتا ہے کہ صلح کیلئے اصول مذہب کے ترک کو حضور ﷺ کی طرف مسوب کیا گیا ہے نعوذ باللہ، استغفراللہ، لا حول والقوۃ الا باللہ۔ اسی کے سلسلہ میں فرمایا کہ مولوی جبیب احمد صاحب نے ایک خوش مزاج عالم سے نقل کیا کہ تبحیر کی دو قسمیں ہیں ایک کدو تبحیر اور ایک پچھلی تبحیر کدو وہ کہ کدو کی طرح تمام دریا پر تیرتا پھرتا ہے مگر اپر ہی اور اندر رسانی نہیں اور ایک پچھلی تبحیر کہ عق (دریا کی تہہ) میں پہنچتی ہے واقعی مثال بے نظیر ہے ہمارے بزرگوں کے مقامات میں طول عرض تو ہوتا نہیں مگر مثل پچھلی کے عق اور گہرائی پر پہنچتے ہیں اور حقیقت کا اكتشاف فرمادیتے ہیں۔ خلاف سلطی نظر والوں کے کہ کدو تبحیر ہیں اور پر پھرتے ہیں حقیقت سے بالکل بے خبر اور نا آشنا ہوتے ہیں۔

ملفوظ ۱۱: قدم اٹھانے سے پہلے مطلوب متعین ہونا

ایک خط کے سلسلہ میں فرمایا کہ میں نے ایک خط کے جواب میں لکھا ہے جس میں مطلوب مبہم تھا کہ پہلے مطلوب کا متعین ہو جانا ضروری ہے۔ مطلوب سمجھ لینے کے بعد اس طریق میں بڑی سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے لوگ اس کو ثالثاً سمجھتے ہیں یہ ان کے قلت فہم کی دلیل ہے اور سخت غلطی ہے یہ ضرور ہے کہ دو چار مرتبہ خط و کتابت میں وقت اور دام دونوں خرچ ہوتے ہیں مگر ہمیشہ کیلئے راحت میسر ہو جاتی ہے اور آدمی راہ پر پڑ جاتا ہے۔

میں نے ایک مرتبہ خوب جے صاحب سے کہا تھا کہ میں ایک ہی جلسہ میں طالب کو خدا تک پہنچا دیتا ہوں اس کی مثال سمجھ لیجئے کہ یہاں سے چار میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں ہے۔ شب کا وقت ہے اس گاؤں میں چراغ جل رہا ہے جو دور سے نظر آتا ہے اور ایک شخص اس گاؤں میں جانا

چاہتا ہے اور وہ اس گاؤں اور اس کے راستے سے دونوں سے بے خبر ہے ایک شخص اس کو بتاتا ہے کہ تیر مقصود اور مطلوب جہاں تو جانا چاہتا ہے وہ ہے جہاں چراغ جل رہا ہے گویہ بتانے والا اس شخص کے ساتھ نہیں گیا اور نہ یہ بھی تک اس گاؤں میں جو اس کا مقصود اور مطلوب ہے پہنچا مگر ایک معنی کر کہا جاسکتا ہے کہ بتانے والے نے گاؤں تک پہنچا دیا اس لئے کہ بڑی چیز تواری ہی ہے جو اس پر مطلع ہو گیا آگے بجز چلنے کے اور رہ ہی کیا گیا ہے جو سالک کا فعل ہے باقی رہبر نے تو اپنا کام پورا کر دیا اور ایک معنی کر پہنچا ہی دیا اور میں عرض کرتا ہوں میں ایک شخص دہلی جانا چاہتا ہے نہ اس شخص کو راستہ معلوم نہ کبھی دہلی و یکبھی نہ اس کا نقشہ معلوم اول تو اس کا پہنچنا ہی مشکل بفرض محل پہنچ بھی گیا مگر نقشہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے پہچانے کا نہیں اس لئے غالب یہ ہے کہ آگے بڑھ جائے گا۔

غرضیکہ مطلوب ہاتھ نہ آئے گا ادھر بڑھے گا کسی صورت سے اطمینان میسر نہ ہو گا۔ اس بے راتی کی حقیقت سے وہی خوب واقف ہو سکتا ہے کبھی راستہ نہ معلوم ہونے پر سفر کر چکا ہو کہ اس وقت کیا حالت ہوتی ہے جس کا مشاہدہ مجھ کو ایک سفر میں ہوا میں اٹیشن سہاران پور سے لکھنوجانے کیلئے سوار ہوا دیکھا کہ میرے ہم وطن ایک جنگلیں صاحب بھی اس ہی ڈبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان سے پہلے سے واقف تھا۔ یہ جنگلیں صاحب بھی میرٹھ جانے والے تھے سردی کا زمانہ لحاف پچھونا ساتھ نہ تھا۔ یہ بھی جنگلیں کے خواص میں سے ہے کہ ایسی چیزیں ساتھ نہ ہوں کوئے چلتے ہیں بیک بینی دو گوش کے مصدق سردی سے بغلوں میں ہاتھ۔ جب گاڑی چھوٹ گئی تو آپس میں باتیں ہونے لگیں۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا آپ بھی لکھنوت شریف لے جا رہے ہیں کہنے لگے کہ نہیں میں تو میرٹھ جارہا ہوں معلوم ہوا کہ غلطی سے بجائے میرٹھ کی گاڑی کے اس میں بیٹھ گئے۔ میں نے ان ہی کے حادروں میں کہا کہ ممکن ہے کہ آپ میرٹھ جارہے ہوں مگر افسوس ہے کہ گاڑی لکھنوت جارہی ہے یہ سن کر جوان کو پریشانی ہوئی ہے وہ احاطہ بیان سے باہر ہے اس کی دو وجہ تھیں ایک تو یہ کہ اس باب پاس نہ تھا اور سردی کا زمانہ دوسرے منزل مقصود کی وہ راہ

نہ تھی جس کو وہ طے کر رہے تھے میں نے تسلی کی کہ جناب گھبرا کیں نہیں پر پیشان نہ ہوں اب تو جو ہونا تھا ہو چکا خواہ پر پیشان ہو جیئے خواہ افسوس کیجئے مگر ظاہر ایہ کاڑی رڑکی سے اس طرف تو پھر نہیں سکتی مگر ان کو کسی طرح اطمینان نہ ہوتا تھا کبھی لا جوں پڑھتے ہیں اور کبھی اناللہ کبھی کھڑے ہوتے تھے اور کبھی بیٹھتے تھے میں نے کہا پر پیشانی بے فائدہ ہے۔ اطمینان سے با تمن کیجئے میں ان کو با توان میں لگانا چاہتا تھا ایکن وہ اس سے جھنجھلاتے تھے کہ وہ صاحب تم کو بھی کی سوچھی ہے اور مجھ کو الجھن ٹھکی ہوئی ہے۔

اس حکایت سے میرا مقصود یہ ہے کہ میں نے اس وقت اپنی اور ان کی حالت کا موازنہ کیا تھا میں اپنے آپ کو ایسا مطمئن پاتا تھا گویا با او شاہ ہوں اس لئے کہ مجھ کو اس خیال سے راحت تھی کہ میں راہ پر ہوں اور وہ ایسے پر پیشان تھے کہ جیسے کوئی مجرم قید کر دیا جائے ان کو اس خیال سے پر پیشان تھی کہ میں بے راہی پر ہوں اگر وہ رڑکی ہی پہنچ گئے تو یہ ظاہر ہے میرٹھ پھر بھی اتنی دور نہ تھا کہ جس پر ان کو اس قدر پر پیشانی لاحق تھی۔

صاحبوا مقصود ان کا قریب تھا میرٹھ اور میرا بعد تکھنو مگر بے راہی کی وجہ سے وہ پر پیشان تھے اور میں مطمئن۔ سب اس کا یہ تھا کہ وہ گمراہی پر تھے اور میں راہ پر تھا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اسی کو کلام پاک میں فرماتے ہیں: **أَوْلَىٰ كَعْلَىٰ هُدًىٰ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَوْلَىٰ كَهُمُ الْمُفْلِحُونَ**
لیکن بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جوان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔

ہدی کو فلاج سے بھی پہلے فرمایا اصل چیز تو راہ ہی ہے جس کو صراط مستقیم ﴿سیدھا رستہ﴾ کہتے ہیں دنیا میں مسلمان کیلئے جس اصلی جزا کا وعدہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہدایت پر ہے اور سیدھے راستے پر چل رہا ہے اور جو اس راہ پر چلتا شروع کر دیتا ہے اس کیلئے مفلحوں ﴿پورے کامیاب﴾ فرمایا گیا ہے اللہ کا لا کھلا کشکر ہے کہ ایسے بزرگوں کی جو تیوں میں پہنچا دیا کہ انہوں نے سیدھے راستہ پر ڈال دیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ بڑی چیز راہ پر آگاہ کر دینا اور پتہ و نشان بتا دینا ہے یہ ہی تو ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ ایک ہی جلسہ میں میں طالب کو خدا سماں پہنچا دیتا ہوں حضرت طریق نہ معلوم ہوتا بڑا ہی بھاری خسارہ ہے پھر طریق معلوم ہونے کے دور جسے یہیں ایک تقلید ایک تحقیق مبتدی کو تقلید ہی کی ضرورت ہے اگر کسی کو خود رستہ نظر نہ آؤے مگر تحقیق کہتا ہے کہ یہ رستہ ہے تو اپنی نظر پر اعتماد نہ کرے اس کی خبر پر اعتماد کر کے چلنا شروع کر دے جوں جوں بڑھتا جائے گا ساتھ ساتھ راستہ نظر آتا ہے گا گرچہ رخنہ نیست عالم را پیدا۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ پشاور سے کلکتہ تک سڑک گئی ہے ایک شخص پشاور سے کلکتہ پہنچنا چاہتا ہے مگر وہ جب نظر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سڑک درختوں اور آسمانوں سے بند ہے یہ دیکھ کر ما یوس ہو جاتا ہے کہ راستہ بند ہے میں منزل کو طے نہیں کر سکتا۔ مگر جانے والا کہتا ہے کہ چل تو ہی اپنے موڑ کو گرم کر جہت سے کام لے چلتا شروع کر جس وقت موڑ چلنا شروع ہو جائے گا راستہ خود بخود کھلتا جائے گا جس قدر آگے بڑھتا جائے گا راستہ اسی قدر کھلا ہوا نظر آئے گا مولانا اسی کو فرماتے ہیں:

﴿اگر چہ رخنہ نیست عالم را پیدا۔ ☆ خیرہ یوسف داری باید دوید
السلام کی طرح بغیر اسباب ظاہری پر نظر کے دوڑنا چاہئے۔ ۱۲﴾

اس لئے ضرورت ہے ایسے رہبر کی جس کے محقق اور شفیق ہونے پر اعتماد ہو۔ آج کل میں کھانسی کی دو اکھار ہاں جوں یہ اجزاء کتابوں میں ہیں مگر بغیر اہل فن کے بتائے ہوئے اور تجویز کئے ہوئے اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اب جو اہل فن سے تجویز کرا کر استعمال کر رہا ہوں اطمینان ہے اس لئے کہ اس کے اقصان اور مضرت کا وہ ذمہ دار ہے اور محقق ہونے کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی بات سے اطمینان اور قلب کو فرار ہو جائے اور جو شخص غیر محقق اور غیر مبصر ہوتا ہے اس کی بات سے اطمینان نہیں ہوتا اگر چہ بڑی بڑی باتیں ہی کیوں نہ کرتا ہوا سی کو فرماتے ہیں۔

﴿ وعدہ ہا باشد حقیقی دلپذیر ☆ وعدہ ہا باشد مجازی تائیکر
حقیقت پر منی باتیں دل کو گلتی ہیں اور بناوٹی باتوں سے جی اکتا تا ہے۔ ۱۲﴾

پھر فرمایا کہ شیخ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ راستہ بتا دے راہ پر ڈال دے پس شیخ کا ولی ہوتا ضروری نہیں مقبول ہوتا ضروری نہیں ہاں فن کا جاننا اور اس میں مہارت ہوتا ضروری ہے اگر فن سے واقف ہے اور جانتا ہے جیسے طبیب کہ اس کا پرہیز گار ہوتا ضروری نہیں۔ فن سے ماہر ہوتا اور اس کا جاننا ضروری ہے۔

اسی طرح شیخ کی مثال سمجھ لیجئے مزاح کے طور پر فرمایا کہ چاہے شیخ خود خراب ہو گر شیخ کا دماغ خراب نہ ہو جب شیخ اور ولی میں فرق معلوم ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ کسی کوشش کہنا تو جائز ہے لیکن ولی کہنا جائز نہیں۔ اور یہ بات کہ کسی کو جزم (یقین) کے ساتھ ولی کہنا جائز نہیں مسئلہ ہے جو حدیث لا یز کسی علی اللہ سے ثابت ہے اور اگر اعمال صالح ہوں تقویٰ ہو و لایت حاصل ہو جائے گی خواہ شیخ نہ ہو۔

ملفوظ ۱۲: ایک صاحب کی ہدیہ کی خواہش اور حضرت کا جواب

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے رنگوں سے۔ لکھا ہے کہ کچھ چیزیں لانا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو اور جس چیز کو فرمائیں۔ میں نے جواب لکھا ہے کہ کس لائگت کی چیز لانا چاہتے ہو اور وہاں پر کیا کیا چیزیں ملتی ہیں معلوم ہونے پر تعین کروں گا۔ فرمایا کہ اس صورت میں ایک تو انتخاب کا بار انجیں پر رہا۔ انتخاب ان کا رہے گا پھر ان کے انتخاب شدہ میں سے تجویز میں کروں گا دوسرے یہ مصلحت ہے کہ نہ معلوم کیا چیز لے آتے جو میرے کار آمد ہی نہ ہوتی اور یہ جو پوچھا ہے کہ کتنے کی چیز لاوے گے اس میں یہ حکمت ہے کہ مناسب قیمت کی چیزوں کو لکھوں گا بہر حال اس میں راحت ہے ان کو بھی مجھ کو بھی۔

ملفوظ ۱۳: حزن سے مراثب سلوک تیزی سے طے ہوتے ہیں

ایک خط کے جواب میں تحریر فرمایا کہ میرے تکدر کی عمر بہت کم ہوتی ہے کچھ وقت گزر جانے پر ضعیف ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی معدودت کے بعد بالکل ہی فنا ہو جاتا ہے فرمایا کہ اسی خط میں لکھا ہے کہ مجھ کو بڑا رنج ہے بڑا حزن ہے۔ میں نے جواب لکھا ہے کہ حزن ہی تو کام بنتا

ہے حزن سے جس قدر سلوک کے مراتب طے ہوتے ہیں مجاهدہ سے اس قدر جلد طے نہیں ہوتے یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔

ملفوظ ۱۴: بے ملک ریل میں سفر کرنے میں کوئی گنجائش نہیں

فرمایا کہ ایک خط آیا ہے لکھا ہے کہ بے ملک ریل کے سفر کرنے میں ابتلاء عام ہے اس میں کوئی گنجائش نہ کانی چاہیے (جواب) کیا ایسے ابتلاء عام سے کوئی چیز جائز ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ عوام کے نزدیک علماء صرف اس کام کے لئے رہ گئے ہیں کہ جس معصیت میں ان کو ابتلاء ہو جایا کرے اس کو معصیت کی فہرست سے نکال دیا کریں انا لله وانا اليه راجعون۔

ملفوظ ۱۵: حلال، جلال اور جمال

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ فلاں صاحب مرید ہونے کو کہتے ہیں اور یہ کہتے تھے کہ ارادہ تو بہت دنوں سے ہے مگر حضرت مولانا کے جلال کی وجہ سے پورا نہیں ہوا تھا اب یہ ارادہ کر لیا ہے کہ چاہے ماریں یا پیشیں اب تو ضرور ہی ہوں گا۔ فرمایا کہ خدا معلوم لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ میں بالا وجہ تھوڑا ہی کچھ کہتا ہوں تبسم فرماسکر بطور مزاح فرمایا کہ لوگ تو مجھے حلال (ذبح) کرتے ہیں میں جلال بھی نہ کروں میرے جلال کو دیکھتے ہیں اپنے جمال کو نہیں دیکھتے معلوم نہیں یہاں کون سا سامان جلال و بیت کا ہے بعض لوگ قلیل الكلام ہوتے ہیں اس سے بھی رعب ہوتا ہے اور میں اس قدر بکی ہوں کہ ہر وقت بولتا ہی رہتا ہوں مگر پھر بھی نہ معلوم لوگ کیوں اس قدر مجھے کو ہوا بنائے ہوئے ہیں۔

۲۸ شعبان ۱۳۵۰ھ بروز جمعہ مجلس خاص بوقت صبح

ملفوظ ۱۶: ادب تعظیم کا نہیں راحت رسانی کا نام ہے

ایک خط کے سلسلہ میں فرمایا کہ بعض آدمیوں میں فہم کا نقطہ ہوتا ہے ان کی تقریر اور تحریر سے دوسروں کو کلفت ہوتی ہے اگرچہ وہ اپنے نزدیک ادب ہی کا قصد کرتے ہیں بات یہ ہے کہ آجکل ادب نام رہ گیا ہے تعظیم کا۔ حالانکہ اصل ادب ہے راحت کا اہتمام اور جس چیز سے

دوسرے کو تکلیف پہنچے اس کا نام ادب نہیں یہ سب رسوموں کی خرابیاں ہیں ہمارے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھی سے منع فرمایا کرتے تھے کہ اپنی جگہ سے بیٹھنے ہوئے میری تعظیم کیلئے مت انھا کرو۔ اس حالت میں یہ ہی ادب تھا کہ نہ انھا جائے پھر اسی سلسلہ میں مہمانی کے آداب کا تذکرہ ہونے لگا اس کے ذیل میں فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عام دستر خوان پر ایک بدوسی بھی بیٹھا ہوا کھانا کھارہاتا تھا وہ بیساکیوں کی طرح بڑے بڑے لقے بنانے کے لئے بنا کر کھارہاتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بوجہ خیر خواہی کے فرمایا کہ اے شخص اپنی جان پر رحم کر اور چھوٹا لقہ بنانے کے لئے میں نہ اٹک جائے یہ کہنا تھا کہ فوراً دستر خوان سے وہ بدوسی انھوں گیا اور چل دیا۔ حضرت معاویہ نے اس کو روکا اس نے کہا کہ زیبائیں کو کوئی شریف آدمی آپ کے دستر خوان پر کھانا کھائے آپ مہمانوں کے لقے تکتے ہیں کہ کون بڑا لیتا ہے اور کون چھوٹا۔ آپ کو اس سے کیا تعلق کہ کوئی کس طرح کھاتا ہے آپ کو دستر خوان پر مہمانوں کو بخلا کر اس طرف نگاہ انھا کر بھی نہ دیکھنا چاہئے البتہ کھانے کی کافیت کی غیر اتنی ضروری ہے یہ کہہ کر چلتا ہوا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بے حد اس کی کوشش کی کہ کھانا کھا کر جائے مگر وہ نہیں مانا فرمایا کہ آداب میزبانی کے خلاف ہے مہماں کو کھاتے ہوئے تکننا اس سے اس پر شرم دامن گیر ہوتی ہے اور پیٹ بھر کر کھانا کھانیں سکتا۔ کیا مٹھکانہ ہے اس وقت کے بدوسی ایسے ہوتے تھے آج کل یہ باقی مدعیان تمن بھی نہیں معمولی لوگ بے چارے تو کس شمار میں ہیں۔

ملفوظ ۷: سیدنا حضرت معاویہؓ کی خطاب اجتہادی

فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ پر یاد آیا ایک شخص نے ایک کم علم مگر ذہن مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں جو جنگ ہوئی اس میں حضرت معاویہؓ کا یہ فعل کس درجہ کا ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ بھائی حضرت معاویہؓ کی اجتہادی خطاء ہے اور اس لئے وہ امر خفیف ہے حضرت والانے فرمایا کہ یہ ہی ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہتا ہے کہ جس درجہ کا شخص ہوتا ہے اسی درجہ کی اس کی خطاء ہوگی اس لئے اس خطاب پر بھی شدید سزا ہوئی چاہئے۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ

ارے یہ کیا تھوڑی سزا ہے کہ ایک صحابی پر ہم نالائق یہ حکم کریں کہ انہوں نے خطاء کی ورنہ ہمارا کیامنہ تھا ہم گندے ناپاک اور وہ صحابی۔

فرمایا واقعی عجیب و غریب جواب ہے۔ ان ہی مولوی صاحب کا دوسرا واقعہ جس سے ان کی حالت حب رسول کا پتہ چلتا ہے جیسا پہلا واقعہ حب صحابہ پر دال ہے یہ ہے کہ اول انہوں نے یہ قصد لکھا ہے کہ با وجود حضور ﷺ کی کوشش کے ابو طالب ایمان نہیں لائے اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر بجائے ابو طالب کے مجھ کو حق تعالیٰ دوزخ میں بھیج دیں اور ابو طالب کو جنت میں تو میں راضی ہوں کیونکہ میرے نبی ﷺ کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں یہ ان کی حالت ہے جن کا شمار بڑے لوگوں میں نہیں مگر محبت کا اثر ہے بزرگوں کی۔ یہ لوگ خنک ہیں انہیں کو وہابی کہتے ہیں۔

حضرت سے تعلق کا نتیجہ ملفوظ ۱۸:

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج سہارن پور سے سوار ہونے کے وقت اشیش پر ساتھیوں کی وجہ سے اسباب زائد ہونے کا شہر ہوا کیونکہ ان کا بھی اسباب تھا اس پر میں نے بابو سے وزن کرنے کو کہا بابو انکار کرتا تھا اور میں اصرار کرتا تھا۔ اس واقعہ کو ایک اور ہندو دیکھ رہا تھا جب گاڑی چھوٹ گئی تو اس نے ریل میں مجھ سے سوال کیا کہ آپ جو اسباب کے بارہ میں اس قدر راحتیاں اور بابو سے اصرار کر رہے تھے آپ کا تعلق مولا نا اشرف علی صاحب سے معلوم ہوتا ہے حضرت والا نے سن کر فرمایا کہ بعض بات میں آدمی بدنام ہو جاتا ہے اس پر ایک دوسرے مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت تقویٰ کا حاصل تو یہی ہے تم سے آمیز لجھے میں فرمایا اس کا دوسرا القب آپ نے سنا ہو گا تو ہم!

فرمایا کہ میرے ایک دوست ہیں مدارس کے انسپکٹر۔ ایک مرتبہ دورہ میں ایک مدرسہ میں پھر نے کا اتفاق ہوا۔ اہل مدرسہ نے مغرب کے بعد اس کرہ میں روشنی کا انتظام کیا جس میں ان کا قیام تھا انہوں نے کہا کہ اگر یہ روشنی مدرسہ کی ہے تو مجھ کو ضرورت نہیں اتفاق سے وہاں پر امیر شاہ صاحب پھرے ہوئے تھے انہوں نے جب یہ بات سنی سنتے ہی فرمایا کہ یہ فلاں شخص

ہے (مراد میں تھا) تعلق رکھنے والے معلوم ہوتے ہیں اور پھر بہت محبت سے ملے۔ فرمایا کہ ایک اور واقعہ ہے!

ایک بزرگ اپنی ہی جماعت کے ہیں ان کا قیام مدرسہ جو پور میں تھا وہاں پر مسجد میں ایک طالب علم مسجد کی روشنی میں کتاب دیکھ رہے تھے اور خاص وقت ہو جانے سے فوراً وہ چراغ گل کر دیا اور اپنا روشن کر لیا وہ طالب علم کچھ دنوں یہاں پر رہ گئے تھے وہ بزرگ بے ساختہ فرماتے ہیں یہ طالب علم وہاں سے تعلق رکھنے والا معلوم ہوتا ہے میرا نام لیا یہ بدنام ہی ہونے کی بات ہے۔

ایک واقعہ عجیب فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بارہ اکبر پور ضلع کا پور گیا تھا وہاں پر وعظ بھی ہوا تھا۔ وعظ کے بعد واپسی کے لئے تیاری ہوئی اشیش وہاں سے تقریباً چھ سات کوں کے فاصلہ پر تھا اور کچھ ایسا زمانہ تھا کہ کبھی بھی بارش بھی ہو جاتی تھی اسی لئے میں احتیاطاً ظہر کے وقت روانہ ہو گیا گور میل رات کے نوبجے جاتی تھی اتفاق سے اس وقت بھی تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے تاگلہ پر اچھی طرح سائبان کا انتظام کر دیا تھا میں مع ہمراہ ہیوں کے سوار ہو کر چل دیا۔ اکبر پور میں ایک صاحب منصف تھے وہ میرے شناسا تھے ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اس وقت اشیش پر آ رہا ہے انہوں نے اشیش ماسٹر کو ایک رقہ لکھا کہ فلاں شخص اشیش آ رہا ہے شب کی گاڑی سے سوار ہو گا اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو کوئی خاص کمرہ آرام کے لئے تجویز کر دیا جائے وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ اشیش جنگل میں تھا اور بہت مختصر جیسا یہ تھا نہ بھون کا اشیش بے کوئی جگہ اس پر ایسی نہ تھی کہ مسافر آرام کر سکے یہاں پر تو محمد اللہ مسافرخانہ بھی تیار ہو گیا ہے اور منصف صاحب نے مجھ کو اس کی اطلاع نہیں کی کہ میں اشیش ماسٹر کو لکھے چکا ہوں اب جس وقت اشیش پر پہنچے ادھر تو بارش ہو رہی ادھر کوئی جگہ ایسی نہ تھی کہ کپڑے ہی بچا سکیں ادھر نماز کا وقت قریب تھا عجب کشمکش تھی کہ وہ بابو آیا اس نے مجھ سے میرا نام دریافت کیا نام سن کر اس نے ایک کمرہ میں ہم کو خبر دیا اور کہا کہ اس میں آرام فرمائیے۔ منصف صاحب کا میرے نام پر چ آیا ہے کہ فلاں شخص اشیش پر آ رہا ہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ کمرہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسباب وغیرہ کے رکھنے کا تھا وہاں پر آرام سے

نماز میں ادا کیں جب مغرب کے وقت اندر ہیرا ہو گیا تو اس بابو نے ریلوے ملازم کو حکم دیا کہ دیکھو اس کمرہ میں روشنی کا انتظام کر دو۔ یہ سن کر مجھ کو بڑی فکر ہوتی اور زیادہ اس وجہ سے کہ بابو ہندو تھا وہ اس کفر یہ ہوتی کہ مسافر خانہ تو ہے نہیں اگر مسافر خانہ ہوتا تو یہ خیال ہوتا کہ اسکیں ریلوے قانون سے روشنی جائز تھی یہ تو اس باب کا کمرہ ہے صرف ہماری رعایت سے روشنی کی جاتی ہے تو اس صورت میں ریلوے کے تیل سے اشتعال جائز نہیں ہو سکتا اس لئے بڑی کش لکش ہوتی۔ اگر بابو سے منع کیا جاتا ہے تو یہ ہندو ہے بے وقوف بنادے گا اور ہنے گا بات کو سمجھنے کا نہیں۔ اب کیا کیا جائے اس وقت بھی سوچھی کہ دعا کرننا چاہئے لبذا میں نے دعا کی کہ اے اللہ! پھنے کی صورت گواختیاری ہے مگر یہ ضعف ہے کہ اظہار پر شرم دامن گیر ہے اسلئے آپ ہی حفاظت فرمانے والے ہیں آپ ہی حفاظت فرمائیں یہ خیال دل میں آتا تھا کہ فوراً آٹھش ماشر نے اس توکر کو آواز دے کر کہا کہ دیکھو ریلوے کی لاٹین وہاں پر روشن نہ کرنا بلکہ ہمارے نج کی لاٹین روشن کر دینا یہ سن کر حق تعالیٰ کے انعام کا مشاہدہ ہو کر اس قدر جوش ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اب اس سے یعنی ہندو بابو سے کوئی پوچھتا کہ اس کو یہ خیال کیوں پیدا ہوا اخبار نہیں کیا جواب دیتا۔ یہ حق سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وَمَنْ يَتَقَبَّلِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَحْرَجاً۔ (جو شخص تقویٰ اختیار کرتا چاہتا ہے حق تعالیٰ اس کیلئے پھنے کی راہ نکال دیتے ہیں)

ملفوظ ۱۹: جدت بھی ایک آفت ہے

فرمایا کہ آج کل کا طرز معاشرت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اکتا گئے ہیں بزرگوں کے طریق سے۔ مگر یہ جدت بھی ایک آفت ہے۔

ملفوظ ۲۰: تصوف کی پہلی شرط اسلام ہے

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ ایک ہندو میرے پاس آتا ہے اس کو تصوف کی باتوں سے بے حد دلچسپی ہے اس سے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ سن کر بے حد خوش ہوتا ہے اب

یہاں تک نوبت آگئی ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ کچھ پڑھنے کو بتاؤ میں نے اس خیال سے کہ اچھا ہے اس کو اسلام سے اور قرب و محبت ہو گی ذکر کی تعلیم کی۔ اب وہ بے حد معتقد ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ کو جو تم نے پڑھنے کو بتایا اس سے بڑا ہی جی خوش ہوتا ہے۔ آج تک کسی اپنی مذہبی چیز کے پڑھنے سے یہ بات نہیں پیدا ہوئی تھی اب اسلام کی بہت تعریف کرتا ہے۔ حضرت والانے ان کی یہ تمام گفتگوں کو فرمایا یہ طریق مضر ہے۔ صوفی ہونے کی اول اور اعظم شرط اسلام ہے۔ جب تک یہ نہ ہو سب بے کار ہے۔ اور اس طریق سے اس کو اس کے ساتھ قرب نہ ہو گا بلکہ بعد ہو گا اور یہ باریک بات ہے جس کے سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔

لوسنو! ایک شخص ہندو جو ایک بزرگ سے بیعت تھا ان کی وفات کے بعد وہ حضرت مولانا نگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مولانا کے ایک معتقد مولوی صاحب کا سفارش پر چہ لیکر بغرض تجدید بیعت حاضر ہوا اور حضرت مولانا سے درخواست کی کہ مجھ کو بیعت فرمائیں مولانا نے جواب میں صاف فرمادیا کہ پہلے اسلام لے آؤ۔ وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اور واپس چلا گیا۔ اس پر بعض حاضرین نے حضرت مولانا سے عرض کیا کہ اگر حضرت بیعت فرمائیتے تو اسلام سے اس شخص کو کچھ قرب نہیں ہو جاتا۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ نہیں تم اس کو نہیں سمجھ سکتے اس کو اسلام سے زیادہ بعد ہو جاتا وجہ یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ذکر و شغل میں جو یکسوئی ہوتی ہے اس سے بعض اوقات کشف وغیرہ ہو نے لگتا ہے جو کہ کوئی کمال مقصود نہیں مگر اس سے وہ ذاکر غلطی سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وصول الی اللہ کے لئے اسلام بھی شرط نہیں حالانکہ وصول سے ان چیزوں کو کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے دوسرے لوگوں کے عقائد خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے کہ تصوف میں اسلام بھی شرط نہیں۔

اب رہایہ سوال کہ ان بزرگ نے اس ہندو کو کیوں مرید کر لیا تھا بات یہ ہے جن بزرگ سے وہ مرید ہوا تھا وہ مجدد بنتھے ان لوگوں کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے اگر نظر ہو گئی تو چھوٹی چھوٹی اور معمولی معمولی باتوں پر ہو جاتی ہے اور نہ ہو تو پڑی سے بڑی بات پر نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ

جذب کی وجہ سے استغراق کیفیت ان حضرات پر غالب رہتی ہے اس لئے ان کا فعل جحت نہیں۔ فرمایا کہ کیسی عجیب و غریب حضرت مولانا نے تحقیق بیان فرمائی واقعی یہ حضرات حکیم ہوتے ہیں محققانہ شان ان کی نظر حقیقت پر پہنچتی ہے۔

ملفوظ ۲۱: گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا سوال

فرمایا کہ ایک خط آیا ہے پوچھتے ہیں کہ تصویر کارکناہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ؟ جواب: میں نے لکھا ہے کہ کہبھی کپڑوں کے بکس میں کبھی آگ روکتے ہوئے بھی یہ تحقیق کی ہے کہ یہ چھوٹی چنگاری ہے یا بڑا انگارہ۔

ملفوظ ۲۲: مدفن کے لئے نماز جمعہ کا انتظار نہ کریں

ایک صاحب نے سوال کیا کہ نماز فخر کے بعد بروز جمعہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو قبل از جمعہ اس کو دفن کیا جائے یا بعد از نماز جمعہ؟ فرمایا کہ جلد سے جلد دفن کر دینا چاہئے جمعہ کے بعد کا انتظار نہ کیا جائے عرض کیا اس وجہ سے دریکرتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد نمازی زیادہ ہونگے۔ فرمایا مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں بے چاروں کو خبر نہیں دریکرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ عرض کیا کہ یہ بھی نہ ہے کہ جمعہ کے روز جو مر جاتا ہے اس کا حساب قیامت تک فرشتے نہیں لیتے فرمایا اس حدیث کا صحیح محمل ہی ہے مگر یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ یوم جمعہ کی فضیلت ہے نماز جمعہ سے قبل یا بعد کو کوئی دخل نہیں۔

ملفوظ ۲۳: مسجد کے معاملہ میں مسلمان کی مداخلت

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک مقام پر مسجد کے متعلق ہندو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا ہے ایک مسلمان جس کا نام جمال الدین ہے وہ ہندوؤں کی طرف سے مسجد کے معاملہ میں رخنہ اندازی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں گا اور ہندوؤں سے کہتا ہے کہ مسجد متنے دو میری بات تو جبھی رہے گی فرمایا جمال الدین نہیں وہ تو زوال الدین نے عرض کیا کہ ایک بہت بڑے بزرگ سے مزید ہے۔ فرمایا کہ اس رکی پیری مریدی کا کیا اثر ہو سکے

ہے لوگ بزرگوں کو بھی بدنام کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جب ضعف ہوتا ہے مسلمانوں ہی کی بدولت ہوتا ہے۔

فرمایا کہ کس قدر دلیری اور گستاخی کی بات ہے کہ مسجد کے معاملہ میں مسلمان ہو کر مخالفت! ایسی بات سنکر بھی دل ڈرتا ہے حق بجانہ تعالیٰ کے قبر سے ڈرنا چاہئے۔ جمال الدین پریاد آیا ریاست بھوپال میں مشی جمال الدین صاحب وزیر ریاست تھے اس وقت توزیعت کا منصب برائے نام ہی رہ گیا ہے اس زمانہ میں وزیر ہی سلطنت کا مالک ہوتا تھا اور ان سے رئیس نماج بھی کر لیا تھا اس کی وجہ سے اعزاز اور بھی بڑھ گیا تھا۔ مشی جمال الدین کے نام سے مشہور تھے مگر عالم تھے اور یہ مشی کا لقب بھی اس وقت معمولی نہ تھا۔

غرضیکدان کا بہت بڑا اثر اور اعزاز تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ مسجد میں لوگوں نے ان کو نماز پڑھانے کیلئے مصلے پر کھڑا کر دیا اور جو دنیا کی حیثیت سے بڑا ہونے کے انہیں حق پرستی بہت ہی بڑھی ہوئی تھی اور جن رئیس سے نماج ہوا تھا وہ بوجہ اپنی ریاست کے انتظام کے پرداہ نہ کرتی تھیں۔ یہ جس وقت مصلے پر پہنچ چکے اتفاق سے ایک مسافر والا یعنی مولوی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے انہوں نے ان کا باتھ پکڑ کر مصلی پر سے کھینچ لیا کہ تمہاری بی بی پرداہ میں نہیں رہتی تم کو حق نماز پڑھانے کا نہیں کوئی اور نماز پڑھانے اب وزیر صاحب کی وجہ سے مصلے پر جائے کون! کس کی ہمت تھی بالخصوص ایسے گزر بڑے وقت جبکہ وزیر صاحب کی ناگواری کا اندیشہ تھا جب کوئی آگے نہ بڑھا تو وہ مولوی صاحب والا یعنی خود مصلے پر پہنچ اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ وزیر صاحب بے چارے کچھ نہیں بولے اور باجماعت نماز پڑھ اور سیدھے مسجد سے اس رئیس کے پاس پہنچ اس وقت وہ رئیس اجلاس میں تھی برسرا جلاس سب کے سامنے اس رئیس کو مخاطب کر کے وزیر صاحب نے کہا کہ بی بی تمہارے پرداہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا یا تم اس وقت وعدہ کرو کہ میں پرداہ میں بیٹھوں گی اگر وعدہ نہیں کرتی تو تم طلاق۔ حق پرستی کا کیا نہ کان اللہ اکبر! کہ برسرا اجلاس صاف کہہ دیا اور ذرا جھگک نہ ہوئی۔

بات یہ تھی کہ گورنریس تھی مگر تھی قدر دان۔ اور پھر آخر یوں ہی تھی۔ انہیں کا ایک دوسرا واقعہ ہے تعظیم دین کا۔ ایک مرتبہ ان کے یہاں کوئی تقریب تھی اس میں بڑے بڑے لوگ مدعو تھے اہل محل کو کھانا رکھا جا رہا تھا کہ ایک بھتیجی آیا آکر عرض کیا کہ میاں سلام میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں وزیر صاحب نے سب کام چھوڑ چھڑا سے مسلمان کیا اور خدمتگار کو حکم دیا کہ اس کو حمام میں لے جا کر غسل کرو اور ہمارے جوڑوں میں سے ایک جوڑہ پہننا کر لاؤ تمام حاضرین کو حیرت۔ خدمتگار نے غسل والا کر جوڑہ پہننا کر حاضر کر دیا حکم دیا کہ دسترخوان پر بٹھلاو۔ دسترخوان پر بڑے بڑے لوگ تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کے تیور بدل گئے مشی صاحب نے فرمایا کہ آپ صاحب پریشان نہ ہوں آپ کے ساتھ اس کو نہ کھاؤں گا اس کے ساتھ میں کھاؤں گا۔ یہ اس قدر پاک صاف ہے کہ اس وقت مجلس میں بھی کوئی ایسا پاک صاف نہیں یہ بھی مسلمان ہوا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں اس کے ساتھ کھانے کی دولت میں نے اپنے لئے تجویز کی ہے۔ آپ حضرات کی قسمت ایسی کہاں کہ ایسے شخص کے ساتھ کھا کر برکت اور شرف حاصل کرو تم گھبراو مت میں اس کے ساتھ کھاؤں گا۔ غرضیکہ اس نو مسلم کے ساتھ اسی وقت بیٹھ کر کھانا کھالیا۔ کس قدر بے نفسی اور حق پرستی کی بات ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ساری عمر میں مجھ کو ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ میں کا لبی گیا تھا ایک شخص نہایت صاف سترالباس پہنے ہوئے جامع مسجد میں نماز پڑھنے آیا۔ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ نو مسلم ہے پہلے بھتیجی تھا اب مسلمان ہو گیا ہے یہاں کے چودھری ساتھ کھلانا تو بڑی بات ہے اس کی چھوٹی ہوئی بات تھی کہ چیز کو بھی قبول نہیں کرتے میرا وہاں پر جانا ایک جلسہ کی وجہ سے ہوا تھا اس جلسہ میں بڑے بڑے لوگ جمع تھے اور وہ نو مسلم بھی تھا۔

بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس موقع پر ان لوگوں کو سمجھا وہ کہ ایسا چھاؤ اور پرہیز مسلمان ہو جانے کے بعد نہیں کرنا چاہئے اس میں اس کی دل شکنی ہے میں نے دل میں خیال کیا کہ دل شکنی بھی نہیں اس میں تو دین شکنی کا بھی اندیشہ ہے مگر زیر سمجھا نے اور زبان سے کہہ دینے سے کیا کام چلے گا۔ یہ لوگ پرانی وضع کے ہیں کیا اثر قبول کریں گے۔ میں نے کہا بہت اچھا!

میں سمجھاتا ہوں ایک لوٹے میں پانی منگا وغیرہ کیہے پانی آیا میں نے اس نو مسلم سے کہا کہ اس کو نوٹی فی سے منہ لگا کر پانی پیو اس نے پیا۔ اس کے ہاتھ سے لوٹا لے کر اور اسی طرح منہ لگا کر اس کا بچا ہوا پانی جھوٹا میں نے پیا پھر میں نے اس مجھ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تم بھی پیو اس وقت سوائے مان لینے اور پی لینے کے کسی کوئی عذر نہ ملاب سب نے طوعاً و کراہاً پیا۔ اس کے بعد میں نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو اب اس نو مسلم سے پرہیز نہ کرنا کہنے لگے کہ جی اسے پرہیز کرنے کا ہمارا منہ ہی کیا رہا تم نے تدبیر ہی ایسی اختیار کی کہ ہمارا سارا دھرم ہی لے لیا۔ اب اطمینان رکھو اس کو تو ہم ساتھ کھلا پا بھی لیا کریں گے۔

فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ میں پی تو گیا مگر اندر سے جی رکتا تھا اللہ معاف کرے اور کچھ یہ بات اسی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کسی کا جھوٹا پانی یا کھانا مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ کچھ اندر سے رکاوٹ ہوتی ہے اگر سب اس کا کبر ہے تو حق تعالیٰ معاف فرمائیں اور اگر سب اس کا ضعف طبیعت ہے تو محدود ہے یا اگر زیادہ تاویل کوئی معتقد کرے تو یہ کہ لطافت ہے نفس بھی عجیب چیز ہے خود ہی ایک خوب صورت عنوان تراش کر تلا دیا میں نے کبھی بزرگوں کا جھوٹا پانی یا کھانا بھی نہیں کھایا پیا الانادر آ۔ مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ان کی کسی برکت سے محروم نہیں رکھا۔ اپنے بزرگوں کے یہاں اصلی ہی چیزیں اس قدر تحسیں کہ ان کی بھی برکت کافی ہو گئی۔ ان زائد چیزوں کی حاجت ہی نہیں ہوئی اور یہ نکتہ شاعرانہ تھا دل خوش کرنے کو بیان کر دیا ورنہ کوئی چیز بھی ان حضرات کے یہاں زائد تھی سب اصلی ہی تھیں لیکن اصلی دوسری اصلی کا بدل تھا۔

غرض یہ حکایت ہے جو مجھ کو تمام عمر میں ایک مرتبہ پیش آئی اس پر میں حق بجا نہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ گو طبعاً کراہت ہوئی مگر الحمد للہ عقلاً اس کو نہایت خوشی کے ساتھ دل نے قبول کر لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسی حق تعالیٰ سے ڈرتا چاہیے اس کی وہ قدرت ہے کہ کافر کو چاہیں مومن کر دیں اور مومن کو چاہیں تو نحوذ باللہ کا فرکردیں خوب کسی نے کہا ہے

کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو ☆ لاوے بُت خانہ سے وہ صدیق کو

یہ لکڑا ابراہیم کا شعر ہے یہاں صدیق سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جیسا کلام اللہ میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں : إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَ هُبْتَ خَانَةَ كَعْبَةَ مِنْ آنَّے اور زندیق سے مراد ابو جہل ہے۔

حضرت خدا سے ڈرنا چاہئے اپنے ایمان پر کبھی انسان نازاں نہ ہو اور کسی کو تھیر نہ سمجھنا چاہئے۔ حتیٰ کہ کسی کافر کو بھی تھیر ڈیل نہ سمجھنا چاہئے۔ کہ شاید مسلمان ہو جائے نہ کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی ڈیل سمجھا جائے یہ تو نہود بالله خدا کا مقابلہ ہے۔ خدا جانے آئندہ کیا ہونے والا اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے۔

مِلْقُوطٌ : ۲۲۷ حضرت کے وعظ "محاسن اسلام" کا نفع علم

فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ریل میں سفر کر رہا تھا میرے ایک دوست ڈپٹی صاحب میرے ہمراہ تھے وہ محاسن اسلام و ععظ دیکھ رہے تھے ایک ہندو آریہ اسی ڈوب میں ہمارے قریب بیٹھا ایک دوسرے شخص سے گفتگو کر رہا تھا اندازہ سے معلوم ہوتا تھا کہ اپنے مذہب کا جانے والا ہے اور بولنے والا ہے وہ شخص جس سے وہ ہم کلام تھا ایک اسٹیشن پر اتر گیا اب اس طرف متوجہ ہوا اور ڈپٹی صاحب سے کہا کہ یہ کیا کتاب ہے یہ کہہ کرو وہ وعظ بعرض دیکھنے کے ہاتھ سے لے لیا اور دیکھنا شروع کیا کچھ دیر دیکھنے کے بعد دفعہ اس کے منہ سے بجان اللہ لکانہ معلوم کون سے مضمون پر اس کی یہی حالت ہوئی اسلئے کہ وعظ تو اس کے ہی ہاتھ میں تھا فرمایا سید حسین اور کچی بات کا قلب پر اثر ہوتا ہے اگرچہ کافر ہی ہو یہ وعظ محاسن اسلام زمانہ قتنہ ارتداد میں ایک موضع ہے الجو پی پلے میراث میں وہاں پر ہوا تھا یہ مفید ثابت ہوا اس قرب و جوار کے بعض دیہاتی ارتداد کی طرف مائل ہو گئے تھے اسی ضرورت سے یہ وعظ ہوا تھا بفضلہ تعالیٰ اس وعظ کو سن لینے کے بعد ان میں سے ایک شخص بھی ارتداد کی طرف مائل نہیں رہا۔ معتبر خصین کے تمام اعتراضوں کے جوابات اس میں دیدیئے گئے ہیں واعظین اور مبلغین کیلئے بے حد مفید چیز ہے۔

۲۸ شعبان المعظم ۱۳۵۰ھ مجلس بعد نماز جمع

بد فہمی کا کوئی علاج نہیں

ملفوظ ۲۵:

فرمایا کہ ایک صاحب سے خط و کتابت ہو رہی ہے کچھ ذکر و شغل کرنا چاہتے ہیں میں نے لکھا تھا کہ قصد اس بیل دیکھا کرو۔ لکھا کہ دیکھی تھی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے لکھا کہ کسی سمجھدار سے سمجھلو۔ آج لکھتے ہیں کہ میں اپنے ہادی اور آقا کے سوا کسی کو سمجھدار ہی نہیں سمجھتا فرمایا ان لوگوں کی اصلاح کس طرح کروں اس بد فہمی اور کوڑ مغزی کا میرے پاس کیا علاج ہے۔

ملفوظ ۲۶: ایک خاتون کا خط اور درخواست بیعت

فرمایا کہ ایک بی بی کا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ میں بیعت ہوتا چاہتی ہوں اور اپنے خاوند کا پرچہ دشمنی ہمراہ ہے فرمایا کیسے سلیقے کی بات ہے اب کیا عذر کر سکتا ہوں سید ہمی سید ہمی بات لکھی ہے اس لئے مرید کرنا ہی پڑ گیا جواب میں حضرت والانے لکھا کہ بہشتی زیور کے مسائل پر اور قصد اس بیل کے وظائف وہدایات پر اور میرے مواعظ کے نصائح پر عمل کرو تو اس شرط پر بیعت کرتا ہوں۔

ملفوظ ۲۷: پیری کرنا بھی مشکل ہے

فرمایا جیسے حکومت کرنا مشکل ہے ایسے ہی پیری کرنا بھی مشکل ہے کوئی راضی ہے کوئی شاکی ہے کوئی حاکی ہے کہاں تک ہر شخص کو خوش رکھا جا سکتا ہے۔

ملفوظ ۲۸: پیر کے نام کے مطابق اسم باری تعالیٰ تلاش کرنا

فرمایا کہ ایک پیر کے نام کا مرید ہیں وظیفہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کا نام ہے یا وارث۔ میں نے کہا کہ ہاں ایک ہی تو نام ہے خدا کا یا وارث اور تم اس ہی نیت سے تو پڑھتے ہو۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حیدر آباد سے ایک پیر آئے تھے فلاں مقام پر جب حلقة کرتے تھے تو اس میں یا بھیک یا بھیک کے نفرے لگاتے تھے تبسم فرمائے بطور مزاح حضرت والانے فرمایا کہ لا

بھیک لا بھیک ہی کے نعروہ کیوں نہ لگائے مقصود بھی حاصل ہوتا اور جائز بھی ہو جاتا یعنی کچھ مل بھی جاتا فرمایا ان ہی شرکیات میں جتنا ہیں اس کا سبب جہل ہے۔

ملفوظ ۲۹: شجاع رحم دل ہوتا ہے اور بزدل بے رحم

فرمایا کہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ شجاع آدمی ہمیشہ رحم دل ہوتا ہے اور بزدل ہمیشہ بے رحم ہوتا ہے تجربہ ہے ہندوستان ہی میں دیکھے تجھے ماشاء اللہ مسلمان شجاع ہیں ان کا اگر کبھی قابو پڑ جاتا ہے تو بے حد رحم دلی کا برداشت کرتے ہیں اور دوسری قویں اس کے بر عکس صد باظائر اس کے موجود ہیں۔

دیکھئے ترک سب سے زیادہ شجاع قوم ہے بے حد رحم دل ہے۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ خود کشی کرتا بھی بزدلی پر دال ہے خود کشی وہی کرتا ہے جو بودا ہوتا ہے۔ مصیبت کا تحمل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ عورتیں زیادہ خود کشی کرتی ہیں کیا ان کو کوئی شجاع کہتا ہے۔ اس پر فرمایا کہ یہاں پر ایک شخص آئے تھے انہوں نے خود کشی کی۔ عجیب بات یہ ہے کہ نہ تڑپے نہ آوازنکلی۔ بڑے ہی استقلال سے اس شخص نے جان دی مگر سبب اس کا وہی بزدلی کہ حادثات کا مقابلہ نہ کر سکے یہ کون سی بہادری کی بات ہے اور عجیب بات ہے کہ ضرب کے بعد آدمی اضطرار اڑ پتا تو ہے مگر کچھ نہیں کوئی نشان تڑپنے کا تھا ہی نہیں حیرت ہو گئی مجھ کو تو بڑا رنج بڑا احمد مدد بڑا اقلق ہوا کہ جایندہ خدادل کی کچھ کہہ تو لیتا انشاء اللہ کیسی ہی بات ہوتی تسلی تشفی کر دیتا۔ مجھے اس واقعہ میں صرف اسی بات کا رنج ہے کہ اس نے اپنے دل کی کبھی ہی نہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ خود کشی کی عنده اللہ مسواخذہ اپنے ذمہ لیا فرمایا جی ہاں شاید عند اللہ مخدور ہو کسی کو کیا خبر! اس شخص پر کیا گزر ہی تھی جس کو وہ برداشت نہ کر سکا اللہ ہی علیم ہے۔

ملفوظ ۳۰: تحریک خلافت میں دشمنی کے واقعات سے باطنی نفع

فرمایا کہ زمانہ تحریک خلافت میں ہر قسم کے ازامات اور بہتان میرے سر پر تھوپے گئے ہیں میں نے کہا کہ کہہ لو بھائی جو تمہارا جی چاہے اللہ سے معاملہ ہے وہ تو دیکھو ہے ہیں۔ تمہارے بر ایجاد کرنے سے ہوتا کیا ہے اور میرا ضرر کیا ہے بلکہ اس صورت میں نفع کی تو توقع ہے کہ کچھ نیکیاں

مل جائیں الحمد للہ مجھے ان قصوں میں کسی سے بغض نہیں ہوا لیتے شکایت ضرور ہوئی وہ بھی دوستوں سے غیروں سے وہ بھی نہیں۔ میں نے سب کو دل سے سب معاف کر دیا تھا جو کچھ کہہ چکے وہ بھی اور جو آئندہ کبوود بھی۔ میری وجہ سے اگر کسی مسلمان کو عذاب ہو تو میرا کیا بھلا ہوگا اور معافی میں تو مجھے امید ہے کہ حق تعالیٰ میرے اوپر رحم فرمادیں یہاں تک نوبت آئی تھی کہ چاروں طرف سے دھمکی کے خطوط آتے تھے ایک مقام سے خط آیا کہ آپ کی خاموشی عنقریب آپ کے چراغ زندگی کو خاموش کر دے گی۔ میں نے ردی میں ڈال دیا اور ہود علیہ السلام کا یہ قول یاد آیا فکیدو نی جمیع ائم لا تنتظرون انی تو کلت علی اللہ ربی و ربکم ان لخ سوتم سب مل کر میرے ساتھ داؤ گھات کرلو۔ پھر مجھ کو ذرا مہلت نہ دو میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے کہ مجھے بحمد اللہ ان واقعات سے بہت نفع ہوا۔ ایک حالت تو یہ ہوئی کہ پہلے دنیا سے طبعی نفرت نہ تھی ان واقعات سے طبعی نفرت ہو گئی مخلوق سے نظر بالکل انہوں نے اور ایک حق تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق تعالیٰ کے دو ملک ہیں۔ ایک دنیا اور ایک آخرت! مالک کو اختیار ہے کہ اپنی رعیت کو جہاں چاہے بسادے۔ چنانچہ ایک وقت تک دنیا میں بساتے ہیں دوسرے وقت آخرت میں بسادیں گے۔

ملفوظ ۱۳: ترک موالات

فرمایا کہ میں نے اس زمانہ تحریک ہی میں کہا تھا کہ اگر بجاۓ بعض عنوانات کے عنوان کی تعین کر کے سوالات کریں تو میں جواب دوں چاہے کسی کے بھی خلاف ہو ایک صاحب کا اسی زمانہ میں ایک سوال کا خط آیا میں نے لکھا کہ ترک موالات کا عنوان حذف کر کے متعدد واقع پوچھو۔ میں جواب دوں گا۔ یہیں پر اس زمانہ میں ایک علی گڑھ کا طالب علم آیا جو عصر کے وقت آیا مگر نماز نہیں پڑھی اس نے مجھ سے ترک موالات ہی کے متعلق کچھ پوچھنا چاہا تھا۔ میں نے کہا کہ پہلے اپنی توخبر لو۔ انگریزوں سے تو ترک موالات اس لئے کیا تھا کہ ترکوں سے لڑے مگر جونماز جو نہیں پڑھی تو خدا سے ترک موالات کیوں کیا شاید اسلئے کہ اس نے انگریزوں کو غلبہ کیوں دیا۔

۳۲: ملفوظات انتظام کا فقدان اور انتظام کا انتظام

فرمایا کہ ہمارے بھائیوں میں اتباع کا مادہ نہیں اگر دین کا بھی کامل نہ ہو تو یہ مادہ تو ہو کے کسی کا اتباع کریں بھی وجہ ہے کہ یہ بر باد ہیں اور ایک سبب یہ ہے کہ ان میں نظم اور اصول کی پابندی نہیں ہے۔ اگر یہ کام کریں اور انتظامی مادہ بھی ان میں ہو تو ادھر تو انتظام اور احمدیس پھر تو کھلی نصرت ہے۔ صحابہ کے زمانہ میں قیصر اور کسری کے مقابلہ میں مسلمانوں کی کیا جیت تھی۔ مگر اہل دین تھے اور منظم تھے اگر دین کے ساتھ انتظام صحیح ہو تو پھر یکجھوکیا ہوتا ہے باقی غیر منظم صورت میں اپنے کو پہنچانا ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ جان خدا کی امانت ہے اگر ہماری ہوتی تو لاستقتلوا انفسکم (اپنے نفسوں کو قتل کرو) کا حکم نہ ہوتا مال جو کہ ملکتب ہے وہ بھی ہمارا نہیں جان ہماری کیوں ہوتی۔ خدا کے لئے جان کیا چیز ہے مگر یہ تو اطمینان ہو کہ یہ یقیناً خدا کے واسطے صرف ہوتی تذبذب کی حالت میں جان دینا تو کیونکر جائز ہوگا ہم کو تو حکم ہے کہ تذبذب کی حالت میں جگہ ان کی بابت دم میں تردہ ہو کفار کی جان بھی نہ لیں ہم کو تو فخر ہے جو قوم اسلام کی دشمن ہے اس کے بھی حقوق بتائے ہیں آیت: وَلَا يَجِرْ مَسْكُمْ شَانْ قَوْمٍ عَلَى آنَ لَا تَعْدِلُوا۔ (اور ایسا نہ ہو کہ تم کو کسی قوم سے جو اس سبب سے بغضہ ہو کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا وہ تمہارے لئے اس کا باعث ہو جائے کہ تم حد سے نکل جاؤ)۔

حدیث: قال صلی اللہ علیہ وسلم احب حبیک هونا ماعسی ان یکون بغیضک یوم ما وابغض بغیضک هونا ماعسی ان یکون حبیک یوم ما۔ (فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ دوست سے دوستی اعتدال کے ساتھ کرو۔ ممکن ہے کہ وہ کسی وقت تمہارا دشمن ہو جائے اور دشمن سے دشمنی اعتدال سے کرو ممکن ہے کہ وہ کسی وقت تمہارا دوست ہو جائے) کفار بغیض ہیں مگر ان سے بغضہ رکھنے میں بھی اعتدال مطلوب ہے۔ اسی طرح بغضہ و محبت میں اعتدال لازم ہے بے موقع ذکر اللہ تک کو فتحاء نے منع کیا ہے بلکہ بعض مقامات پر کفر کہا ہے جیسے حرام طعام پر بسم اللہ کہنا۔ غرض ہر چیز کے حقوق اور حدود ہیں۔

ملفوظ ۳۳: سلطنت کو ظلم سے زوال ہوتا

فرمایا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کفر سے سلطنت کو زوال نہیں ہوتا ظلم سے زوال ہوتا ہے۔

ملفوظ ۳۴: سیاسی تحریکوں کے زمانے میں دینی مقتداوں کی حالت

فرمایا کہ شورش کے زمانہ میں یہاں تک نوبت آگئی تھی کہ ایک بہت بڑے علامہ نے اسی زمانہ میں مجھ سے بیان کیا تھا فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں ایک فتویٰ آیا کہ ولايتی کپڑا پہننا جائز ہے یا نہیں۔ اب اگر یہ لکھا جاتا ہے کہ جائز ہے تو اپنے مقاصد میں خلل آتا ہے اور ناجائز کیسے کہیں کیونکہ واقع میں تو جائز ہے اس لئے اس کے خلاف بھی نہیں کر سکتے تواب کیا کریں فرماتے ہیں کہ یہ جواب دیا گیا کہ ولايتی کپڑا پہننا قابل موافذہ ہے۔ اور کہنے لگے کہ اس لکھنے میں حکمت یہ تھی کہ وہ تو یہ سمجھیں کہ خدا کے یہاں کا موافذہ ہو گا اور ہم یہ سمجھیں کہ اپنے دوستوں کا موافذہ ہو گا۔ میں نے کہا کہ مولانا تو بہ کچھ یہ تو شریعت مقدسہ میں تحریف ہے اور مسلمانوں کو دھنوکا دینا ہے فرمایا کہ اسکی ایسی باتیں سن کر دل کا نپ جاتا تھا کہ اے اللہ! دین کا ان لوگوں کے دلوں سے احترام ہی جاتا رہا۔ حضرت عوام کی کیاشکایت کی جائے وہ تو بوجہ جہل کے ایک درجہ میں معدود بھی سمجھے جاسکتے ہیں۔ مگر ان لکھنے پڑھے جنوں کو کوئی کیا سمجھائے اللہم احفظنا۔

ملفوظ ۳۵: خیر القرون کا سوادا عظیم مراد ہے

فرمایا کہ آجکل جمہوریت کو شخصیت پر ترجیح دی جا رہی ہے اور کہتے ہیں کہ جس طرف کثرت ہو وہ سوادا عظیم ہے اسی زمانہ میں میرے ایک دوست نے اس کے متعلق عجیب و لطیف بات بیان کی تھی کہ اگر سوادا عظیم کے معنی یہ بھی مان لیے جائیں کہ جس طرف زیادہ ہوں تو ہر زمانہ کا سوادا عظیم مراد نہیں بلکہ خیر القرون کا زمانہ مراد ہے جو غالباً خیر کا وقت تھا ان لوگوں میں سے جس طرف مجمع کیشہر ہو وہ مراد ہے نہ کہ ثم یفسوا الكذب پھر جھوٹ پھیل جائے گا یہ کا زمانہ کہ یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ بعد خیر القرون کے کثرت شر میں ہو گی۔ مجھے تو یہ بات بہت ہی پسند آئی واقعی کام کی بات ہے اگر یہ اشکال ہو کہ امام ابوحنیفہ نے بعض مسائل میں سوادا عظیم کا اختلاف

خیر القرون میں کیا ہے۔

جواب یہ ہے کہ اس وقت خیر القرون والے امام صاحب کی بات کو یقیناً باطل نہ کہتے تھے بلکہ اس پر متفق تھے کہ شاید امام صاحب ہی حق پر ہوں تو احتمال حقانیت پر سواداً عظیم متفق تھا۔

ملفوظ ۲۳: امور تکوییہ اور مجد و ب

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت سناء ہے کہ یہ امور تکوییہ مجددین کے متعلق ہوتے ہیں بدوں عقل کے وہ کام کیے کرتے ہوں گے فرمایا ان کے متعلق ہونا صحیح ہے اور گوان میں عقل نہیں ہوتی لیکن جو کام ان کے پر دیکھا جاتا ہے اس میں عقل کی ضرورت نہیں اس لئے اس کو بخوبی انجام دیتے ہیں کیونکہ انجام دینا عقل پر موقوف نہیں بلکہ سلامت حواس بھی کافی ہے جیسے بچہ کہ اس کو عقل تو ہوتی نہیں مگر حواس ہوتے ہیں۔ بھوک پیاس میں کھانے پینے کو مانگتا ہے خوشی کی بات سے خوش ہوتا ہے رنج کی بات سے اگر ڈرایا جائے یا بنسایا جائے ڈرتا ہے ہوتا ہے ان چیزوں میں عقل کی ضرورت نہیں یہ فطری چیزیں ہیں۔

خاصہ یہ ہے کہ عقل اور چیز ہے اور حواس اور چیز۔ پس ان مجددین کی حالت مشابہ بچوں کے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سالکین مراتب میں مجددین سے افضل ہیں اور بعض اوقات سلامت حواس بھی شرط نہیں ہوتی۔

۲۹ شعبان المعظم ۱۳۵۰ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم شنبہ

ملفوظ ۲۷: رمضان المبارک کی برکت کا احساس

فرمایا کہ آج رمضان المبارک کی برکت محسوس ہوئی۔ کوئی خاص اہتمام نہیں کیا مگر جی میں نشاط سامع معلوم ہوتا ہے امید ہے انشاء اللہ تعالیٰ اور شکایات بھی مثلاً کھانسی وغیرہ اس ماہ مبارک کی برکت سے جاتی رہیں گی۔ دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ماہ مبارک کے حقوق کے ایفاء کیلئے قوت و ہمت عطا فرمائیں ہم ضعیف ہیں ہر وقت ان کی رحمت اور توفیق کی ضرورت ہے۔

لفظ ۳۸: رمضان المبارک کے فضائل و حقوق

فرمایا! کہ یہ ہمینہ بڑی ہی برکت اور رحمت کا ہے اگر حق تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی قوت اور توفیق عطا فرمائیں کہ حقوق واجبہ ادا ہوتے رہیں اور معاصی سے اجتناب رہے یہی بڑی دولت ہے اس سے آگے کی تمنا کرنا بڑے لوگوں کا کام ہے ہم جیسے کمزوروں کے لئے تو یہی سب کچھ ہے انکی ذات سے تو سب کچھ امید ہے بڑے رحیم ہیں وہ تو ناقصین کو بھی محروم نہیں رکھتے طلب شرط ہے۔ بندوں کو بھی چاہئے کہ جیسے کچھ ہیں بڑے بھلے دربار میں پیش ہو جایا کریں اور اپنی وسعت اور قوت سے کام لیں پھر تو وہ خود اپنی طرف کھیث لیتے ہیں۔ ارادہ اور ہمت بڑی چیز ہے اس کی برکت سے بڑا خت سے سخت کام سہل اور آسان نظر آنے لگتا ہے۔ جہاں کسی سخت چیز ہے کہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں مگر ہمت و ارادہ اس کو بھی سہل کر دیتا ہے۔ خصوصاً معاصی سے اجتناب بہت ضروری ہے مگر دیکھایے گیا ہے کہ اور زمانہ میں تو لوگوں کو اس کا خیال بھی نہیں ہوتا اور جہاں رمضان شریف شروع ہوئے گنجفہ، شطرنج کثرت سے شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بہاء اور دن گزارنے کیلئے کرتے ہیں۔ بندہ خدا قرآن کی تلاوت کی ہوتی۔ ذکر اللہ میں مشغول ہوا ہوتا۔ کسی نیک مجلس نیک صحبت میں بیٹھا ہوتا مگر کچھ بھی نہیں کرتے آزادی کا زمانہ ہے کسی کا ادب نہیں خوف نہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔

لفظ ۳۹: رمضان المبارک میں معاصی سے بچنے کا خاص اہتمام

فرمایا! کہ اس ماہ مبارک میں جمل معاصی کو ترک کرنا چاہیے خواہ معاصی با تھی یا پیر کے ہوں آنکھ کے ہوں کان کے ہوں زبان کے ہوں قلب کے ہوں اور یوں تو ترک معاصی اس ہی ماہ کے لئے خاص نہیں وہ ہر وقت ہی بچنے کی چیز ہے مگر اس ماہ میں اتنا اور ہے کہ جیسے اعمال صالح پر اجر اور ثواب زیادہ ہے گناہ پر سزا بھی زیادہ ہے۔

لفظ ۴۰: کامل کی صحبت سے ہمت پیدا ہوتی ہے

فرمایا! کہ ہمت سے اگر انسان کام لے کوئی بھی مشکل نہیں اور یہ ہمت پیدا ہوتی ہے

کسی کامل کی صحبت میں رہنے سے اور رہنے سے یہ مراد نہیں کہ بال بچوں کو چھوڑ کر ملازمتوں استغفاری دے کر زراعت بند کر کے اس کے پاس چاپڑو بلکہ اگر وقت ملے تو اس کے پاس گاہ جانا بھی چاہیے اور خط و کتابت سے ہمیشہ اپنے حالات کی اطلاع کرتا رہے جو کچھ وہ تعلیم کر اس پر کار بند رہے پھر انشاء اللہ تعالیٰ ہمت پیدا ہو جائے گی بدلوں صحبت کامل اور بغیر اس سے پیدا کئے کام بننا مشکل ہے گو غیر ممکن نہیں مگر شاذ و نادر ضرور ہے مولا نافرماتے ہیں۔

قال راجب ندر مروحال شو ☆ پیش مرد کا ملے پامال شو

(یعنی ظاہر اور باطن دونوں کی درستی میں لگو۔ اور کسی مرد کامل کی خدمت میں اپنے کو پرداز کر دو) بغیر جو تیاں سیدھی کئے ہوئے کامیابی آسان نہیں آخر طبیب کے پاس جا کر کے کیوں کراتے ہیں سمجھتے ہیں کہ مرعش سے نجات اور تندرستی بغیر طبیب کے پاس جائے نہیں ہو سکتی تو وہ امراض جسمانی کا معانج ہے اور یہ امراض روحانی کا معانج مگر ایک کی ضرورت یہ کسی کو بھی کلام نہیں اور دوسرے کی ضرورت میں کلام کیا جاتا ہے وجہ فرق کیا ہے۔

ملفوظ ۲۱: نفس اور اخلاق ذمیمہ

فرمایا! ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ نفس کو بھی لٹا میں سے شار کیا گیا ہے۔ گودا عی الی الشر ہے اور مطمئن ہونا اس کا عارضی ہے ریاضت سے ہے دبارہ تھا ہے یہ ہی وجہ ہے کہ بعض سالکین کو وہ کوہا ہو جاتا ہے بعد مجاہدہ کے اگر اپنے اندر طبیعیہ مذمومہ کا اثر پاتے ہیں اس سے مجاہدہ کے بے کار ہونے کا گمان کر بیٹھتے ہیں اور اکثر انتیجہ مایوسی سے تعطل ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر اخلاق ذمیمہ زائل ہو جائیں یا بالکل ہی ناجائیں تو پھر درجات اور ثواب کس چیز پر مرتب ہوں ہاں اگر اس قد ر مغلوب ہو جائیں کہاں اقتضاہ پر عمل کرنے کو بآسانی ترک کرنے کی قوت رائخ ہو جائے تو مقصود حاصل ہے گو بھی بھی منازعت بھی کرے تو اس پر غلبہ کی سعی میں لگا رہنا چاہئے پس طالب کی توبیہ حالت ہوئی چاہے اندر میں رہ می تراش و می خراش ☆ تاوم آخر دے فارغ مباش

(یعنی راہ سلوک میں تراش و خراش بہت ہے الہذا مرتبے دم تک ایک منت کیلئے بے فکر مت ہو)

ملفوظ ۲۲: معاصی سے نحوسٰت اور ظلمت کی دلیل نقی

فرمایا! کہ لوگ معصیت پر بہت دلیر ہو جاتے ہیں اس کی نحوسٰت سے تمام امراض روحانی پیدا ہوتے ہیں تو رانیت قلب سے جاتی رہتی ہے اور ظلمت بڑھ جاتی ہے تو معاصی میں بڑی ہی ظلمت اور تاریکی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور آثار کے اعتبار سے بھی حدیثوں میں اس کی تائید موجود ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کے قلب پر ایک سیاہ دھبہ پیدا ہو جاتا ہے اگر بندہ خلوص سے توبہ کر لیتا ہے تو حق تعالیٰ اس دھبہ کو قلب سے صاف فرمادیتے ہیں۔ اگر تو بہ نہیں کرتا اور اس گناہ کو پھر کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے تو وہ دھبہ پھیننا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ سارے قلب کو محيط ہو جاتا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں: **كَلَّا بَلْ زَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** ۔ (ہرگز ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے)۔

ای کو مولا نافرماتے ہیں

ہرگز زنگ سست بر مرات دل ☆ دل شود زیں زنگ با خوار و بخل
 چوں زیادت گشت دل راتیرگی ☆ نفس دوں رایش گرد و خیرگی
 (ہرگناہ دل کے آئینہ پر ایک زنگ کا داغ ہے جس کی وجہ سے دل ذلیل و شرمندہ ہو جاتا ہے اور جب دل کی تاریکی زنگ کی زیادتی کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے تو کہیئے نفس کی حیرانی بڑھ جاتی ہے)۔

ملفوظ ۲۳: حقوق واجبہ کا ترک، اور نوافل کا اہتمام

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ کسی فن کا مدون کرنا تھوڑا ہی مقصود ہے مقصود تو اس کے اصول پر کام کرنا ہے اور کام ہی کیلئے مدون کیا جاتا ہے مگر آج کل خود تحقیقات کو مقصود بالذات بنارکھا ہے ان ہی تحقیقات کی تحریک کیلئے احکام کی حکمتیں تلاش کی جاتی ہیں۔ بعض کی تو ساری عمران ہی زوائد میں ختم ہو جاتی ہے عمل کرنے کی ایک حکم پر بھی نوبت نہیں آتی۔ حالانکہ اصل

مقصود کام ہے یعنی نفس کی اصلاح اور اعمال کی خبرگیری۔ مگر مقصود کو چھوڑ کر غیر مقصود کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔

محققین کا نہ ہب یہ ہے کہ آم کھانے سے غرض نہ کہ پیڑ گئے سے۔ اس کی ایسی مثال ہے دیکھنے سکہ ہمارے کام کا ہے مگر یہ بات کہ اس کا مادہ کیا ہے اور کس کارخانہ میں بنتا ہے اگر نہ بھی معلوم ہو تو بھی وہی کام اس سے نکلیں گے جو معلوم ہونے پر نکل سکتے تھے۔ پس عمل کا اہتمام نہ کرنا بڑی کوتا ہی ہے اور عمل کو ہب تم بالشان سمجھنے کے بعد ایک کوتا ہی اور ہے جس میں عوام تو کیا خواص بھی بتلا ہیں کہ اعمال واجہہ کی وہ علت اور وقت قلوب میں نہیں جو غیر واجہہ کی ہے مثلاً (حقوق العباد وغیرہ کی فکر نہیں اور) نوافل و خلاف وغیرہ کی کثرت کو زیادہ منوجب قرب حق سمجھتے ہیں اور جو اصل مقصود تھا اسی کو حقیر سمجھا جاتا ہے کتنا بڑا ظلم عظیم ہے اور اعمال واجہہ کے حقیر سمجھنے کا سبب ان اعمال کا عรวม ہے کہ اس کو توسیب ہی کرتے ہیں۔ اسکی خصوصیت ہی کیا ہوئی لیکن اگر یہ وجہ حقارت کی ہے تو گئی اور روپیہ بھی توسیب ہی کے پاس ہے تو عรวม کی وجہ سے ان کو بھی حقیر سمجھنا چاہئے۔ اور جیب سے نکال کر پھینک دینا چاہیے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اس عรวม کے سبب اور وہ سے زیادہ ان کو جمع کیا جاتا ہے اور ہو اس سے زیادہ عام ہے عام اور ستا ہونا اگر اس کی دلیل ہے کہ وہ چیز حقیر اور ذلیل ہوتی ہے تو اس کو بھی حقیر اور ذلیل سمجھیں تاکہ اور مذہ بند کر لجئے حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اور کیا نعوذ باللہ انہیاء علیہم السلام ایسے کاموں کے اہتمام کیلئے میتوڑ فرمائے گئے تھے جن کو تم حقیر اور فضول سمجھتے ہو تو بکرنا چاہیے ان فاسد عقائد سے۔

پس اصل چیز اور اصل مقصود اعمال واجہہ ہی ہیں اور عรวม ہوتا ہی دلیل ہے افضلیت کی جیسے میں نے مثال عرض کی اسکے کی اور ہوا کی۔ کہ انکا عรวม مترسم نہیں حقیر اور فضول ہونے کو۔ بلکہ زیادہ نافعیت کی دلیل ہے۔

ملفوظات: ۲۳۴

آج کل درویشی دوپیسہ کی

فرمایا! کہ آج کل بزرگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے کپڑے گیردی ہوں لیں ناف تک

ہوں۔ چونگہ گنوں تک ہو۔ بڑے بڑے داؤں کی تسبیح ہاتھ میں ہو بس درد لیش ہیں۔ شاہ صاحب ہیں ولی کامل ہیں کیا خرافات ہے۔ غالباً ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آجکل درد لیش دو پیسے میں ملتی ہے ایک پیسہ کا گیر و خرید لیا کپڑے رنگ لئے ایک پیسہ کی تسبیح خرید لی اور درد لیش ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں کے طریق کو تو ظاہر ہر میں مولویت سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ اسے درد لیش سے کیا اعلق ایسے لوگوں میں تو جس قدر خلاف شریعت ہو وہ زیادہ کامل سمجھا جاتا ہے اسی کو مولا نا فرماتے ہیں۔

کارشیطان میکنی تامت ولی ☆ گروی این ست لحنت ہروی

(شیطانی کام کرتے ہو اور تمہارا نام ولی ہے اگر ولی یہی ہے تو ولی پر لحنت)

ملفوظ ۳۵: طریق کی دشواری اور مسئلہ اختیاری وغیراختیاری

فرمایا! کہ اس طریق میں دشواری اسی وقت تک ہے جب تک اس کی حقیقت سے بے خبری ہے حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد پھر اس سے زیادہ سہل اور آسان کوئی چیز نظر نہیں آتی لوگوں نے فتنہ معلوم ہونے کی وجہ سے اس کو ہوا بنا رکھا ہے اور اسی بری طرح تصوف کو پیش کیا ہے کہ بجائے رغبت کے لوگوں کو وحشت ہو گئی حالانکہ تصوف صرف ایک مسئلہ پر ختم ہے۔ عمل ایک اختیاری ہے ایک غیراختیاری۔ اختیاری کو لے کر غیراختیاری کے درپے نہ ہو۔

بس یہ ایک چھوٹی اور مختصری بات ہے۔ ایک لطیفہ یاد آیا چھوٹے اور مختصر ہونے پر۔ ایک پیر صاحب تھے ان کا مقولہ ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا انہوں نے میرا نام لے کر کہا کہ فی الحقیقت تصوف کو جس قدر سہل کر کے اس نے دکھایا ہے آج تک اس کی نظیر نہیں مگر بات یہ ہے کہ تعصیر کرنا بھی سہل حقیقت سمجھنا بھی سہل مگر عمل مشکل ہے۔ میں جواب میں کہا کرتا ہوں کہ تم جو یہ عذر حق تعالیٰ کے احکام میں کرتے ہو یہی عذر تمہارا نوکر یا غلام تمہارے کاموں میں کرے تب بتاؤ کہ کیا اس کو معدود سمجھو گے۔ اگر یہی موافقہ حق تعالیٰ نے فرمایا اور باز پرس کی تو جواب کیلئے تیار رہنا چاہئے۔

ملفوظ ۳۶: اسلام کی اشاعت ثانیہ

فرمایا! کہ کس طرح دل میں ڈال دوں جی چاہتا ہے کہ سب اس طرح راہ پر آجائیں گے
ان کی ہر ادا سے اسلام کی شان ظاہر ہو جیسے حضرات صحابہ کرام کو لوگ دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے
یہ ان کا نمونہ بن جائیں۔ دنیا و دین کی بہبود اسی میں مضمون ہے یہ امر واقعی ہے کہ اگر مسلمان اپنی
اصلاح کر لیں اور دین ان میں راخ ہو جائے تو دین تزوہ ہے تھی لیکن دنیوی مصائب کا بھی جو کچھ
آجکل ان پر ہجوم ہے انشاء اللہ پتندروز میں کایا پلٹ ہو جائے اور گواں پر دلائل بھی ہیں مگر اس کا جو
حصہ ذوقی ہے چاہتا ہوں کہ اس کو ظاہر کروں مگر ان کے اظہار پر قدرت نہیں۔

جیسے ایک مادر زاد اندھے کی حکایت ہے کسی لڑکے نے کہا کہ حافظ جی آج ہمارے
یہاں تمہاری دعوت ہے پوچھا کیا کھلاوے گئے کہا کہ کھیر کیسی ہوتی ہے کہا کہ سفید۔
پوچھا سفید کے کہتے ہیں کہا جیسا بغلہ۔ پوچھا کہ بغلہ کیا ہوتا ہے اس لڑکے نے کہنی سے ہاتھ کھڑا
کر کے اور پینچے سے موڑ کر کہا کہ ایسا ہوتا ہے۔ حافظ جی نے ہاتھ پھیر کر دیکھا و دیکھ کر کہنے لگئے
بھائی یہ تو بڑی میری ہمیشہ کھیر ہے حق سے کس طرح اترے گی۔

دیکھئے! یہاں حقیقت سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے کھیر کو نیز سمجھ میٹھے ایسے ہی اس
طريق میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ وہ بیان میں نہیں آ سکتیں تو جیسے وہاں اس کی ضرورت تھی کہ
حافظ جی کے سامنے کھیر کا طلاق بھر کر رکھ دیتے کہ یہ کھیر ہے کھا کر دیکھ لو کیسی ہوتی ہے ایسے ہی
یہاں بھی حقیقت معلوم کرنے کی صرف ایک تھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کام کرنا شروع کرو خود بخود
سب معلوم ہو جائے گا۔ مگر اس طريق میں اول ہی قدم میں اس کی ضرورت ہے کہ اس کا مصدقہ
بن جائے۔

دورہ منزل لیلی کہ خطرہ است بجان ☆ شرط اول قدم آتست کہ مجنوں باشی
﴿لیلی کی طلب میں جان کو بہت سے خطرات ہیں مگر (راہ طلب میں) پہلے قدم کی
شرط مجنوں ہوتا ہے ۔﴾

ایک اور مثال سمجھ لجئے کہ ایک شخص ہے والا تی اس نے کبھی آم نہیں کھایا اس کو آم کی حقیقت بتانا سخت دشوار ہے جس چیز سے بھی اس کے ذائقہ کو تشبیہ دیجئے گا وہ ہرگز نہیں سمجھے گا۔ اس کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ آم باتھ میں دے کر کھا جائے کہ جو اس کا ذائقہ ہے خود کھا کر دیکھ لو۔

ایسی طرح اس طریق میں سمجھ لجئے گا کہ تقریروں سے یاقین و قال سے کچھ سمجھ میں نہیں آسکتا۔ یہ تو کام کرنے سے معلوم ہوتا ہے اس میں عقل کی بھی رسائی نہیں عقل کی رسائی نہ ہونے کو ایک مثال سے سمجھ لجئے۔ ایک شخص کھڑے پہاڑ پر جانا چاہتا ہے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گھوڑے کا کام دامن کوہ تک پہنچادینے کا ہے آگے وہ نہیں جا سکتا۔ آگے دامن کوہ میں ایک گندہ ہے اس سے وہ راستہ طے ہو گا۔ عقل گھوڑا ہے اس کی ایک حد ہے اس کو آگے دھل نہیں اور جیسے گھوڑے پر سوار ہو کر ایسے پہاڑ پر جاتا ہے عقلی ہے۔ اسی طرح یہاں عقل سے کام لینا ہے عقلی ہو گا ایسی ہی عقل کو مولانا فرماتے ہیں

آزمودم عقل دوراندیش را ☆ بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را
 ॥ میں نے عقل دوراندیش کو آزمایا کر دیکھ لیا (مگر راہِ عشق میں بے کار ثابت ہوئی) اس آزمائش کے بعد اپنے کو میں نے دیوانہ بنالیا ہے ॥

تو پھر تو اس کی یہ حالت ہو گی

اوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد ☆ مر عس راوید و درخانہ نہ شد

॥ (بقول مجدد بکے) وہی دیوانہ ہے جو آپ کا دیوانہ نہیں ॥

صاحب! اس عقل سے جو کام لینے کا ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر اعتماد و انتیاد کا اپنے کو مکلف سمجھ لے آگے طرق جزیہ انتیاد کے اس میں عقل کا کام ہے کہ وحی کا اتباع کرے۔

ملفوظ ۳۷: شادی کے بعد سرال سے تعلق بڑھانے میں اعتدال

ایک سلسلہ نقشوں میں فرمایا! کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب تی شادی ہوتی ہے تو سرال سے تعلق بڑھ جاتا ہے اور اندر یہ شد ہے اگر

والوں کے حقوق پامال ہونے کا تو اس کا خیال رکھنا ایسا نہ ہوتا چاہئے۔

ملفوظ ۲۸: خانقاہ تھانہ بھون کی فتنوں سے دوری

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت تھانہ بھون تہہ خانہ ہے۔ دریافت فرمایا کیا مطلب ہے میں سمجھا نہیں۔ عرض کیا کہ آجکل دنیا میں جو مختلف چیزیں چل رہی ہیں اور آگ لگ رہی ہے (مرا درج ریکاٹ ہیں) یہاں آکر معلوم ہوتا ہے کہ کہیں بھی کچھ نہیں دریافت فرمایا اتنا اور فرمادیجئے کہ اس سے مراد آپ کی قصبه تھانہ بھون ہے یا خانقاہ! عرض کیا کہ یہ احاطہ خانقاہ مرا در ہے فرمایا کہ جی ہاں! اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ سب اپنے بزرگوں کی جو تیوں کا طفیل ہے ایک کون دبائے بیٹھے ہیں میں تو یہ شعر پڑھا کرتا ہوں ۔

یقین کرنے بے دود بے دام نیست ☆ جز خلوت گاہ حق آرام نیست
 (دنیا کا کوئی کونہ بے درندوں اور (مختلف قسم کے) جالوں کے نہیں ہے۔ بجز خلوت گاہ حق کے کہیں راحت نہیں)۔

مگر اس پر بھی عنایت فرماؤں کی عنایات ہوتی رہتی ہیں۔

ملفوظ ۲۹: اولیاء پر ہیئت اعمال کا انکشاف

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ لوگ کبائر میں بتا ہیں گناہوں کو اختیار کرتے ہیں ان کو خوف اور خیشت کا استحضار نہیں بڑی ہی خطرناک بات ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ قیامت میں ہر عمل کی ہیئت مشاہدہ ہو گی مثلاً کسی شخص نے کسی اجتماعی عورت سے زنا کیا تھا۔ ویسے ہی زنا کرتا ہوا قیامت میں نظر آئے گا اعمال سے ایک خاص ہیئت پیدا ہو جاتی ہے کبھی کبھی دنیا میں بعض اہل اللہ اور خاصانِ حق پر وہ ہیئت ملنکشاف ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا آپ نے اس شخص کو سنانے کیلئے فرمایا کہ بعض لوگ ہماری مجلس میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا پکلتا ہے۔

حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عمر ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا احمد کبر رفائل

یہ بہت بڑے اولیاء کبار میں سے ہیں مگر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص مرید ہوئے آیا فرمایا کہ بھائی تیری پیشانی سے شقاوت نمایاں ہے تجھ کو کیا مرید کروں وہ بے چارہ مالیوں ہو کر لوٹ گیا۔ حضرت کا صورت دیکھ کر فرمادینا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت پرہیت اعمال مٹکش ہوئی ہوگی یہ شخص حضرت سید احمد کبیر رفاقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، صورت دیکھ کر فرمایا کہ آؤ بھائی میں خود بھی یہاں ہوں ان کے برداشت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر دنوں ہی تکش مٹکش ہوئیں شقاوت کی بھی اور اس سے آگے سعادت کی بھی۔ حضرت سید احمد کبیر رفاقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی تسلی و تشفی کی اور طریق میں داخل کر لیا چند روز میں اس شخص کو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی ہدایت فرمائی۔ یہ شخص حضرت غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھ کر فرمایا کہ آؤ بھائی! میرے بھائی احمد کبیر کو اللہ نے ایسا تصرف دیا ہے۔ اس ہدایت کے مٹکش ہونے پر ایک اور حکایت یاد آئی۔ ایک بزرگ ایک بستی پر سے گزرے اس بستی میں بھی ایک بزرگ تھے۔ ان مقامی بزرگ نے ملاقات کا عزم کیا اور ان کے پیچھے دوڑے ملاقات تو نہ ہو سکی، مگر یہ معلوم ہوا کہ فلاں جگہ ان بزرگ نے نماز پڑھی ہے ان بزرگ کو خیال ہوا کہ لا اؤ نماز کی جگہ ہی کو دیکھیں دیکھا تو سجدہ میں ہاتھ کا نوں سے پیچھے ہٹے ہوئے نظر آئے۔

فرمایا کہ اس شخص کی نماز کی ہدایت خلاف سنت ہے یہ شخص بزرگ نہیں ہو سکتا۔ یہاں جیسے بصر سے ہدایت عمل کی نظر آئی۔ اسی طرح کبھی بصیرت سے نظر آجائی ہے۔

اسی سلسلہ میں ایک حکایت غالباً حضرت مولانا دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہوئی فرمائی کہ ایک بزرگ کو معلوم ہوا کہ فلاں بزرگ اس بستی میں آئے ہیں انہوں نے ارادہ کیا کہ آنے والے بزرگ سے ملاقات کروں وار وہا کہ مت ملو۔ ان بزرگ نے خیال کیا کہ نہ ملنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ حدیث انس فہمی ہے مانا چاہئے اللہ کے بنده ہیں مقبول ہیں ان کی زیارت باعث سعادت ہے۔ غرضیکہ وارد کی مخالفت کی اور ملنے کا پھر ارادہ کیا وارد میں پھر منع کیا گیا انہوں نے پھر ارادہ ملاقات کا کیا اور بالآخر ملاقات کیلئے چل دیئے چلتے میں ٹھوکر لگی گرے چلنے سے معدود ہو گئے۔ بعد میں وجہ معلوم ہوئی کہ وارد میں جو منع کیا گیا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ بعد تھی بزرگ

تھے جن سے ملنے کو منع کیا گیا تھا اس پر فرمایا کہ واردات کی مخالفت معصیت تو نہیں مگر دنیاوی ضرر ضرور ہو جاتا ہے۔ اور یہ ضرر اضطرار آ تو نہیں مگر اختیار آ بھی مغضی ہو جاتا ہے۔ ضرر دینی کی طرف اور وہ ضرر دینی اس طرح پر ہوتا ہے کہ کسی معصیت کا وسوسہ ہوا اور اس سے بچنے کیلئے کہ بہت سے اس کی مقاومت ہو سکتی تھی مگر طبعاً کسل ہو گیا اور اس سے غباوت ہو گئی اس لئے اعمال میں کمی ہو گئی۔ اب اس میں دو ہی صورتیں ہیں کہ پھر وہ عمل اگر واجب تھا تو خرمان ہوا اور اگر واجب نہ تھا تو خرمان ہوا ہے۔ بڑا نازک راستہ بڑے ہی سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے۔

ملفوظ ۵۰: فلاں کا فلاں کی نسبت سلب کرنا

فرمایا! کہ ایک کام کی بات یاد آئی یہ جو مشہور ہے کہ فلاں بزرگ نے فلاں بزرگ کی نسبت سلب کر لی۔ حضرت مولانا شیداحمد صاحبؒ نے فرمایا ہے کہ نسبت قرب الہی کا نام ہے اس کو کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حق تعالیٰ بنده کو عطا فرمائیں دوسرا کون ہے کہ جو اس سے سلب کر لے۔

حقیقت اس کی صرف یہ ہے کہ کسی تصرف سے کسی کیفیت نفسانی کو مضمحل کر دے جس سے نشاط کی جگہ غباوت ہو جائے مگر وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن اگر مقاومت نہ کی پھر اخلاقی عمل کے سبب اس کا اثر نسبت تک بھی پہنچ جاتا ہے۔

ملفوظ ۵۱: کیفیات اور اعمال کا فرق

فرمایا! کہ آجکل لوگ کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو کہ غیر مقصود ہیں گویہ کیفیات غیر مقصودہ لذیذ ہوتے ہیں۔ جیسے مرچ ہے کہ تغذیہ میں غیر مقصود ہے مگر لذیذ ہے۔ اور اب تو لوگ ان کیفیات کو مقصود سمجھ کر گویا نزدیکی مرجوں کا سالن کھاتے ہیں کیا حاصل ہوتا ہو گا نزدیکی آگ ہی آگ ہے ایسے ہی علوم غیر مقصودہ میں جیسے چیزے چکنے مضمایں ہوتے ہیں وہ علوم مقصودہ میں نہیں ہوتے اس کی بالکل ایسی مثال ہے۔

دیکھئے! اگر روپیہ کا سکہ خوب صورت نہ ہو تو پھر بھی چونٹھے ہی پیے ملیں گے اور یہ شیشہ

کا لکڑا یا رانگہ کا لکڑا گو بہت پچکدار اور خوب صورت معلوم ہوتا ہے مگر بازار میں نہ چلے گا۔ اسی طرح بازار آخرت میں کیفیات یا لذات جو حقیقت کے اختیار سے گویا شیشہ یا رانگہ کا لکڑا ہے نہیں چلیں گے۔

اور اعمال جن کی حقیقت سکھ سکے ہے یہ چلیں گے۔ ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے ایک شخص ہے اس نے چمن لگایا اس میں قسم پشم کے پھول اگائے انہیں سینچا ایک بڑا خوب صورت اور لکڑا رچمن بن گیا۔ اور ایک شخص ہے اس نے دو بیگھہ زمین لے کر اس میں گیہوں بودھے۔ اب دیکھنے میں چمن بہت خوشمند ہے اور گیہوں کا کھیت اس کے سامنے خوشمندی میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا مگر جس وقت شرہ کا وقت آئے گا یا کائنے کا تو اس چمن کی حقیقت گیہوں کے سامنے اس سے زیادہ نہ ہو گی جیسے ایک منہیار چوریوں کی گھڑی اگائے جا رہا تھا۔ ایک گنوار نے اس میں لاٹھی کا سر امار کر پوچھا کہ ابے اس میں کیا ہے اس بے چارے نے کہا کہ چودھری ایک دفعہ اور مار دو پھر کچھ نہیں۔ اسی طرح اس گیہوں کے کھیت کے سامنے یہ چمن کچھ بھی نہ ہو گا اس وقت معلوم ہو گا کہ اس کے سامنے یہ پھول خار ہیں اور یہ چمن اجازہ ہے۔ غرضیکہ اس چمن کی کچھ بھی حقیقت نہ ہو گی۔ وجہ وہی ہے جو میں نے عرض کی۔ مقصود اور غیر مقصود ہونے کا تفاوت تو انسان کو مقصود کاموں میں لگانا چاہئے اور غیر مقصود کے درپے نہ ہونا چاہئے۔

اسی طرح اختیاری اور غیر اختیاری کے مسئلہ کو سمجھ لیا جائے کہ اختیاری کاموں کو کرے اور غیر اختیاری کے درپے نہ ہو۔ پھر دیکھنا اس طریق میں کیسی سہولت معلوم ہونے لگتی ہے کام کی باتوں میں عمر کا حصہ صرف کرو۔ کیوں فضول اور بے کار باتوں میں اپنی عمر کے حصہ کو خراب اور بر باد کرتے ہیں۔

ملفوظ ۵۲: بدعتی اور ان کی محنت و مجاہدہ

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بدعتی بھی بہت محنت کرتے ہیں فرمایا کہ خاک محنت کرتے ہیں اور کرتے بھی ہوں تو مقصود زیادہ محنت پر تھوڑا ہی موقوف ہے اول تو ان کے

یہاں محنت ہے ہی تھیں بعض حکایات، ہی حکایات ہیں اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا اور طریق صحیح میں کرنا پڑتا ہے اور اگر کچھ محنت کرتے بھی ہیں تو ان کی اس محنت کا شرہ آخرت میں تو تصلی نارا حامیہ (اور آتش سو زار میں داخل ہو گے) ہے اور دنیا میں عاملہ ناصبة (بوجہ مصیبت جیلنے کے بہت سے چہرے خستہ ہو گئے)۔

ملفوظ ۵۳: عارفین کو عبادت کی لذت سے بے تو بھی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ عارفین نے تو عبادت کی لذت کے قدم سے بھی پناہ مانگی ہے اگر ساری عمر گذر جائے اور کوئی لذت ان کو نہ آئے وہ اس پر بھی راضی ہوتے ہیں ایک بزرگ پہاڑ میں رہتے تھے ایک اور بزرگ ان سے ملنے گئے دیکھا کہ دعا میں مشغول ہیں یہ اس وقت نہیں ملنے۔ اس خیال سے کہ مشغول مع اللہ تھے۔

یہ یاد رکھنے کی بات ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مشغول مع اللہ کو بلا ضرورت اپنی طرف مشغول کرنے سے حق تعالیٰ کی ناخوشی کا اندیشہ ہے۔ بلا ضرورت کی قید سے میں نے اس میں توسعی کر دی ہے اگر ضرورت ہو وہ مستثنی ہے خیر وہ بزرگ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ الہی تفویض کی لذت سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ بعض لوگ تفویض اس لئے اختیار کرتے ہیں کہ اس میں راحت پے جوایسا کرتے ہیں انہوں نے تفویض کا حق ادا نہیں کیا۔ تفویض اس نیت سے ہونا چاہئے کہ یہ حق تعالیٰ کا حق ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر تفویض شکر کی نیت سے کی جائے فرمایا کہ یہ باتیں (ان پر عمل) کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ بتلانے سے سمجھ میں نہیں آتی۔

ملفوظ ۵۴: جوابات میں سائل کی مصالح کی رعایت کرنا

ایک خط کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا! کہ مخملہ میرے اور بے مردیوں کے ایک بے مردی یہ بھی ہے کہ میں جواب میں سائل کی خواہش کی رعایت نہیں کرتا حدود کی اور سائل کی مصالح کی رعایت کرتا ہوں۔ میں نے لکھ دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ابھی اس کی تحقیق کا وقت نہیں جب کچھ کام کرلو گے تب جواب میں لطف آئے گا۔ اور اب تو مجھ کو سوال ہی میں مزہ نہیں آیا تم کو جواب

میں کیا مزہ آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں بغرض تربیت آنے والوں کیلئے قید الگ ادیتا ہوں کہ بولامت کرو۔ اس لئے کہ بدلوں ذوق کے بونا مناظرہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور یہ اس طریق میں بے حد سخت مضر ہے یہ وہ اصول ہیں کہ طائب علمی مباحث سے قیامت تک حل نہیں ہو سکتے۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عام پیروں کے یہاں تو یہ معاملات اور اصول ہیں نہیں صرف آپ کے یہاں ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ حضرت کے مزاج میں درستی ہے تمہرے فرمائے کہ مزا احافر مایا کہ تین نقط الگ کرو یہ جائیں یعنی درستی ہے۔

فرمایا کہ آجکل کے اکثر پیروں کی تو یہ کیفیت ہے مثال تو فخش ہے مگر ہے منطبق۔ وہ یہ ہے کہ میری اور دوسروں کی بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے رندی اور گھرستن کی طالبوں کے جمع کرنے کی جتنی مدد ایک رندی کرتی ہے اور قسم قسم کے روپ بدلتی ہے پختانے کیلئے اور ناگہ سے کہتی ہے اس کو لا اور اس کو لا۔ گھرستن نہیں کر سکتی۔ اور اس میں ایک استغناہ کی شان ہوتی ہے۔ مولا نا

فرماتے ہیں

زیر بارند درختاں کہ شربا دارند ☆ اے خوشاسرو کہ از بندغم آزاد آمد
﴿زیر بار ہیں وہ درخت جو پھل دار ہیں۔ مبارک ہو سرو کو کہ قید غم سے آزاد ہے﴾۔

و لفربیاں نباتی ہمہ زیور مستند ☆ دلبرماست کہ باحسن خداداد آمد
﴿تمام محبوب محتاج زیور کے ہیں اور ہمارے محبوب کا حسن۔ حسن خداداد ہے﴾۔

ملفوظ ۵۵:

آیت میں مجاهدہ سے کیا مراد ہے؟

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: وَاللّٰهِ يُنْهِي مَنْ هُنْهِيَنَّ مَنْ سَبَلَنَا جو لوگ ہماری طلب میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی راہ کی ہدایت کر دیتے ہیں، لَنْهَدِيْهُمْ سَبِلَنَا۔ جو لوگ ہماری طلب میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی راہ کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ ”جَاهَدُوا“ سے مراد غور و فکر و عاو اتحاد، سعی و کوشش حق تعالیٰ کے سامنے الخاچ وزاری تواضع و خاکساری یہ چیزیں پیدا کرو۔ روتا اور چلانا شروع کرو و نخوت اور تکبیر کو دماغ سے نکال کر پھینک دو۔ اس کے بعد وصول میں در نہیں لگتی۔ ذرا بطور امتحان ہی کے کر کے دیکھ لوموا نا

فرماتے ہیں ۔

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ ☆ جز شکست می ٹگیرد فضل شاہ

﴿بہت برا محقق اور عالم فاضل بننا طریق (عشق میں کار آمد) نہیں با دشاد (حق تعالیٰ)

فضل شکستہ حال ہی کی دلگیری کرتا ہے﴾۔

اور محض علمی تحقیقات مسکت ہیں مسقط نہیں اس سے شبہات ساقط نہیں ہوتے مخاطب

سماکت ہو جاتا ہے اس کا طریقہ وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ مولا نافرماتے ہیں کہ پھر یہ حالت ہو گی

ہر کجا پستی ست آب آنجارود ☆ ہر کجا مشکل جواب آنجارود

ہر کجا وردے دوا آنجارود ☆ ہر کجا رنجے شفا آنجارود

﴿پانی نشیب ہی کی طرف جاتا ہے مشکل پیش آنے پر ہی اسکا حل معلوم ہوتا ہے

جہاں درد ہوتا ہے دوا وہیں پہنچتی ہے جہاں مرض ہوتا ہے شفاء وہیں ہوتی ہے﴾۔

بغیر اس حالت کے پیدا ہوئے کامیابی مشکل ہے۔ مولا نافرماتے ہیں

تانہ گرید مطل کے جوش دبن ☆ تانہ گرید ابر کے خندوچسن

﴿جب تک بچ روتا نہیں (پستان ما در میں) دودھ جوش نہیں کھاتا۔ جب تک ابر روتا

(برستا) نہیں چسن میں شادابی کھاں ہوتی ہے﴾۔

ذر احمد خا کساری پیدا کر کے دیکھوا عقاد سے نہیں امتحان ہی کیلئے سبی مولا نافرماتے ہیں

سالہا تو سنگ بودی دل خراش ☆ آزمون رائیک زمانے خاک باش

در بہاراں کے شودسر بزرگ ☆ خاک شوتاگل بروید رنگ رنگ

﴿برسون تو خخت قسم کا پتھر بنارہا۔ بطور امتحان کے چند روز کیلئے خاک بن جا۔ موسیٰ

بہار میں پتھر تو سر بزر نہیں ہوتا۔ خاک ہو جاتا کہ رنگ رنگ کے پھول (تیرے اندر) کھلیں﴾۔

۲۹ شعبان المعظم ۱۳۵۰ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم شنبہ

ملفوظ ۵۶: قرض کی یادداشت کیلئے ایک کانی

فرمایا! کہ مجملہ اور معمولات کے میرا ایک یہ بھی معمول ہے کہ قرض کی یادداشت کے

لئے ایک کاپی الگ ہنار کھی ہے جس کو قرض دیتا ہوں اس میں لکھ لیتا ہوں اور جو پرچہ کے ذریعہ سے لیتا ہے وہ پرچہ بھی محفوظ رکھتا ہوں اور وصول ہونے پر پرچہ واپس کر دیتا ہوں اور اس رقم کو باقساط ادا کرنے والے کے سامنے اس میں وصول لکھ لیتا ہوں اور اس کو دکھادیتا ہوں کہ دیکھو یہ وصول لکھ لیا ہے اس میں بڑی مصلحت ہے ہر دو طرف اطمینان ہو جاتا ہے جو کام اصول کے ماتحت ہو گا۔ اس میں کبھی الجھن یا پریشانی نہ ہو گی آجکل بدانتظامی کا نام بزرگی رکھ رکھا ہے۔

ملفوظ ۵: سواد اعظم میں نور شریعت ہوتا ضروری ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ مدرسہ میں مہران کی کمیٹی قائم ہے اور کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے اور اس کو سواد اعظم سے تعبیر کرتے ہیں اس ہی معنی کو بنا جمہوریت قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا سواد اعظم سے مراد تو یا پس اعظم ہے یعنی نور شریعت جس جماعت میں ہو (اگرچہ وہ قلیل ہو) مگر لوگوں کو ایسی ہی باتوں میں سواد (مزہ) آتا ہے۔

ملفوظ ۵۸: اپنے رنج کا اظہار جائز ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مدرسہ کے مہران کی نسبت (جنہوں نے ایک فضول تحریر سے رنج دیا تھا) میں نے نیت کر لی کہ جس جس کا خط آئے گا جتا اُں گا ضرور کہ مجھ کو رنج ہے اور خدا نخواست مجھ کو بغرض نہیں کیونہ نہیں عدالت نہیں ہاں رنج ضرور ہے اس کو ظاہر کروں گا۔ فرمایا بعض اوقات کسی سے اتنا انتقام لے لیتا اچھا ہے اس سے دل صاف ہو جاتا ہے مگر زیادہ پیچھے پڑنا نہ چاہئے۔

ملفوظ ۵۹: فقہی سوال و جواب کے لئے لفافہ کی ضرورت

فرمایا! ایک خط آیا ہے لکھا ہے کہ پیر کو سب باتوں کا علم ہونے کا جس کا عقیدہ ہو وہ شخص کا فرہوا یا کیا۔ بہت سے لوگ اس کی اقتداء سے باز رہتے ہیں۔ (جواب) ایسے مضمون کے جواب کیلئے کارڈ کافی نہیں۔ پھر اسی سلسلہ میں فرمایا کہ کسی امام کے متعلق سوال معلوم ہوتا ہے اماموں کے پیچھے لوگ ہاتھ دھو کر پڑے رہتے ہیں۔ اگر لفافہ جواب کیلئے بھیجیں گے تب کان

کھلوں گا۔ کارڈ پر ایسے سوالات کا جواب میں نہیں دیتا ہوں اس لئے کہ اس میں میرا مضمون تو ہو گا ان کا نہیں ہو گا۔ اس کی تعمیں ان کے زبان پر ہو گی۔ اور افاف میں میرا ان کا دونوں کا مضمون ہو گا کسی کو دکھلائیں گے تو وہ سمجھتے تو لے گا کہ ایسے سوال پر جواب ہے لوگ بڑی بڑی ترکیبوں اور چالاکیوں سے کام لیتے ہیں۔ اور اصل تو یہ ہے کہ اوروں کی فکر میں کیوں پڑے آدمی اپنا ایمان سنجا لے۔

ملفوظ ۲۰: حضرت کے یہاں قیام کی شرط سکوت

فرمایا! ایک صاحب کا خط آیا ہے اس میں آنے کی اجازت چاہی ہے دو مہینہ قیام کو لکھا ہے۔ اس قیام میں اصلاح نفس چاہتے ہیں کوئی ان سے پوچھئے کہ کتنا میں کتنے دنوں میں پڑھی ہیں کچھ تو نسبت ہونی چاہیے۔ اور اب تو میں نے یہ طے کر لیا ہے ایک مدت تک خاموش رہنے کی شرط پر یہاں رہ سکتے ہو اس میں مجھ کو بھی راحت ہے ان کو بھی ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہاں پر خاموش رہنے میں بڑا نفع ہے فرمایا بے شک بہت نفع ہے مگر اس کی قدر تو اہل فہم ہی کر سکتے ہیں۔ کوڑ مغز اور بد فہم تو اس کو نالانا سمجھیں گے خیر سمجھا کریں جو چیز مفید ہے اور طرفین کی راحت بھی اس ہی میں ہے کیوں اس کو چھوڑا جائے۔

ملفوظ ۲۱: اوراد کی تبدیلی کی خواہش

فرمایا! ایک خط آیا ہے کہ پانچ سو مرتبہ ذکر کی اجازت می تھی فرست نہ ملنے کی وجہ سے نہیں کر سکا اور کوئی وظیفہ بتلا دیں اس سلسلہ میں فرمایا کہ اس بے حسی کو دیکھئے۔ دوسرے شخص پر کی طبیعت پر کیونکر اثر نہ ہو کیونکہ تغیر نہ ہوا اول تواب بھی اور ادھی کی خواہش کی۔ میرا جو خیال ہے کہ لوگ اور اد میں زیادہ بتلا ہیں بمقابلہ اعمال کے وہ صحیح ہے کچھ نہیں فہم کا قحط ہے چاہتے ہیں کہ جو ہمارا جی چاہے مصلح اس کا اتباع کرے مجھ سے نہیں ہو سکتا اور پیر بہت ہیں جو مرضی کے موافق اور ادویں میں اس سے تعلق پیدا کرو یہ تو اچھی خاصی غلامی ہے یہ قدر کی تعلیم کی لا حاول ولا قوہ الا باللہ۔ یہ لوگ تعلق رکھنے کے قابل نہیں بالکل بد فہم بد عقل ہیں جب آدمی کو طلب نہ ہو تو کیوں خود پریشان ہو۔ اور کیوں www.ahlehaq.org کی پیشان نہ بتلا کرے کوئی بانے گیا تھا۔ دوسرے

اس سے قطع نظر جب پہلے ہی ورد کو نہیں بناہ سکے تو اس کی کیا امید ہے کہ اب جو بتایا جائے گا اس کیلئے فرصت مل جائیگی۔ بدلوں کسی خرچ کے تعلیم ہو گئی ہے اس لئے قدر نہیں ہوئی۔

اسی لئے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کتاب مفت ملت دو۔ دو چار پیسرہ ضرور لے لیا کرو قدر تو ہو گی کتاب کی۔ اور اس وجہ سے دیکھ بھی لیں گے کچھ صرف ہوا ہے وصول کرنا چاہئے واقعی بڑے کام کی بات فرمائی مفت کی چیز کی قدر نہیں ہوتی۔

ملفوظ ۲۲: اپنی مصلحت اور راحت پر عمل کرنا

ایک مولوی صاحب نے بوقت رخصت مصافیہ کیا حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ اس قدر جلد واپسی۔ عرض کیا کہ انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب پھر حاضر خدمت ہونا گا فرمایا! اس کی ضرورت نہیں جو مناسب اور مصلحت ہو اس پر عمل کیا جائے یہ تو میں کبھی طبعاً عرض کر دیتا ہوں باقی اصل مسلک عقلائی ہی ہے کہ جس میں مصلحت اور راحت ہو وہ کرو۔ فرمایا کہ اس پر یاد آیا بعض لوگ راحت کی پرواہ نہیں کرتے یہ غصب کرتے ہیں کہ کھانے پر اصرار کرتے ہیں کہ اور کھالو۔ سفر میں مجھ کو اکثر اتفاق ہوا کہ مجھ سے کھانے کیلئے اصرار کیا گیا۔ میں نے کہا کہ اگر مجھ کو کوئی تکلیف ہو گئی تو بھلتنی تو مجھ کو ہی پڑے گی آپ کا کیا بگزے گا کیا آپ تکلیف کو بٹالیں گے اور بناہی کیا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ نمک سلیمانی یا کوئی چورن لا دیں گے پھر کوئی کچھ نہ بولتا تھا۔

ملفوظ ۲۳: شریفہ پھل

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شریفہ بھی میوه جات میں اچھی چیز ہے۔ اور ممکن ہے کہ حضرت کی کھانسی کیلئے مفید ہو وہ لانا چاہتے تھے۔ مزاہ فرمایا کہ اگر لا میں تو کسی شریف کو لائیے شریفہ کو نہ لائیے دو ہی (منکوحہ) بہت ہیں کوئی فوج تھوڑا ہی جمع کرتا ہے۔

اسی سلسلہ میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تو اس کو بھی اپنے وقف نامہ میں لکھ دیا ہے کہ اگر میں تیر انکا ح کروں تو اس کے متعلق یہ وصایا ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا تیر انکا ح بھی ہونے والا ہے فرمایا کہ تقدیری کا حال کس کو معلوم ہے احتیاط کی بناء پر لکھ دیا ہے بعض چیزوں

کا احتمال بھی نہیں ہوتا مگر جب قدر غالب ہوتی ہے وہی ہو جاتا ہے حضرت کس کو خبر ہے کہ کہ ہونے والا ہے۔

حضرت کے بیہاں مزاج ہونا : ملفوظ ۲۴

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب نے میرے متعلق یہ رائے ظاہر کی کہ اک شخص میں یہ بات کھلتی ہے کہ مزاج بہت ہے ایک شخص نے ان صاحب سے سوال کیا کہ کیا مزاج محضیت ہے؟ کہا کہ نہیں۔ مگر مجھ کو اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر یہ معرض صاحب عالم ہیں تو حدیث میں کیا کریں گے فرمایا کہ یہ فرق کیا ہو گا کہ وہ با کثرت نہ تھی بیہاں کثرت ہے فرق تو ہو سکتا ہے۔

خواب کی وجہ سے رجوع : ملفوظ ۲۵

فرمایا! کہ ایک خط آیا ہے تین سال کے بعد لکھا ہے کہ آپ خوب میں آئے اس وقت سے قلب بے چین ہے اس وجہ سے یہ خط لکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ ماشاء اللہ یہ داعی ہے خط پھیجنے کے استغفار اللہ لوگ طریق کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہیں۔ اب میں خشک جواب دوں گا تو۔ بدتاہی کا سبب ہو جائے گا کہیں گے سخت مزاج ہے ان کی نرم مزاجی کو کوئی نہیں دیکھتا۔

ایک صاحب کے خط کا جواب : ملفوظ ۲۶

ایک بہت طویل خط آیا اس میں حضرت والا کے فیوض و برکات کا ذکر تھا۔ جواب: تحریر فرمایا کہ سب ٹھیک ہے جب کہ دوسری جگہ نہ دیکھی ہو۔ اسی خط میں لکھا تھا کہ میں مجھ کو جو ہوں دعا فرمائیں کہ مجر اسود کے بوسہ کے وقت حالت دگر گوں نہ ہو۔ (جواب): اگر ایسی دگر گوں ہو کے جگر خون ہو یہ تو مطلوب ہے۔

حکمت میں تلاش کرنا جدید تعلیم کا اثر ہے : ملفوظ ۲۷

فرمایا! کہ آجکل احکام میں حکمتیں اور اسرارِ ڈھونڈنے کے بہت لوگ دلدادہ ہیں سب جدید تعلیم کا اثر ہے اور اسی کی خرابی ہے۔ اسی طرح شیخ کی تعلیم کے راز اور اسرار کے در

ہوتے ہیں ایسے لوگ کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہمیشہ محروم رہیں گے دیکھئے! اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے احکام میں اس کی تجویزات میں ذرہ برابر بھی مصلحت نہیں ڈھونڈی جاتی تو کیا خدا تعالیٰ کا اتنا بھی حق نہیں۔

ملفوظ ۶۸: ایک صاحب کا لعنتی خط

فرمایا! کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے بہت ہیں لماچوڑا اگر حاصل کچھ نہیں اپنی بیماری کے حالات لکھتے ہیں اور کچھ وظائف پڑھتے ہیں ان کی تفصیل لکھی ہے اور یہ لکھا ہے کہ میں نے حکیم صاحب سے عرض کیا تھا انہوں نے قابل کو منع کر دیا ہے کہ اپنی استعمال مت کرو۔ اس سب کے بعد لکھتے ہیں اب حضور بھی کچھ عنایت فرمائیں۔ (جواب): کچھ سے کیا مطلب۔ پھر لکھا ہے کہ ایک شجرہ بھی روائہ فرمادیں۔ (جواب): گواں کا شمرہ نہ ہو۔

ملفوظ ۶۹: حضرات انبیاء علیہم السلام کا صبر

فرمایا! کہ لوگ ستاتے بہت ہیں اور میرے ان اصول کی وجہ سے مجھ سے خفا بھی ہیں برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ ہم بھی اس کے جواب میں کچھ لکھ پڑھ لیتے ہیں سامنے ہوتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے ہیں اس پر بھی اگر کسی نے گڑ بڑ کی تعلق چھوڑ دیتے ہیں۔ عرض ہم لوگ توہر طرح آزاد رہ سکتے ہیں۔ مگر حضرات انبیاء علیہم السلام کا صبر دیکھئے سب کچھ سنتے تھے اور سب کچھ سنتے تھے اور پھر تبلیغ فرماتے تھے کیا ملکانہ ہے اس ظرف کا۔ اس سے معلوم ہوتی ہے ان حضرات کی شان۔

ملفوظ ۷۰: الفاظ کی رسم

فرمایا! کہ ایک خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ تو بادشاہ اسلام ہیں اس پر اب طور مزاح حضرت والا نے فرمایا کہ ارے یار کہیں پکڑ وامت دینا اس قسم کے الفاظ لکھنا بھی ایک رسم ہے۔

ملفوظ ۷۱: اپنے بزرگوں کی جو تیوں کا صدقہ

فرمایا! جب کوئی کام اچھا ہو جاتا ہے بحمد اللہ بھی میرے قلب میں وسوسہ تک نہیں آتا کہ یہ میں نے کیا بلکہ اس وقت اپنے بزرگ مادر آتی ہے اور سب خیال ہوتا ہے کہ یہ سب انہیں

حضرات کی جو تیوں کا صدقہ ہے اور یہ شعر پڑھا کرتا ہوں
 اسی ہمہ مستی و مدھوشی نہ حد بادہ یود ☆ باحر یقان انچہ کردا آں زگس متنانہ کرد
 (ایسی مستی اور مدھوشی شراب کا اثر نہیں تھی، مستوں پر جواہر کیا ہے (ساقی کی) اُس
 چشم متنانہ نے کیا ہے)

بات یہ ہے کہ مجھ کو دعا میں بہت ملی ہیں اور ہر قسم کے بزرگوں کی دعائیں ملی ہیں یہ
 سب اس کے ثمرات ہیں ان میں بعضے وہ بھی تھے جو بدعتی کھلاتے تھے مگر تھے اللہ اللہ کرنے والے
 ان کی بھی دعائیں لی ہیں۔ وہ بدعتی بزرگ بھی ایسے نہ تھے جیسے اب ہیں ان میں مذین تھا اب تو
 فسق و فجور میں بنتا ہیں۔

لطفوٰظ ۲۷: یکم رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس خاص بوقت صحیح یوم یکشنبہ چھتیس کوں یعنی اڑتا لیس میل

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مجھ کو بچپن کی بات یاد ہے کہ حضرت مولانا
 محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پورا سفر شرعی چھتیس میل کا ہوتا ہے۔ اب جو
 میں نے اس کو بعض احباب سے نقل کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھ کو غلط یاد ہے چھتیس کوں کا سفر شرعی
 ہوتا ہے۔ غالباً حضرت کو سننا ہوا یاد ہو گا۔ فرمایا یہ ہی نحیک ہے ہمارے اکابر یہی فرمایا کرتے تھے
 کہ چھتیس کوں یعنی اڑتا لیس میل انگریزی کا سفر شرعی ہوتا ہے اور یہ ہی اپنا عمل ہے معلوم نہیں
 چھتیس میل آپ کو کیوں یاد رہا۔

لطفوٰظ ۳۷: فقہاء کے دلائل کی مثال

ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ فقہاء بھی اپنی تحقیقات پر ضابطہ کے دلائل بیان
 کرتے ہیں مگر مثال ان دلائل کی ایسی ہے جیسے آنکھوں والا عصا لیکر چلے تو اس کا چلتا عصا پر موقوف
 نہیں فقہاء کو حق تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائیں تھیں جس کو ذوق اجتہادی کہتے ہیں ان کو ضرورت
 ان عصاؤں کی نہ تھی مگر ہم کو ضرورت سے ہماری امثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا ہے اس کا مدار ہی

عصا پر ہے اگر وہ عصا لیکر نہ چلتے تو وہ خندق ہی میں گرے وہ ہم ہیں۔

ملفوظ ۳۷: سفر میں محروم ساتھ ہونے کی حکمت

فرمایا! کہ ایک صاحب کا خط آیا تھا اس میں دریافت کیا تھا کہ فلاں بی بی میری عزیزہ جو عمر سیدہ ہیں میرے ساتھ حج کو جانا چاہتی ہیں۔ میں ان کو اپنے ہمراہ لے جا سکتا ہوں۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ جب تک کوئی محروم ہمراہ نہ ہو جائز نہیں۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ سفر میں عورت کو تھا جانے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی وجہ خلوت معلوم ہوتی ہے فرمایا نہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ سفر میں موقع بہت ملتا ہے فساد کا دور دور تک کوئی امداد کرنے والا نہیں ہوتا۔ محروم کے ساتھ ہونے سے خود عورت کے قلب میں بھی ایک قسم کی قوت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بات پیش آئی تو آواز دینے پر موجود ہو سکتا ہے اور بخوبی لے سکتا ہے اور حضرت یہ حکمتیں اور علل تو ہم گھر رہے ہیں۔ اصل چیز تو شریعت کا حکم ہے اگرچہ کوئی بھی حکمت ہماری بحث میں نہ آئے۔ میں اسی عرض کرتا ہوں کہ ایسے حکم اور اسرار اور نکتے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے ان علل اور حکم کی عادت سے یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ مہمل باتوں سے بھی دل چھپی ہونے لگتی ہے۔

جیسے ایک ہندو نے مظفر نگر میں اپنے پیچھر میں بیان کیا تھا کہ جب تک ہم میں اتفاق نہ ہو گا کامیابی نہیں ہو سکتی۔ پیچھر کہا کہ معلوم بھی ہے ہم کے کیا معنی ہیں ہم کے معنی ہیں ہندو اور مسلمان۔ ہا سے مراد ہندو اور میم سے مراد مسلمان پھر بیان کیا کہ ہمارے ہندو بھائی ناخوش نہ ہوں کہ ہاتو چھوٹی سی بے اور میم لمبا ہے تو تم نے مسلمانوں کو بڑا بنا دیا بات یہ ہے کہ ہندو تو ہندوستان ہی کے اندر اندر ہیں یہ کہیں باہر سے نہیں آئے اور مسلمان عرب سے آئے ہیں۔ ان کی مسافت بہت لمبی ہے تو میم کا بڑا ہونا ان کی مسافت کا بڑا ہونا ہے مگر اس نے یہ نہ سوچا کہ مسلمان اگر یہ شبہ کرنے لگیں کہ لفظ ہم میں ہا کو میم کے سر پر سوار کیا گیا ہے تو ہندوؤں کو فو قیت دیدی تو اس کا کیا جواب دوں گا۔ البتہ اگر میم کو ہا سے الگ لکھا ہوتا تو یہ فو قیت کا سوال نہ ہوتا مگر یہ سوال ہوتا کہ ایسا کیوں

نہیں کیا گیا۔ شاید اس کا یہ جواب دیا جاتا کہ اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کیلئے باہم خلط کی ضرورت ہوئی اس وجہ سے ایسا کیا گیا یہ اسرار ہیں۔ راز ہیں نکات ہیں۔ خرافات و اہیات جن کے نہ سرہ پاؤں لیکن لوگ ہیں کہ ایسی بے ہودہ باتوں پر لٹو ہیں اور یہ سن کر اور حیرت ہوئی کہ مسلمان بھی اس بیان کے مدار تھے۔ استغفر اللہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

ملفوظ ۵: ایک مولوی صاحب کو حضرت کا لطیف جواب

ایک مولوی صاحب کا طویل خط آیا جس کے اکثر مضمائیں مقصود سے زائد تھے۔ حضرت والا نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ علوم غیر مقصودہ کی جب آپ نے اتنی قدر کی ہے تو علوم مقصودہ کی تو اور بھی زیادہ قدر کریں گے اس پر فرمایا کہ انہوں نے ایک صاحب سے کہا وہ مجھ سے روایت کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان علوم کا غیر مقصود ہونا بھی ثابت کر دیا پھر ایسے لطیف عنوان سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرا بھی بڑا ہی بھی خوش ہوا کہ وہ سمجھ گئے۔ اور میرے جواب کی قدر کی۔ اگر آدمی میں سلامتی طبع ہو اور طلب بھی ہو تو سمجھ میں آجانا مشکل کیا ہے اگر آدمی میں فہم سلیم ہو اور خلوص کے ساتھ طلب ہو بڑے سے بڑے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں اور راہ نکل آتی ہے۔

ملفوظ ۶: موت کے وقت سب سے خطرہ کی چیز

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ موت کے وقت تو بہت سے خطرات قلب میں آسکتے ہیں مگر مضر صرف وہی خطرات ہیں کہ جو اپنے قصد سے اختیار کئے ہوں اور جو بلا قصد اور بلا اختیار ہوں وہ مضر نہیں یہ خطرات میں تفصیل ہے باقی سب سے زیادہ سخت جو چیز اس وقت خطرناک ہے جب دنیا ہے۔ اور وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں جب انتہا ک ہوتا ہے اور اس کی محبت ہوتی ہے تو اس کے چھوٹے کے وقت جو کہ موت کا وقت ہوتا ہے زیادہ اندیشہ ہے کہ چھڑانے والے سے عدوات نہ پیدا ہو جائے جو کفر ہے اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس کو مغلوب کرتا رہے اس کے خلاف کا استھنار کرتا رہے پھر انشاء اللہ تعالیٰ کوئی مضر نہیں یا اندیشہ نہ ہوگا۔ اجی مسلمان اعتقاد تو دنیا کو برآ جھتا ہی ہے مگر اس اعتقاد کو استھنار کے درجہ تک پہنچا دینا چاہئے اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ موت کے وقت

ایمان سلب ہوتا ہو جن کے علب ہوتا ہے وہ پہلے ہی سے ہو چکتا ہے اس وقت ظہور ہو جاتا ہے
ہر مسلمان کو اس وقت کی فکر ہونا چاہئے بالخصوص اپنے قلب کو محبت دنیا سے بالکل خالی رکھنا چاہئے۔

یکم رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم یکشنبہ

ملفوظ ۷:

خاص سفارش کو پسند نہ کرنا

فرمایا! کہ ایک صاحب چینی یہاں پر مہمان ہیں لے چارے حاجت مند ہیں جس سے
کہتے تھے کہ خطاب عام کی صورت میں کچھ لکھ دیا جائے میں نے کہا کہ مجھے انکار نہیں مسودہ لکھ کر
آپ مجھے دیدیں میں آپ کو اپنی عمارت میں منتقل کر کے دیدوں گا اس سے پہلے ایک خاص شخص
سے ایک سفارش کرنے کو کہتے تھے اس سے میں نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ میرے
معمول اور مسلک کے خلاف ہے آج کل خطاب خاص کی صورت میں سفارش کرنے کو میں پسند نہیں
کرتا۔ اس سے دوسرے پر بار ہوتا ہے میں اس کو گوار نہیں کرتا۔ بعض مرتبہ لوگ ان باتوں کی وجہ
سے خفا ہو جاتے ہیں خفا ہوتے ہیں ہوا کریں۔ میں اپنے تجربات اور مسلک کو ان کی وجہ سے کس
طرح چھوڑ دوں۔

ملفوظ ۸:

ایک گول مول خط کا جواب

فرمایا! کہ ایک صاحب نے مجسم خط لکھا تھا میں اس کا حاصل نہ کچھ سکا میں نے اس پر لکھا
تھا کہ گول بات لکھی ہے میں سمجھا نہیں کہ مطلب تمہارا اس سے ہے کیا صاف لکھو۔ آج جواب
میں لکھتے ہیں کہ میں خود گول ہوں اسلئے میری بات بھی گول ہے صاف نہیں۔

فرمایا! کہ ایسے کوڑ مغز دوں سے پالا پڑتا ہے اس میں میری کیا مصلحت تھی ان کی ہی
مصلحت تھی جس بات کو میں سمجھا ہی نہیں اس کا جواب کیا دوں اب لئے لکھا تھا کہ صاف لکھیں گے
میں سمجھ کر اس کا جواب دوں گا۔ اب فرمائیے مجھ کو سخت کہتے ہیں آخر میں نے اس میں کون سی سختی کی
تھی جب ایک بات کو میں سمجھا ہی نہیں تو اس کا جواب کیا دیتا۔ بد نہیں بری چیز ہے اللہ بچائے ایسی

بدھنی اور کم عقلی کے متعلق فرمایا کہ میری عادت ہے کہ جو خط آتا ہے اسی مضمون پر خط کھینچ کر جواب لکھ دیتا ہوں اس پر ایک شخص نے لکھا تھا کہ میرے ہی خط پر آپ نے لکھ دیا میری بڑی ابانت کی۔ فرمایا کہ بندہ خدا! میں نے تو اعانت کی ابانت نہیں کی۔ ایسے ایسے خوش فہم دنیا میں آباد ہیں۔

ملفوظ ۷۹: نفس کی خباشت اور اتباع سنت کا کید

فرمایا! کہ نفس بھی عجیب چیز ہے اتباع ہوئی کو کبھی کبھی اتباع سنت کے رنگ میں دکھاتا ہے اس کا ایسا لطیف کید ہوتا ہے کہ اتباع ہوئی کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اتباع سنت میں مشغول ہوں۔ صاحبو! یہ تو آسان ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں موسُن ہوں مگر سنت کا دعویٰ بڑا مشکل ہے اس وقت ان دونوں میں فرق کرنا محقق اور عارف ہی کا کام ہے اسی ہی لیے ضرورت ہے کہ اپنے حالات کی اطلاع اپنے مرتبی کو کرتا رہے وہ اپنے تجربات و بصیرت کی بناء پر اس کی رہبری کریگا اور اس کو تمام سخت سے سخت گھائیوں سے لیکر گزر جائے گا۔

ملفوظ ۸۰: دوستوں کا خیر خواہ

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کو اپنے متعلقین سے بے حد محبت ہے امید ہے کہ حضرت آخرت میں اسی طرح یاد رکھیں گے اور پہچان لیں گے فرمایا کہ محبت کا دعویٰ تو بہت بڑی چیز ہے یوں بھی تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اپنے دوستوں کیلئے دعا بھی کرتا ہے۔ مجھ کو اپنے دوستوں کی حالت کی معرفت ہی نہیں اور محبت فرع ہے معرفت کی اور معرفت اسلئے نہیں کہ اپنی حالت خود ہی کو خوب معلوم ہوتی ہے اس لئے میں محبت کا دعویٰ نہیں کرتا یہ بڑی چیز ہے ہاں خیر خواہی کا دعویٰ کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں کا خیر خواہ ضرور ہوں۔

ملفوظ ۸۱: مستجاب الدعوات تھے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ آجکل لوگوں کی عجیب حالت ہے ذرا کوئی نیک کام کیا الہام اور روحی کے منتظر ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی آواز آسان سے آئے گی۔ یا اپنی کسی حاجت

دنیاوی کے واسطے دعا کرتے ہیں۔ اب منتظر ہیں کہ کوئی بشارت قبولیت کی آئے گی کیا خط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کیلئے بد دعا کی تھی اور اس پر اجابت دعویٰ کما بھی فرمادیا گیا تھا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی اس قبولیت کا ظہور چالیس برس بعد ہوا تھا۔ بڑی ہی دلیری کی بات ہے کہ ادھر دعا کی اور ادھر مستحقانہ انتظار۔ یہ بات تو انہیاء علیہم السلام کیلئے بھی نہیں ہوئی جن کی شان یہ تھی کہ مستجاب الدعوات تھے۔ اس دلیری پر یاد آیا۔

ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور عرض کیا کہ ایسا وظیفہ بتا دیجئے گا کہ خواب میں حضور ﷺ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کو بڑا حوصلہ ہے ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ روضۂ مبارک کے گنبد شریف ہی کی زیارت نصیب ہو جائے اللہ اکبر! کس قدر شکستگی و توضع کا غلبہ تھا۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا یہ سن کر ہماری آنکھیں کھل گئیں حضرت کی عجیب شان تھی اس فن کے امام تھے ہربات میں شانِ محققیت و حکمت پکتی تھی یہ ہی وجہ ہے کہ حضرت کے خادموں میں سے کوئی محروم نہیں رہا۔ ہر شخص کی اصلاح و تربیت اس کی حالت کے مطابق فرماتے تھے اسی توضع کو مولانا فرماتے ہیں۔

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ ☆ جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ
ہر کجا پستی است آب آنجارو و ☆ ہر کجا دردے شفا آنجارو و
﴿بہت بڑا محقق بننا طریق (عشق میں کار آمد) نہیں۔ با دشاد (حق تعالیٰ) کا فضل شکستہ حال ہی کی دلگیری کرتا ہے۔ (۲) پانی نشیب ہی کی طرف جاتا ہے جہاں درد ہوتا ہے شفا ہیں جاتی ہے﴾۔

وہاں تو مٹ جانے اور فنا ہو جانے کا سبق ملتا ہے حضرت کی خود یہ حالت تھی کہ اپنے ہر ہر خادم کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ آنے والوں کے قدموں کی زیارت کو اپنے لئے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں حضرت پر شان عبدیت کا غلبہ رہتا تھا وہ عبدیت ہی اس ارشاد کا منشأ تھا۔ مطلب یہ تھا کہ اپنی الہیت کا اعتقاد نہ رکھے باقی تمنا کی ممانعت نہیں۔

ملفوظ ۸۲: عبدیت کے لئے دعا کرنا کیسا ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عبدیت کے لئے دعا کرنا کیسا ہے فرمایا! یعنی مقصود ہے۔ عرض کیا کہ کہیں یہ جاہ تو نہ ہوگی کہ اتنے بڑے مقام کی تھنا ہے فرمایا یہ تو عدم جاہ ہے عرض کیا کہ حضرت پر بھی تو شان عبدیت کا غلبہ ہے۔ فرمایا میں تورات دن اوگوں سے لڑتا بھڑتا رہتا ہوں کیا عبد ایسا ہی ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ حضرت کا یہ طرز اصلاح و تربیت کی وجہ سے ہے اس سے تو مقصود حضرت کا دوسروں کو بھی عبد بنانا ہے۔

فرمایا کہ یہ آپ کا حسن ظن ہے اور اسی سلسلہ میں فرمایا کہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری بد اخلاقی کا منشاء خوش اخلاقی ہے خیر میں تو جیسا کچھ ہوں وہ تو مجھ کو ہی معلوم ہے مگر مجھ سے اعلق رکھنے والوں کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے پہلوان اپنے شاگردوں کو سرے اونچا اٹھا کر میکتا ہے کسی کا ہاتھ ٹوٹا کسی کا سر پھوٹا۔ مگر وہ شاگرد بڑے پہلوانوں میں شمار ہوتے ہیں اور کہیں مارنہیں کھاتے تو حضرت ایک جگ آدمی اپنی اصلاح و اخلاق کی درستی کرائے پھر انشاء اللہ تعالیٰ اس کو کہیں کچھ خطرہ نہ ہوگا۔

ملفوظ ۸۳: ایک صاحب کو تعویذ دینے سے انکار

ایک شخص نے تعویذ مانگا مگر یہ نہیں کہا کہ کس چیز کا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ یہ کام یہی میرا ہی ہے کہ یہ دریافت کیا کروں کہ کس مرض یا کس ضرورت کیلئے تعویذ چاہئے بھائی جہاں جس کام کو جایا کرتے ہیں پوری بات کہا کرتے ہیں۔ اب بتاؤ کس چیز کا تعویذ چاہئے ہو عرض کیا کہ پچے زندہ نہیں رہتے فرمایا کہ بندہ خدا اپنے ہی یہ بات کیوں نہیں کہی تھی زبان سے کہنا اسی کوں اسی مشکل بات تھی۔ بھائی مجھے ایسا تعویذ نہیں آتا جس سے پچے زندہ رہا کریں اور حضرت عزرا تسلی علیہ السلام پر بھی پہرہ ہو جائے۔ کسی مرض کے لئے ضرورت ہو کسی حاکم کے سامنے جانا ہو ان کیلئے تو تعویذ ہوا کرتے ہیں موت کے روکنے کلے بھی اکبر تعویذ نہیں تھا۔

ملفوظ ۸۴: نور ظلمت کو مغلوب بلکہ مسلوب کر دیتا ہے

ایک سلسلہ غفتگو میں فرمایا! کہ آجکل بعض شیوخ طالبوں سے اسلئے گھبرا تے ہیں کہ ان کی ظلمت سے ان کا نور مکدر ہو جاتا ہے۔ الحمد للہ! ہمارے حضرات ایک ایسی آگ لیے پھرتے ہیں کہ اس کے سامنے کتنے ہی بڑے لکڑ آ جائیں وہ نہیں بھتی بلکہ وہی سب اس سے جل جاتے ہیں الحمد للہ! ہمارے حضرات کسی سے متاثر نہیں ہوتے اور حضرت وہ نور ہی کیا جو ظلمتوں سے مغلوب ہو جائے۔ میں بچ عرض کرتا ہوں نور تو وہ چیز ہے کہ ظلمت کو صرف مغلوب ہی نہیں بلکہ مسلوب کر دیتا ہے۔

ملفوظ ۸۵: اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کا علاج

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر کوئی شخص منہ پر تعریف کرتا ہے تو نفس اس قدر خوش ہوتا ہے کہ پھول انہیں ساتا اس کا کیا علاج ہے۔ فرمایا کہ اس وقت اپنے معائب کو مختصر کر کے اس خوشی کو دیابائے۔ یہ ایک قسم کا مجاہدہ ہے چند روز تعب ہو گا مگر پھر انشاء اللہ تعالیٰ سہل ہو جائے گا۔ معتقدین کے علاج ان رذائل کے باب میں بہت سخت سخت ہیں بڑے بڑے مجاہدے ہیں اب تو اللہ کا شکر ہے کہ آسان آسان نہیں سے علاج ہو جاتا ہے تھوڑی سی ہمت ضرور کرنا پڑتی ہے باقی اگر کوئی کچھ کرتا ہی نہ چاہے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔

ملفوظ ۸۶: سہل چھوڑ کر مشقت اختیار کرنا حماقت ہے

فرمایا! کہ طریق میں مقصود حاصل کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک مشکل اور ایک سہل۔ تو سہل کو کیوں نہ اختیار کیا جائے ایک صاحب نے عرض کیا کہ کچھ مجاہدہ بھی درکار ہے فرمایا مجاہدہ سے مراد یہ تھوڑا ہی ہے کہ مشقت یا سختی میں پڑو۔ مثال سے سمجھ لیجئے ایک کنوں یا ہاں مدرسہ میں ہے اور ایک جلال آباد میں ہے جو یہاں سے تقریباً دو حصائیں میل کے فاصلے پر ہے تو کیا آپ اس کو افضل سمجھیں گے کہ وہاں سے آپ وضوء کے لئے پانی لایا کریں حالانکہ یقوق آپ کے اس میں مجاہدہ ہے سہل کو چھوڑ کر شاق کے بیچھے پڑتا کوئی عقل مندی ہے۔ یہ مجاہدات و ریاضات مقصود

بالذات تھوڑا ہی ہیں ہاں مقصود کے ہیں ہیں۔ اصل چیز تو مقصود تک پہنچ جانا ہے۔ ایک اور مثال یاد آئی پہلے زمانہ میں ریل موڑ، ہوائی جہاز نہ تھے تو لوگ چھکڑوں اور بھلوں سے سفر کرتے تھے کس قدر دشواریاں ہوتی تھیں وقت صرف ہوتا تھا راستہ میں خطرات کا سامنا ہوتا تھا برا اسٹریمینوں میں طے ہوتا تھا برا ریل موڑ، ہوائی جہاز کی بدولت ہر طرح پر سفر میں سہولتیں پیدا ہو گئیں۔

اب ایک شخص ہے کہ وہ اس سہولت کو چھوڑ کر دشواری کو پسند کرے تو کیا اس کو محمود کہیں گے اگر کوئی تحکم کی راہ سے اس کو ہی محمود کہے تو اس کا تو کسی کے پاس علاج نہیں۔

ملفوظ ۷: آجکل کی خوش اخلاقی اور حضرت کی دار دگیر

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ لوگ میرے متعلق چاہتے ہیں کہ خوش اخلاقی اختیار کرے اور خوش اخلاقی بھی وہ جو آجکل مروج ہے مجھ سے یہ خوش اخلاقی نہیں ہوتی اس ہی وجہ سے لوگ مجھ سے خفا ہیں مگر میرا ہی کیا نقصان ہے ہاں نفع تو ہے کہ بدفهموں سے نجات ملی اگر میرا اطرز پسند نہیں تو میں بلا نے تو نہیں جاتا ملت آؤ بہت پیر دنیا میں خوش اخلاق ہیں وہاں جاؤ وہاں آؤ۔ آؤ بھگت ہو گی۔ اعز از و احترام ہو گا۔ بد تہذیبی پر روک ٹوک نہ ہو گی اعمال شنیعہ پر محاسبہ نہ ہو گا۔ اور یہاں پر تو یہی ہے اگر سو دفعہ خوشی ہو آؤ ورنہ مت آؤ خوب کہا ہے۔

ہاں وہ نہیں وفا پرست جاؤ وہ بے وفا ہی ہے جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں فرمایا کہ یہاں پر تعلق رکھنے میں اول اول توحشت ہوتی ہے پھر مارے نہیں نکلتے بھگائے نہیں بھاگتے واقعی محبت ایسی ہی چیز ہے اس میں ایسی ہی ترقی ہو جاتی ہے۔

یا رب چہ چشمہ ایست محبت کم ازان ☆ یک قطرہ آب خوردم و دریا اگر یstem ﴿اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اَنْتَ الْمُحْمَدُ اَنْتَ الْمُحْمَدُ﴾۔

ملفوظ ۸۸: عدم مناسبت، جدا ہی کا سبب بنتی ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جو لوگ سمجھدار نہیں ان کا اس میں کیا قصور ہے فرمایا کہ میں اس پر مواخذہ نہیں کرتا ہاں کم سمجھوں اور بدفهموں میں تعلق رکھنا نہیں چاہتا اس لئے کہ

مناسبت پیدا نہ ہوگی جو کہ شرط نہ فتح ہے اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں۔

دیکھئے! موئی علیہ السلام اور خضر علیہ السلام میں جو جدائی ہوئی اس کا سبب عدم مناسبت تھی ورنہ موئی علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر ہیں جن پر کسی قسم کا بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ مگر حضرت خضر علیہ السلام نے صاف فرمادیا کہ آپ کا اور میرا ایک ساتھ رہ کر نیا نہیں ہو سکتا۔ پس عدم مناسبت ہی سبب ہوئی جدائی کی۔

چوں گزیدی پیریں تسلیم شو ☆ پھر موئی زیر حکم خضر و
صبر کن درکار خضراے بے نفاق ☆ تانگوید خضر رواندا فراق
﴿جب شیخ منتخب کر لے تو اپنے آپ کو اس کے پرورد کر دو۔ موئی علیہ السلام کی طرح
حضر علیہ السلام کے حکم کے تابع ہو کر چلو۔ اے مخلص خضر! (شیخ) کے کاموں (تعلیمات) میں صبر
سے کام لو۔ تاکہ خضر (کسی طرح شیخ بھی) یہ نہ کہہ دیں کہ جاؤ (میرا تمہارا انبانہ ہو گا)﴾۔

ملفوظ ۸۹: ایک مرید صاحب کا خط

فرمایا! کہ ایک مرید صاحب نے مجھے خط لکھا تھا آج تک کسی نے ایسا نہیں لکھا کہ نہ تم
میرے پیر نہ میں تمہارا امر یہ۔ خواہ جتوہ دل کر رکھا ہے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ان ہی حضرت کے متعلق
معلوم ہوا کہ ایک قبہ ہے یہاں سے دس بارہ کوں کے فاصلے پر وہاں پر خود کشی کرنے کو تیار ہو گئے لوگوں
نے روکا اور سبب دریافت کیا تو کہتے ہیں کہ اسکی زندگی سے مر جانا ہی بہتر ہے جبکہ میرے پیر ہی مجھ
سے ناراض ہیں۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ تعلق رکھے بغیر بھی نہیں بتتا۔ اور تعلق کی بناء پر (تریتی
کیلئے) میں جو روک لوں کرتا ہوں اس کی بھی برداشت نہیں آخر پھر کام کس طرح چلے۔

ملفوظ ۹۰: ایک نووارد پر موافقہ

ایک نووارد صاحب آئے حضرت والا نے سوال کیا کہ کہاں سے آئے اور کس غرض
سے۔ اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرمایا بھائی کہہ لو جو کچھ کہنا ہے اور کم از کم پہلے اپنا
تعارف کر ادؤ۔ تاکہ یہ تو معلوم ہو کہ اتنا مبارکہ سفر کیا رہو پیا اور وقت صرف کیا۔ اس سے تمہاری کیا
www.ahlehaq.org

غرض ہے۔ بغیر بولے اور بتلانے ہوئے دوسرے کو کیسے خبر ہو کوئی علم غیب تو ہے ہی نہیں۔ جس غرض کیلئے گھر سے سفر کیا آخر کوئی تو غرض اور وجہ دل میں ہو گی اس کو صاف صاف کہہ دو اور اس کو ظاہر کرنا کون سی بڑی مشکل بات ہے۔

اس پر بھی وہ کچھ نہیں بولے۔ حضرت والانے فرمایا کہ ان آنے والوں کی حرکتیں کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ آکر کیا کرتے ہیں۔ میرے کہنے سننے پر شکایت کرتے ہیں۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص چپکے سے کسی کے کوئی سوتی چیزوں سے اور وہ کہنے ہائے مرگیا۔ ارے ظالم یہ کیا کیا تو اس کے غل مچانے کو سب نے سن لیا اور اس کی حرکت کسی نے نہ دیکھی کہ چپکے سے اس نے کیا کیا۔ حضرت! اگر یہ ہی برتاب و دوسرے کے ساتھ ہوتی حقیقت معلوم ہو برداشت نہیں کر سکتے اس کو بھی غریب بذہام سکین ہی ختم کر سکتا ہے اصلاح کا نام لوگوں نے سن لیا ہے اصلاح کی حقیقت سے بے خبر ہیں بڑی مشکل سے آدمی بنتا ہے۔

ملفوظ ۹۱: سچ بولنا آسان ہوتا ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ منکر نکیر کو قبر میں جواب دینا آسان ہو گا مگر اس شخص کی (میں مراد ہوں) جرح قدح کا جواب مشکل ہے۔

میں نے سن کر کہا کہ بالکل صحیح ہے وہاں تو سچ بولو گے سیدھا اور سچا جواب دو گے تو وہ سوال کریں گے من ربک مومن کہے گا ربی اللہ کافر کہے گا لا ادری دونوں سچ اور یہاں کراشیخ کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو سیدھی اور صاف بات نہیں کرتے وہ چلتی نہیں اس لئے یہاں کو جواب مشکل ہے سیدھی اور سچی بات کے مقابلہ میں جھوٹ کیسے چل سکتا ہے۔

ملفوظ ۹۲: دُعاء سے زیادہ کوئی وظیفہ موثر نہیں

فرمایا! کہ ایک شخص کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں قرضدار ہوں کوئی موثر وظیفہ بتلا دیجئے۔ میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ دعا سے زیادہ کوئی وظیفہ موثر نہیں اسی سلسلہ میں فرمایا کہ لوگوں نے خدا سے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ بندوں کا تعلق حق جل و علی شانہ سے بہت ہی ضعیف ہو گیا۔ اس باب

میں لوگوں کے عقائد نہایت ہی خراب ہیں۔ اور اس میں ایک اور بہت بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وظیفہ سے کام نہ ہو تو پھر آیات الہیہ سے بدگمانی بد عقیدگی ہوتی ہے یہ سب جاہل عاملوں سے کی بد ولست ہو رہا ہے ان کے یہاں ہر کام کیلئے وظائف ہی کی تعایم ہوتی ہے۔ اہل نماہل بھی نہیں دیکھا جاتا اس کے علاوہ بتانے کے وقت ایسے طرز سے کہتے ہیں اور ایسا اطمینان دلاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اسی طرح ہو جائے گا اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں اور اگر تقدیر سے اس کے خلاف ہو تو اس پر ہٹنے والے کے ایمان کے لائلے پڑ جاتے ہیں۔ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ آیات الہیہ میں بھی کوئی اثر نہیں پھرا لیکی بدگمانی کا مقتضاناً تو یہ تھا کہ دعا ہرگز قبول نہ ہوتی۔

دیکھنے اموثی بات ہے اگر ہم کسی کو دوسرو پیغمبر یہ مہینہ دیتے ہوں اور اس کی نسبت ہم کو اس کے اقرار سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو ہماری نسبت بدگمانی ہے کہ اب نہ دیں گے۔ پھر قیامت تک بھی ہم اس کی طرف التفات نہ کریں گے مگر حق تعالیٰ ہیں کہ سب کچھ سنتے ہیں دیکھنے ہیں پھر بھی رزق بند نہیں فرماتے بڑے ہی رحیم و کریم ہیں۔

ملفوظ ۹۳: ذکر میں مزہ نہ آنا

فرمایا! کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ذکر میں مزانہیں آتا۔ میں نے کہا کہ مزا تو مذمی میں ہے یہاں کہاں مزا ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ فرمایا کہ کوئی مزے کا طالب ہے کوئی کیفیات کا طالب ہے اگر خدا کے ساتھ تعلق ہو تو اس بے مزگی میں بھی ایک خوش مزگی ہوتی ہے جن کیفیتوں کے لوگ طالب ہیں وہ نفسانی کیفیات ہیں اور منظوب روحانی کیفیات ہیں ان روحانی اور نفسانی کیفیات میں فرق بڑا ہی مشکل ہے نفсанیات کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں یہ کیفیات اور جوش و خروش کچھ عمر نہیں رکھتے ان کے فرو ہونے کے بعد پھر روحانی کیفیت بڑھتی ہے وہ البتہ دائی ہوتی ہے ان میں ضعف نہیں ہوتا وہ بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے مولانا فرماتے ہیں۔

خود قوی تر میشود خر کہن ☆ خاصہ آں خرے کے باشد من لذان

(پرانی شراب (نشلانے میں) زیادہ قوی ہوتی ہے خاص کرو وہ شراب جو (معرفت)

حق کی شراب ہو)۔

دوسرے بزرگ فرماتے ہیں

ہر چند پیر و خستہ و بے بس ناتواں شدم ☆ ہرگز نظر بروئے تو کردم جوان شدم
 ﴿اگرچہ میں بوڑھا خستہ و ناتواں ہو گیا ہوں (مگر اے محبوب حقیقی) جب تیرے چہرہ
 کو دیکھتا ہوں (یعنی آپ کی طرف توجہ خاص ہوتی ہے) تو جوان ہو جاتا ہوں﴾۔

کام میں لگنا چاہئے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کیفیات بھی ہیں یا نہیں حلقوٹ اور لذائیں
 بھی ہیں یا نہیں۔ اور نہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ہوا یا نہیں اس کو ایک مثال سے سمجھ لجھئے گا
 جیسے اپنہاری رات کو آٹا پیشی ہے مگر اس پیشے والی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آٹا چکلی ہے گرہا ہے یا
 نہیں اور نہ خبر ہوتی ہے کہ کس قدر جمع ہو گیا ہے پیشے ہی کی دھن میں لگی رہتی ہے صبح کو جب دیکھتی
 ہے معلوم ہوتا ہے کہ تمام چکلی کے گرد آٹا جمع ہے اگر رات بھری کرتی کہ ایک چکر چکلی کا گھما لیا اور
 ٹنول کر دیکھ لیا تو اس چکا آٹا اسی میں رہے گی پاؤ بھر بھی آٹا نہیں پیس سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے کو
 جس کے سپرد کیا ہے اس پر بغیر اعتماد اور انقیاد اور اعتقاد کئے کام نہیں چل سکتا۔ جب جانے والا یہ
 کہہ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے بس اطمینان کرتا چاہئے اسی کو مولا نافرماتے ہیں

گرچہ رخنه نیست عالم را پیدا ॥ ☆ خیرہ یوسف دارے باشد دوید

﴿اگرچہ بظاہر عالم میں کوئی راستہ ظاہر نہیں ہے مگر بحالت حیرانی یوسف علیہ السلام کی
 طرح بھاگنا چاہئے (تو راستہ خود بخود کھلتا اور ملتا چلا جائے گا)﴾۔

ملفوظ ۹۲: ایک صاحب کی گستاخی اور پھر معافی

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کی روک ٹوک کی برکت سے طالب کو بے
 حد فخر ہوتا ہے یہاں سے جو لوگ ناکارہ اور نتا اہل سمجھ عدم مناسبت کی بنا پر نکال دیئے جاتے ہیں وہ
 دوسری جگہ کے اچھوں سے بھی اچھے ہوتے ہیں۔

حضرت والا نے فرمایا کہ آپ نے تو اس روک ٹوک اور محاسیب کی قدر فرمائی اور ایک
 شخص نے اس روک ٹوک ہی کی بنا پر وطن پہنچ کر لکھا تھا کہ تم نے میری بڑی اہانت کی میں نے علم کا

ادب کیا اور نہ انتقام لیتا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس ہی شخص کا خط آیا کہ مجھ سے بڑی گستاخی ہوئی میں نے اس قسم کا مضمون لکھا تھا جس وقت سے وہ مضمون حضرت والائوں کی ہے اس وقت سے برابر میری بینائی میں کی ہوتی جا رہی ہے اور اب قریب اندر ہا ہونے کو ہو گیا ہوں اور میں اس کو اسی تحریر کو دیال سمجھتا ہوں۔ میں نے جواب میں لکھا کہ یہ تم کو وہم ہو گیا ہے مگر تمہارے خیال کی بناء پر میں دل سے معاف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائیں۔ حضرت کسی کو بلا وجہ ستانا اور یادل دکھاننا تہایت خطرناک بات ہے فرماتے ہیں۔

یعنی تو میں را خدا رسوانہ کر دے ☆ تاول صاحب دلے نام بد رد
چوں خدا خواہد کہ پر وہ کس درد ☆ میلش اندر طعنه پاکاں یرو
﴿کسی قوم کو خدا نے اس وقت تک رسوانیں کیا جب تک کسی صاحب دل کا دل نہیں
دکھا۔ جب حق تعالیٰ کسی کی پر وہ دری فرماتے ہیں تو اس کا میلان پاک لوگوں کو طعن و تشنیع کرنیکی
طرف ہو جاتا ہے﴾۔

۲ رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس خاص بوقت صحیح یوم دوشنبہ

ملفوظ ۹۵: اصلاح، اصلاح کے طریقہ سے ہوتی ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ جس طریق سے میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں وہی نافع ہے شرعاً بھی عقلانی بھی۔ لوگ اس سے گھبرا تے ہیں اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ ناسور ہو اور اوپر سے ٹانکے لگا کر مرہم لگادیا جائے تو کیا مادہ رک جائے گا ہرگز نہیں کسی اور طرف کو نکلنا شروع ہو جائے گا اصلاح تو اصلاح ہی کے طریق ہے ہوتی ہے۔

مگر اب چاہتے یہ ہیں کہ جو ہم چاہیں وہ ہو وہ سرے کا چاہانہ ہو۔ اور یہ ناشی ہے خود رائی اور خود بینی سے۔ اب بتائیئے اصلاح ایسے لوگوں کی کس طرح ہو ہر کام اصول سے ہو سکتا ہے بے اصول طریق سے کچھ نہیں ہو سکتا۔

ملفوظ ۹۶: ذکر قلبی افضل ہے یا ذکر لسانی

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ذکر قلبی افضل ہے یا ذکر لسانی؟ فرمایا! ذکر کے متعلق مختلف احکام ہیں۔ بعض احکام تو لفظ کے ساتھ متعلق ہیں ان میں ذکر لسانی افضل ہے اور باقی جو ذکر زبان سے نہ کیا جائے اجر اس پر بھی ملتا ہے یہ ذکر قلبی ہے جس سے ہر وقت قلب میں یاد رہے مگر اس طریق میں قوی اندیشہ رہتا ہے قلب سے ذہول ہو جانے کا۔ اور ذکر لسانی میں یہ اندیشہ نہیں اس اعتبار سے ذکر قلبی سے ذکر لسانی افضل ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر صرف قلب سے ذکر کریں تو زبان خالی رہیں گی اور اگر زبان سے ذکر کریں تو اس کے ساتھ قلب بھی ادنیٰ توجہ سے متوجہ رہے گا۔ ہاں جس وقت نیند کا غلبہ ہوا رہ وقت زبان سے ذکر نہ کرے کیونکہ احتمال ہے کچھ کا کچھ نکلنے لگے۔ حدیث شریف میں اس کی استعجمام لسانی سے تعبیر فرمایا ہے۔

ملفوظ ۹۷: ذکر کے وقت تصور ذات

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ذکر کے وقت حق جل و علی شانہ کا تصور کرنا اس کی کیا صورت ہے کس طرح تصور کرے۔ فرمایا کبھی تصور ہوتا ہے صفات کا اور کبھی تصور ہوتا ہے ذات کا مگر بہتر یہ ہے کہ کچھ لفاظ ثنی ایادعا کے تجویز کر کے ان کا خیال سے وردر کئے اس کے ضمن میں جو توجہ ہو گی وہ کافی ہے۔

ملفوظ ۹۸: بدعتی اور تکفیر سازی

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آجکل فلاں شہر سے بدعت مت رہی ہے کا یا پلٹ ہو گئی اور پہلے یہ حالت تھی کہ فلاں صاحب کے ایک مقرب خاص نے وعظ ہی میں بیان کیا ہے فخر کے ساتھ کہ ندوہ پر ہم نے کفر کا فتوی دیا دیوبندیوں پر ہم نے کفر کا فتوی دیا خلافت والوں پر ہم نے کفر کا فتوی دیا۔

حضرت والا نے سن کر فرمایا کہ جو چیز کسی کے پاس ہوتی ہے وہی تقسیم کیا کرتا ہے ان

کے پاس اس کے سوا اور ہے ہی کیا۔ بس کفر ہی تقسیم ہوتا ہے کفر کا ہائیکورٹ ہے۔ کفر کے فتویٰ دینے کی وجہ سے ہائیکورٹ کفر کا کہا گیا۔ فرمایا کہ میں کفر کا حکم لگانے میں برا ضعیف ہوں ہم ت نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا گنویؒ کے یہاں اہل باطل کی عکفیر کا ذکر تھا اس روز نہایت جوش میں شانِ حیمتی کا ظہور ہو رہا تھا۔ یہاں تک فرمایا کیا کافر کا فر لئے پھرتے ہو۔ قیامت میں دیکھو گے ایسوں کی مغفرت ہو گی جنہیں تم دنیا میں کافر قطعی کہتے ہو۔ اور واقع میں وہ کافر نہ ہوں گے مگر نہایت ہی ضعیف الایمان ہونگے۔

پھر فرمایا لیکن اگر ڈرانے دھمکانے کیلئے شرعی انتظام کیلئے کسی وقت کافر کہہ دیا جائے اس کا مقصود نہیں۔ اس میں انتظامی شان کا ظہور ہو گیا۔

ملفوظ ۹۹: نسبت اور پیر پر اعتراض

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جس طرح ایمان جاتا رہتا ہے اور آدمی کافر ہو جاتا ہے کیا اسی طرح نسبت بھی جاتی رہتی ہے فرمایا جس طرح ایمان ظاہری جاتا رہتا ہے ایسے ہی نسبت بھی جاتی رہتی ہے اور جس طرح ایمان فی علم اللہ نہیں جاتا۔ اسی طرح نسبت فی علم اللہ نہیں جاتی۔

پھر اسی سلسلہ میں فرمایا کہ اس طریق میں سب سے زیادہ جو مضر چیز ہے وہ معلم پر اعتراض ہے اس کا ہمیشہ خیال رکھنا ضروری ہے مگر یہ شرط ہے کہ پیر ہو پیر نہ ہو۔ یہ میں اس وجہ سے متنبہ کر رہا ہوں کہ بعض بات ایسی ہوتی ہے معلم کی کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی اور طالب اس میں اعتراض کر رہا ہے۔ سو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ظاہر اس سے کوئی امر شرایحت کے خلاف صادر ہو جائے تو ایک آدھ بات میں تو مناسب تاویل کر لی جائے گی۔ اگر تاویل سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ ممکن ہے کہ اس کی حقیقت ہماری سمجھ میں نہ آئی ہو اور اگر کثرت کے ساتھ ایسے امور صادر ہونے لگیں تو پھر نہیں کہ ہر بات میں تاویل کی جائے گی۔ یہ ایسا ہے جیسے حسین آدمی کے چہرہ پر ایک ٹل ہو جس کو خال سے تعبیر کرتے ہیں زائد سے زائد دو ہوں تو عیوب نہیں مگر یہ بھی نہیں کہ تمام چہرہ تکوں ہی سے بھر جائے اگر ایسا ہے تو پھر تو سارا حسن خاک میں مل جائے گا۔

ملفوظ ۱۰۰: حضرت سید احمد شہید اور شرک فی النبوت

فرمایا! کہ ایک مرتبہ مولانا شہید صاحبؒ میں اور حضرت سید صاحبؒ میں ایک مسئلہ پڑھوئے گفتگو ہوئی۔ بالآخر مولانا شہید صاحبؒ نے معافی چاہی اور عرض کیا کہ مجھ کو آپ کی بات بلاچون وچرا مان لیتا چاہئے تھا اس پر سید صاحبؒ نے فرمایا کہ تو بہ کرو یہ تو نبی کا مرتبہ ہے کہ اس کی بات کو بلاچون وچرا مانا جائے اور یہ بھی شرک فی النبوت ہے مولانا شہید فرماتے ہیں کہ اس ارشاد سے مجھے شرک فی النبوت کے متعلق ایک باب عظیم علم کا مفتوح ہوا۔

ملفوظ ۱۰۱: حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کی ایک عبارت

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مولانا شہید صاحبؒ کے عنوانات ہی پر بدعنی ان کی تکفیر کرتے ہیں فرمایا یہی بات ہے مگر خود وہ عنوان ہی بے ادبی کے نہیں وہ سمجھنہیں سکے اس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں۔

دیکھئے! ان عنوانات میں بڑا محل اعتراض عنوان یہ ہے کہ اگر خدا چاہے تو محمد چیز سینکڑوں بناؤ لے۔ جس میں ظاہراً تحقیر کا موہم ہے لفظ بناؤ لے۔ اسی عنوان کو ایک صاحب نے حضرت مولانا احمد علی صاحب سہاران پوری رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے پیش کر کے اعتراض کیا تھا کہ حضرت اس میں تو حضور ﷺ کی تحقیر ہے فرمایا ہاں مگر فعل کی تحقیر ہے مفعول کی نہیں۔ اس پر وہ بولے کہ حض بات بنائی جاتی ہے۔ یہ حضرات بڑے عالی ظرف ہوتے ہیں یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ ایک روز اتفاق سے یہی صاحب حضرت مولانا احمد علی صاحبؒ سے کہنے لگے کہ حضرت اب تو بیضاوی شریف بھی چھپواؤ لئے۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ یہ وہی ذالناہ ہے سو یہ بیضاوی کی تحقیر ہے۔ اور قرآن اس کا جزو ہے کل کی تحقیر جزو کی تحقیر ہے اور قرآن کی تحقیر کفر ہے جب تو آنکھیں کھلیں کہنے لگے واقعی آپ کی تحقیق صحیح ہے۔ واقعی میری مراد اس وقت بیضاوی کی تحقیر نہ تھی بلکہ چھاپنے کی سہولت بتلانا تھا۔ اب ان کی سمجھ میں آیا۔ یہ ہیں علوم۔ یہ حضرات تھے صاحب کمال۔ خیر جی ہم ایسے نہ ہوئے تو کیا ہے الحمد للہ! اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے بزرگ تودیے ہم تو اس کا ہی شکردا کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ایسے بزرگوں کا تعلق نصیب فرمایا۔

۱۰۲: اسباب کی ضرورت اور ضعف طبعی ملفوظ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کے مشورہ لینے پر زمین وقف کرنے سے منع فرمایا تھا بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیک کام سے روک دیا مگر بڑی ہی حکیمانہ بات فرمائی کہ وقف کر کے کوئے رہ جاؤ گے اور اس کے بعد جو پریشانی ہو گی نہ معلوم اس کو برداشت کر سکو گے یا نہیں۔ واقعی ہم ضعفاء ہیں بظاہر ہم کو اسباب کی بھی ضرورت ہے کہ پچھہ ہمارے پاس ہو۔

ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ! انہیں پریشان رکھتا ہے کہ کل کو کہاں سے کھائے گا اس لئے اگر سب رزق اکٹھا مل جائے تو کوئی ہمزی میں بند کر کے رکھ دوں اور جب نفس کہے کہ کہاں سے کھائے گا تو اس سے کہہ دوں کہ کوئی ہمزی میں سے یہ خاص قسم کا ضعف اور قوت منافی نہیں کمال کے۔ یہ ضعف طبعی بات ہے فرمایا اس طبعی بات پر یاد آیا۔ ایک بادشاہ اور ایک بزرگ میں کسی مسئلہ پر گفتگو ہوئی۔ دوران گفتگو میں تیزی آگئی بادشاہ برہم ہوا اور آواز دی کہ کوئی ہے ادھر! ان بزرگ نے آواز دی کہ کوئی ہے تو مکان کے ایک گوشہ سے نہایت زبردست شیر بہر آمد ہوا اور پکا چونکہ بادشاہ اور بزرگ دونوں ایک ہی سمت میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ سے پہلے یہ بزرگ بھاگے حالانکہ وہ ان ہی کی کرامت کا ظہور تھا تو یہ باقی ہوتی ہیں یہ منافی کمال کے نہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے قوی القاب تھے۔ مگر قرآن پاک میں قصہ موجود ہے وَلَىٰ مُدْبِراً وَلَمْ يَعْقِبْ يَأْمُوسِي لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَّيِ الْمُرْسَلُونَ۔ (یعنی جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کے حکم سے عصاز میں پڑا اور وہ اڑ دھا بن گیا خود موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر کر بھاگے یہ طبعی خوف تھا)۔

۱۳۵: ۲ رمضان المبارک میں مجلس بعد نماز ظہر یوم دوشنبہ

۱۰۳: کرامت کی حقیقت ملفوظ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ یہ لکھا ہے عارفین نے کہ کرامت کا درجہ اس ذکر اسی

سے بھی جو کہ بلا حضور قلب ہو کم ہے اور پھر اس سے بھی کم درجہ ہے تصرف کا۔ حضرت اصل چیز تو تصرف ہے یعنی اطاعت سے مشرف ہونا تصرف میں کیا رکھا ہے اور اس زمانہ میں تو لوگوں نے خلط کر رکھا ہے تصرف کو بھی کرامت سمجھتے ہیں۔ ان چیزوں کے بیچے پڑنا ہی بے کار وقت کو کھوتا ہے آدمی کو ضروری کاموں میں اپنا وقت صرف کرنا چاہئے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کا اتباع ہونا چاہئے وہ اب منحصر ہے اتباع نبوی میں۔ جس کو حق تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ بڑی فتحت ہے آجکل تصرف کو علامت قرار دیتے ہیں ولایت اور قبولیت کی۔

صحیح راستہ تو یہ ہے کہ قدم بقدم حضور ﷺ کے چلنے نصیب ہون جائے یہی بڑی دولت ہے اور اسی میں سب کچھ ہے اس کے سامنے اور چیزوں کی تمنا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور چیزوں میں رکھا کیا ہے۔ خود حضور ﷺ بھی تصرف نہ فرماتے تھے۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ کبھی ایک شخص کے سینہ پر ہاتھ مار دیا کبھی بدن پر ہاتھ پھیر دیا۔ اس ایسے ایسے واقعات کا گاہ ٹابت ہیں۔ جو کسی عارض کی وجہ سے ہوتا تھا۔ حضور ﷺ کا غالب معمول نہ تھا سو اول تو اس کا تصرف ہونا ثابت نہیں۔ اسی نے محدثین ان واقعات کو مجذرات میں لاتے ہیں دوسرے حضور اکرم ﷺ صاحب وحی تھے اگر تصرف ہی ہو تو اذن سے ہوتا تھا اور وہ کوئی بات نصیب نہیں۔ اور ہر حال میں خواہ وہ تصرف ہو جس میں قصد تأشیر ہوتا ہے یا مجذہ ہو۔ جس میں قصد کو دخل نہیں لیکن یہ امر دونوں میں مشترک ہیں۔ کہ اس طرف پوری توجہ نہیں ہوتی جیسے کہ عام اہل تصرف کے تصرف کے لوازم عادیہ سے ہے کہ اس وقت دوسرے خطرات کو اہتمام سے دفع کرتے ہیں۔

ملفوظ ۱۰۳: فقہی مسائل میں لوگوں کی دلیری

فرمایا! کہ آجکل مسائل فقہی میں لوگ بہت دلیر ہیں سب سے زیادہ مجھ کو فقط ہی میں بولتے ہوئے ڈر معلوم ہوتا ہے مسائل کا بہت ہی نازک معاملہ ہے اس میں ہرگز ہر شخص کو دخل نہ دینا چاہئے۔

ملفوظ ۱۰۴: عاشق ہمیشہ نامراود ہی رہتا ہے

ایک سوال کے جواب میں فرمایا! کہ عاشق ہمیشہ نامراود ہی رہتا ہے کیونکہ جس مقام

قرب تک پہنچتا ہے آگے کا طالب ہوتا ہے جو اس وقت حاصل نہیں وہ حکمہ اغرض حضرت عاشق جنت سے ادھر نامرادی رہتا ہے مگر وہ نامرادی ہی اس کی مراد ہے
گرمادت رائداق شکرست جزا بے مراد دلبرست
(اگر چہ تیری خواہش کیسی ہی شیریں اور عمدہ ہے۔ مگر کیا (ہر وقت اپنے کوبے مراد سمجھ کر آگے ترقی کا طالب رہنا یہ) بے مرادی محظوظ کی خواہش نہیں ہے)۔

اور بعض کو تو یہاں تک غلو ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ حکم لگادیا ہے کہ جنت میں بھی یہی نامرادی اور بے چینی ہو گی۔ مگر یہ بعض غلط ہے۔ وہاں بالکل سکون ہو گا اس غلطی کا نشانہ یہ ہے کہ تخلیات لاتھنائی ہیں وراء الوراء ثم وراء الوراء تو ہر تجھی پر اس کی طلب برصغیر ہے گی اور چونکہ وہ لاتھنائی ہیں تو اس آگے کے انتظار میں بے چینی ہو گی لیکن یہ حقیقت کے خلاف ہے اس لئے کہ جتنی طلب ہو گی چونکہ وہاں اس کی استعداد بھی ہو گی اس لئے وہ اول ہی بار عطا فرمادی جائے گی اور اس سے آگے جو عطا ہو گی وہ بلا طلب عطا ہو گی اس لئے اس کا انتظار نہ ہو گا۔

خلاصہ یہ کہ یہاں طلب زیادہ ہے استعداد کم! اس لئے عطا میں دری ہوتی ہے وہاں استعداد سے زیادہ طلب ہی نہ ہو گی۔ اسلئے نہ انتظار ہو گا نہ بے چینی غرض جنت میں بے چینی نہ ہو گی۔

ملفوظ ۱۰۲: امور تکمیلیہ مجددین کے پرد کرنے کی حکمت

ایک اہل علم کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تکمیلی کارخانہ مجددین سے متعلق کرنے میں یہ حکمت ہے کہ ان میں عقل نہیں ہوتی اس لئے تشريع کے مکلف نہیں ہوتے اور ان کی بعض خدمتیں شرع پر منطبق نہیں ہوتیں مثلاً اگر مسلمانوں اور کافروں میں مقابلہ ہو تو مسلمانوں کا غلبہ مقصود تشریعی ہے اور ایسا ہونا بعض اوقات خلاف مصلحت اور حکمت ہوتا ہے اسلئے اسی جماعت کے پرد کیا گیا جس کو اس سے کچھ بحث نہیں اور ایسا کام سالک کب کر سکتا ہے اور اس کو کیسے جائز ہوتا۔

اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ میرارجمن پہلے اس طرف تھا کہ مجددین اجتہاد نہیں

کرتے تھے امر صریح کے قرع ہیں اور ملائکہ کے متعلق بھی یہی خیال تھا کہ وہ محض نصوص کے قرع ہیں مگر حدیث جبریل انه دس الطین فی فم فرعون مخافۃ ان تدر کہ الرحمة (جبریل علی السلام فرعون کے منہ میں گارا اس لئے ٹھوٹ رہے تھے کہ کہیں رحمت حق اس پر متوجہ ہو جائے) (روایۃ بالحاصل) سے نیز حدیث: القاتل الشائب من الذنب اختلف فيه ملائکة الرحمة والعقاب (جس قاتل نے گناہ (قتل) سے توبہ کر لی تھی (بعد مرنے کے) رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اسکے بارہ میں اختلاف ہوا) سے اس طرف رجحان ہو گیا کہ ملائکہ احتجاد کرتے ہیں و کذا المجدوبین وزاد الرحجان بقصة الاشراقی ان المجدوبین مختلفون فی احکام بقاء السلطنة وبدلها۔ (جو ملائکہ کا حال ہے یہی حال مجدوبین کا ہے اور اشراقی صاحب (جو حضرتؐ کے زمانہ میں ایک مجدوب تھے) کے قصہ سے یہ خیال اور بڑھ گیا کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ مجدوبوں میں اس میں اختلاف ہے کہ انگریزی سلطنت باقی رہے یا اس کو بدل دیا جائے)۔

ملفوظ ۱۰: وعظ کے اندر روانی نہ ہونا بھی حکمت ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں جب وعظ بیان کرتا ہوں تو بیان کے وقت روانی نہیں ہوتی اور یہ بات تھوڑے ہی دنوں سے پیدا ہوئی ہے اس سے پیشتر خوب روانی ہوتی تھی فرمایا کہ اگر کسی کے کلام میں روانی نہ ہو لیکن روانی نہ ہونے کا سب خوف آخرت ہو وہ تو عین مطلوب اور مددوح فی الحدیث ہے۔ لیکن اگر خوف آخرت بھی سبب نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے ہو تو اس کے مصالح پر نظر کر کے یہ حالت بھی مغتنم و مبارک ہے کہ جیسے سبب سے مسبب کا حدوث ہوتا ہے ایسے ہی بعض اوقات مسبب سے جب پیدا ہو جاتا ہے۔ پس توقع ہے کہ اس عدم روانی سے جو کہ بعض اوقات مسبب ہوتا ہے۔ خوف آخرت سے خود سبب یعنی خوف آخرت بھی پیدا ہو جائے۔ جیسا کہ حیات میں بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ کہانا مسبب اور رغبت اس کا سبب ہے لیکن پچھے کا جب دو دفعہ چھڑایا جاتا ہے تو غذا اس واسطے دیتے ہیں تاکہ اس سے اس کا سبب یعنی رغبت پیدا ہو جائے۔

ملفوظ ۱۰۸: دوہی طبقے حکماء کہلانے کے مستحق ہیں

فرمایا! کہ حقیقت میں اس امت میں دوہی طبقے حکماء کہلانے جانے کے قابل ہیں۔

فقہاء اور صوفیہ! بڑے بڑے فلاسفہ اور سائنس دال ان حضرات کے سامنے گرد ہیں کیا نہ کافر ہے ان حضرات کی عمق نظر کا۔

چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر معشوق کالعاب کوئی نہیں تو اس پر کفارہ ہے اور غیر محبوب کے لعاب سے کفارہ نہیں کہاں نظر پہنچی ہے سبحان اللہ!

ملفوظ ۱۰۹: دارالعلوم دیوبند کے قرن اول کا حال۔

فرمایا! کہ جس زمانہ میں میں مدرسہ دیوبند میں پڑھا کرتا تھا اس وقت کے حالات و واقعات یاد آ کر عجیب قلب کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہمیشہ ایسا ہی زمانہ رہے گا۔ اس وقت بڑے بڑے اہل کمال کا اجتماع تھا اور قریب قریب سب اپنے کو منانے ہوئے اور فنا کئے ہوئے تھے۔ جب کبھیاتفاق سے ان حضرات کا اجتماع ہو جاتا تھا یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہر بزرگ دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے بڑی ہی خیر کا مجمع تھا۔ یہی حالت آپس میں طلباء کی تھی اور اساتذہ کے سامنے تو بولنے کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی اور ایک یہ زمانہ ہے کہ اس وقت سے کوئی مناسبت نہیں

چنیست خاک را بعالم پاک

اس وقت کھلم کھلا نظر آتا تھا کہ مدرسہ پر انوار کی بارش ہو رہی ہے اور یہ سب ان حضرات کی مقبولیت کی علامت تھی اور ان حضرات کے تقویٰ و طہارت کے ثمرات تھے اور مدرسہ کی مقبولیت کا اس قدر جواہر ساری دنیا پر ہدیہ بھی ان ہی حضرات کی برکت تھی مقبولیت پر یاد آیا حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ نے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے اور اس میں ایک طرف چھپر کے مکان بنے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ اے اللہ! یہ کیسی جنت ہے جس میں چھپر ہیں جس وقت صبح کو مدرسہ آیا۔ مدرسہ کے چھپر نظر پڑے تو ویسے ہی چھپر تھے یہ زمانہ بالکل مدرسہ کا ابتدائی زمانہ تھا تب تعبیر سمجھے میں آئی کہ یہ مدرسہ کی مقبولیت دکھلائی گئی ہے۔ اس زمانہ

میں تھیں بھی چوڑی تعمیر تھی نہ اساتذہ ترک اور شان سے رہتے تھے نہ طلباء کا کوئی فیشن تھا پھر ہوئے کپڑے ٹوٹی ہوئی جوتیاں یہ ان کا ظاہری حال تھا نہ اس جدید قسم کے قواعد اور قانون تھے نہ اتنے لمبڑا اور محرب تھے کام جو کچھ ہوا سب کو معلوم ہے کہ کیسے کیسے باکمال لوگ فارغ ہو کر نکلے اور اب اس وقت سب کچھ ہے اور اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں وہ جو ایک چیز تھی جس کو روح کہتے ہیں وہ نہیں رہی باقی علم اور جگہ سے اب بھی بہت تھا مگر زمانہ تحریک سے وہ بھی آیا گیا ہوا اس لئے کہ طلباء کو تقریروں تحریریوں اور کمیٹی جلسوں ہی سے فرصت نہیں۔

سخت افسوس ہے بعضوں کی تو بہاں تک نوبت آگئی کہ علم دین میں مشغول ہونے کو فضول اور بیکار بتاتے ہیں۔ نہ معلوم یہ سبق کہاں سے حاصل کیا ہے۔ یورپ میں تو یہ طریقہ نہیں دیا جبکہ بعض اوقات اس قسم کی تحریکات ہوتی ہیں مگر جو جماعت علم کی تحصیل میں مشغول ہے اس کو ان تحریکات میں شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی یہیں پر دیکھ لجھے۔ ہماری ہماری قوم کس ہوشیاری اور چالاکی سے کام کر رہی ہے یہ ساری بے اصولیاں اور بدانتظامیاں مسلمانوں ہی کے حصے میں آگئی نہیں بھیزراچاں ہے جس طرف کو ایک چلا اسی طرف کو سب چل دیتے ہیں یہ بھی کوئی کام کرنے کا طریقہ ہے کہ سب ایک ہی کام میں لگ جائیں۔ اس پر دعویٰ ہے سیاست دانی کا میں کام کرنے کو منع نہیں کرتا مگر جو کچھ بھی ہو۔ اصول کے ماتحت ہو اور حدود و احکام اسلام سے تجاوز نہ ہو۔ اور طلباء کو اس قسم کی کمیٹیوں اور جلسوں میں شرکت کی اجازت ہرگز ہرگز نہ دینا چاہیے سخت مضر ہے پرانے شگون کیلئے اپنی ناک کیوں کٹائے دیتے ہو۔ جوش سے کام کرنے کی ضرورت ہے جوش سے اول تو کام نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ کیا ان کا میں کیلئے طلباء ہی رہ گئے ہیں اور مسلمان کچھ کم ہیں ان سے کام او اگر کام کرنا ہی ہے مگر سختا کون ہے جو دماغوں میں سماں گئی ہے اس کے سامنے کسی خیرخواہ کا کہتا اور نفع اور ضرر کسی کی کچھ خبر نہیں کہ آخراں کا انجام ہے کیا بے حد دل دکھتا ہے مگر سوائے دعا کے اور کیا چارہ ہے۔ حق تعالیٰ عقل اور فہم سليم عطا فرمائیں۔ لیکن تحقیق ہوئی ہے کہ اب ذمہ دار جماعت کو اصلاح حالت مدرس کی طرف تو یہ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کا میاب فرمادے۔

۳۰ رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس خاص بوقت صبح سہ شنبہ

ملفوظ ۱۰۰: حضرت کی تواضع اور تصرف و کرامت کے نہ ہونے پر اظہار شکر ایک اہل علم کے سوال کے جواب میں فرمایا! کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ کو تصرف اور کرامت وغیرہ سے محفوظ رکھا اور نہ مجھ جیسے کمزور کیلئے تو یہ چیزیں حباب بن جاتیں اور اسی پر کیا اولاد کیسی دولت ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی مجھ کو اس سے بھی محفوظ رکھا گیا اگر اولاد ہوتی تو نہ معلوم کیا کیا آفتیں ہوتیں۔

ملفوظ ۱۱۱: اولاد کا ہوتا بھی اور نہ ہوتا بھی حکمت ہے

فرمایا! کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سامنے ایک تقریر فرمائی کہ اولاد ہونے میں یہ کلفت ہوتی ہے یہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ خلجان ہوتے ہیں۔ سبب اس کا یہ ہوا تھا کہ میری ایک خالہ ساس تھیں انہوں نے حضرت حاجی صاحب سے میرے لئے اولاد ہونے کی دعا کرائی تھی۔ اس موقع پر حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بھائی! تمہاری خالہ نے تمہارے اولاد ہونے کی دعا کو کہا تھا۔ میں نے دعا تو کر دی مگر جی تو یہی چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں و یہی ہی تم رہو مطلب یہ تھا کہ اولاد نہ ہو میں سمجھ گیا کہ اولاد نہ ہوگی چنانچہ نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ جب میں نے دوسرا عقد کیا ان کی عمر اولاد ہونے کی تھی مگر عجب اتفاق ہے کہ ان کوڈاکرنی نے کہہ دیا تھا کہ تم شادی مت کرنا تمہارے لئے سخت مضر ہے اگر اولاد ہوئی تو پھر تمہاری جان کی خیر نہیں سوا اولاد میرے لئے مضر باطن بتلائی گئی اور ان کیلئے مضر ظاہر۔ سو شادی تو ہوئی مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کی حفاظت فرمائی کہ ان سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ سوا اولاد نہ ہونے میں ان کی مصالح جان کے تھے اور میرے مصالح ایمان کے اور یہ سب کے لئے نہیں۔ یہی اولاد بعض کیلئے آللہ بعد ہو جاتے ہیں اور بعض کیلئے آللہ قرب ہو جاتے ہیں۔ اس کو حق تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کس کیلئے سبب بعد کا ہوں گے اور کس کیلئے سبب قرب کا۔ پس جیسے اولاد ہوتا ایک دولت اور نعمت ہے۔ مگر سب کے لئے نہیں اسی طرح پیشین گوئی اور تصرف و کرامت دولت ہیں مگر سب کیلئے نہیں

بلکہ بعض کیلئے یہ چیزیں حجاب ہیں اور مجھے جیسے کمزور کے لئے تو یہ چیزیں حجاب ہی ہو جاتیں اپنی حالت سے میں ہی خوب واقع ہوں۔ بس مجھے تو یہ ہی حالت پسند ہے کہ جو احکام معلوم ہوں ان پر عمل کروں اور وہی اپنے دوستوں کو بتا دوں۔

ملفوظ ۱۱۲: حضرت کے عقد ثانی کا واقعہ

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عقد ثانی کا داعی کیا پیش آیا تھا فرمایا اُن کی سادگی دینداری اور بے نفسی داعی ہوئی۔ شروع ہی سے ان کی یہ حالت تھی اسی وجہ سے میں نے ان کو سعید احمد مرحوم کیلئے تجویز کیا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ ایسی اچھی طبیعت کا آدمی گھر میں رہے جب مرحوم کی وفات ہو گئی ان کے گھر میں رہنے کی بجز عقد کے کوئی صورت نہ تھی اور یہ بات مجھ کو بعد میں معلوم ہوئی کہ علاوہ میرے خاص دوستوں کے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے تھی کہ ایسا ہو جانا چاہئے۔ بلکہ یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ اپنے گھر میں سے اس معاملہ میں ڈرتا ہے۔

واقع مجھے جو اس میں تردود تھا وہ یہی تھا مجھے پہلے گھر کے مزاج سے اندیشہ تھا اور وہ اندیشہ واقع بھی ہوا گواب بحمد اللہ اس کا اثر باقی نہیں رہا۔ میں نے ایک مرتبہ اس کے متعلق خواب دیکھا کہ میں کسی سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر عقد ثانی ہو گیا تو بڑے گھر میں سے کیا کریں گی تو یہ جواب ملا کہ وہ بیٹھی ہوئی قرآن پاک پڑھا کر میں گی نیز اس کے متعلق میں نے ایک یہ بھی خواب دیکھا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میرے مکان میں تشریف لانے والی ہیں۔ اس سے میں یہ تعبیر بھاکہ جو نسبت عمر کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بوقت نکاح حضور کے ساتھ تھی وہ ہی نسبت ان کو ہے یہ شاید اس طرف اشارہ ہو۔ میں نے اس کے متعلق ایک رسالہ بھی لکھا ہے الخطوب الذ یہ اس کا نام ہے اس میں واقعہ کی حقیقت کو ظاہر کر دیا ہے اور رسالہ کے لکھنے جانے کے داعی میرے بھائی فرشی اکبر علی صاحب مرحوم ہوئے تھے انہوں نے ایک خط میں مجھ سے استفسار کیا تھا کہ آخر ضرورت ہی نکاح کی کیا پیش آئی تھی اصل میں تو ان کو جواب دینا تھا وہ بیکل

رسالہ ہو گیا۔ وہ رسالہ بعض لوگوں کے لئے تو جو کہ اہل فہم تھے دوستی کا سبب بن گیا ایسے لوگوں نے یہ کہا کہ ایسے شخص سے ضرور تعلق رکھا جائے اس لئے کہ اس میں استقلال ہے اور اگر بعض کا اعتقاد جاتا رہا ہو تو جاتا رہے۔

بسم اللہ امیں کوئی کام کسی کے معتقد یا غیر معتقد بنانے کی نیت سے تھوڑا اہی کرتا ہوں میرے بڑے گھر میں سے مجھ سے کہا کہ تم نے یہ عقد کر کے عقدتائی کا دروازہ کھول دیا اب لوگ ایسا ہی کریں گے۔ میں نے کہا کہ کھولا نہیں بند کر دیا ہے لیکن لوگوں کو معلوم تو ہو گا کہ اتنے حقوق ہیں کسی کی بھی ہمت نہ ہو گی۔

فرمایا یہ ادائے حقوق کی دشواری کا خیال ہی خیال ہے ورنہ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتے ہیں کہ عمل کرنا اور حقوق کا ادا کرنا پھراؤں سے بھی ہلاکا ہو جاتا ہے۔ مشکل سے مشکل کام ان کی مدد سے آسان ہو جاتا ہے مگر ارادہ شرط ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت قرآن پاک میں ہے ماجعل عليکم فی الدین من حرج ۴۷ دین میں حق تعالیٰ نے تم پر کوئی تنگی نہیں فرمائی ہے اور مفتود الخیر کے متعلق جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نہ ہب ہے اس میں حرج ہے فرمایا اس میں تو حرج اور تنگی ہے اور جہاد میں تنگی نہیں جہاں سرکتے ہیں عورتیں یہ وہ ہوتی ہیں پچھے یتیم ہوتے ہیں اگر حرج کے یہی معنی ہیں اور تنگی اسی کو کہتے ہیں تو اسکو بھی قرآن شریف کی فہرست سے نکال دو چپ رہ گئے۔ مولانا پر جذب غالب رہتا تھا مجد و بَحْجَه جاتے تھے مگر کیا جواب دیا یہ حضرات دین کے عاشق تھے اس لئے امور دینیہ میں ہر وقت ہوشیار اور بیدار رہتے تھے۔

دیکھئے! جہاد میں کتنا اعوب ہے اور آخر انعام اس کا قتل ہے مگر حضرت اس وقت ایسا بھی نہیں ہوتا جیسے چیونٹی کاٹ لیتی ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جو پلنک پر پڑ کر مرتا ہے اس کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے چھ سو ٹکو اس پر ایک دم پڑی ہوں اور جہاد میں آسانی سے جان لٹکتی ہے (جو

اس قدر رخت ہے) بظاہر یہ سب ارادہ کی برکت ہے ارادہ بڑی دولت ہے اس سے بڑے سے بڑے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں چنانچہ مجھ کو اس معاملہ میں عدل بالکل آسان ہو گیا۔ اور گو کہنے کی توبات نہیں مگر کہتا ہوں کہ میں نے حقوق کی رعایت بیہاں تک کی اور یہ محض دوستوں کو معلوم کرنے کی غرض سے کہہ رہا ہوں تاکہ عمل کریں کہ ایک کچھ وقت میں دوسرے کا خیال بھی نہیں آنے دیتا۔ اور یہ اس وجہ سے کہ جہاں تک میرے ارادہ اور قصد کو دخل ہے وہاں تک کیوں کوتاہی کروں اور یہ خیال کیا کہ قصد اس خیال کرنے میں بھی ایک فتح کا استخراج ہے۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے اس خیال کے استخراج ہونے کے متعلق ایک مرتبہ اور بھی فرمایا تھا اور اس سے استدلال کیا تھا کہ اگر اپنی بیوی کے پاس ہو اور صحبت کے وقت کسی لمحبی کا قصد اخیال کرے تو وہ حرام ہو گا۔ فقہاء نے اس کو بیان فرمایا ہے فرمایا کہ ہاں استدلال کیا ہو گا۔

لفظ ۱۱۳: مدرسہ دیوبند اور حضرتؐ کی زمانہ طالب علمی کا امتحان

ایک سلسلہ حنفیوں میں فرمایا کہ مدرسہ دیوبند میں بڑے ہی باکمال حضرات کا اجتماع رہ چکا ہے اب ان حضرات کو آئندھیں ڈھونڈتی ہیں بڑا ہی یا برکت اور با خیر جمیع تھا حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے جامع کلامات تھے ہر فن میں کمال رکھتے تھے ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ سنائے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی سید احمد صاحب مدرس ثانی کے ذہن اور میرے ذہن کی ایک نوعیت ہے۔ حضرت والا نے سن کر فرمایا کہ یہ مقولہ حضرت مولانا احمد حسن صاحب امر وہی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سنائے۔

ایسی سلسلہ میں فرمایا کہ مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصائد عرفیہ میں میرا سالانہ امتحان لیا کرتا ہیں میں نے کبھی توجہ کے ساتھ نہ دیکھیں نہ پڑھیں میں نے گھونٹ گھانٹ کر ایک تقریر کر دی۔ فرمایا اور کچھ میں نے پھر ایک دوسری تقریر کر دی فرمایا۔ اور میں نے ایک اور تیسرا

تقریر کر دی۔ آخر میں فرمایا کہ ان میں سے ایک مطلب بھی صحیح نہیں مگر تمہاری ذہانت پر نمبر دیتا ہوں میں نے اپنے دل میں کہا کہ جتاب اس وقت تو نمبر ۴ مقصود ہے کتاب کس کو مقصود ہے۔

ملفوظ ۱۱۳: بڑی مجلس میں مجمع کے حقوق ہوتے ہیں

فرمایا! کہ یہ طے ہوا ہے سب کی اطلاع کی وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ صحیح کی مجلس میں عام مجمع ہونے سے قلب پر ایک تعب ہوتا ہے کئی زیادہ مجمع ہونے کی وجہ سے آواز پلند کرنا پڑتی ہے کہ سب سن لیں اس سے بھی تعب ہوتا ہے پھر مجمع کے عام ہونے سے قلب میں زیادہ بیٹھنے کا تناقض ہوتا ہے اور اس کا شرہ بعد میں مجھ کو بھلتنا پڑتا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جو لوگ حضرت کے پاس آئے ہیں وہ حضرت کی زیارت کو صحبت کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں اس لئے مجلس تو عام ہی رہے مگر حضرت کا جس وقت جی اٹھنے کو چاہے حضرت اٹھ جایا کریں فرمایا کہ یہ میری کچھ طبعی سی بات ہے کہ زیادہ مجمع میں سے اٹھنے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے کہ مجلس کا مقصد تو اس قدر بڑا اور اس میں کبڑی کا ساپا لا جھوکا کر چل دیئے کچھ اپھا نہیں معلوم ہوتا۔ نیز زیادہ مجمع ہونے کی وجہ سے حقوق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔

ملفوظ ۱۱۵: کیفیات کا نہ ہونا بھی موجب رحمت ہے

فرمایا! کہ کیفیات محمودہ نفسانی بھی ہوتی ہیں اور روحانی بھی۔ بعض مرتبہ کیفیات کا نہ ہونا موجب رحمت ہے اور ہونا موجب فتنہ۔ کیونکہ پہلی صورت میں اپنے کونا قص سمجھتا ہے اور دوسری صورت میں کامل۔

ملفوظ ۱۱۶: آجکل کے لیڈر اور سیاسی تحریکات کے بارے میں حضرت کا تفصیلی نقطہ نظر

ایک مولوی صاحب نے کشیر کے متعلق چند سوالات کئے اس پر حضرت والا نے جو جوابات ارشاد فرمائے وہ بے عنوان سوال و جواب ذیل میں درج کرتا ہوں۔

سوال: میں ایک خاص واقعہ کے متعلق اپنی تسلی کے لئے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں اگر حضرت والا بیتib خاطرا جازت فرمائیں۔

جواب: فرمایا نہایت خوشی سے اجازت ہے اس وقت اور بھی اہل علم موجود ہیں ضرور ان سے سوالات کو ظایہر فرمائیے۔

سوال: کشمیر پر جو مسلمانوں کے جتنے چار ہے ہیں ان کا وہاں پر جا کر لڑنا مقصود نہیں صرف حکومت پر اثر ڈالنا ہے یہ صورت شرعاً کیسی ہے؟

جواب: فرمایا یہ شرعی لڑائی تو ہے نہیں۔ اب دوہی صورتیں ہیں یا قتال پر قدرت ہے یا عجز اگر قدرت ہے تو قتال اور اگر قدرت نہیں تو صبر درمیان میں اور کوئی چیز نہیں ہے نہ یہ درمیانی صورتیں سمجھے میں آتی ہیں۔ اور نہ آجکل کی درمیانی صورتیں اسلامی صورتیں ہیں سب دوسری قوموں کی تقلید ہے۔

سوال: اس وقت کے زمانہ کے لحاظ سے یہ ہی ثابت ہوتا ہے کہ کمزور کو قومی کے مقابلہ میں اسی صورت سے کامیابی ہو سکتی ہے یعنی پیک حکومت کا مقابلہ اسی صورت سے کر سکتی ہے۔

جواب: فرمایا یہ نصوص کے مقابلہ میں اجتہاد ہے اور اجتہاد کا ہم کو حق نہیں۔ میں نے جو دو صورتیں بیان کیں یہ تو منصوص ہیں اور آپ جو تمدید ایمرو طریق کا ریاضیان کر رہے ہیں یہ اس مضمون کا معارض ہے اسی لئے یہ طریق سلف سے منقول نہیں۔

سوال: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے پر حضور ﷺ نے خندق کھدا کی تھی یہ شاہان عجم کی تدبیر میں سے تھی جو غیر قوم تھے۔

جواب: فرمایا کہ یہاں کوئی نص نہ تھی اس لئے حضور ﷺ نے عمل فرمایا تو حضور ﷺ کا عمل فرمایا منصوص نہ ہونے کی وجہ سے تھا اور یہاں تو منصوص ہے یہاں پر یہ صورت اختیار نہیں کر سکتے۔

سوال: یہ صورت جو اختیار کی گئی ہے اس سے بھی کامیابی ہو جاتی ہے سکھ اس سے کامیاب ہو ہی گئے۔

جواب: فرمایا کہ سوال کا میابی عدم کا میابی کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہ صورت جو اختیار کی گئی ہے اس کا حکم شرعی کیا ہے اس کا میں جواب عرض کر رہا ہوں۔

سوال: اگر بغیر لڑے ہوئے اس صورت کو اختیار کر کے کامیابی ہو جائے تو اس صورت کے اختیار کرنے میں شرعاً کیا حرج ہے۔

جواب: فرمایا بھی کیا تھوڑا حرج ہے کہ نص کے خلاف ہوا۔

سوال: کچھ نہ کریں مارے جائیں برباد ہو جائیں خاموش رہیں؟

جواب: فرمایا کہ یہ میں نے کب کہا ہے یہ بھی آپ کا اجتہاد ہے مجملہ اور اجتہادات کے میں نہ واقعات کی نقی کرتا ہوں اور نہ منفعت کی۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صورت جو اختیار کی گئی ہے۔ یہ منصوص کے خلاف ہے آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اس کا منصوص کلیے میں داخل ہونا ثابت کریں۔ اگر داخل ہے تو مجھ کو بھی بتلاو یا جائے میں بھی مان لوں گا۔ خدا نخواستہ ضد یا بٹ تھوڑا ہی ہے جس طرف میں صاف طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ منصوص کے خلاف اور منصوص کلیے میں داخل نہیں ہو سکتا اور منصوص کے مقابلہ میں اجتہاد اور قیاس کوئی چیز نہیں اور نہ ہم کو اس قسم کے اصراف کا حق ہے آپ بھی صاف بیان کریں جس وقت آپ سماجی دین گے میں بھی انشاء اللہ تسلیم کرلوں گا۔

سوال: موجودہ صورت منصوص کے کلیے میں تو داخل نہیں ہو سکتی لیکن یہاں پر قیاس سے کام لیا جا سکتا ہے۔

جواب: فرمایا نص کے ہوتے ہوئے قیاس اور اجتہاد کیجئے میں کب منع کرتا ہوں مجھے تو بحمد اللہ کھلی آنکھوں نظر آتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل۔

سوال: اسی لیے تو دریافت کیا جا رہا ہے۔

جواب: فرمایا اگر آپ کو شرح صدر ہو تو آپ عمل کیجئے یہی سمجھ لیجئے کہ مجھ کو شرح صدر نہیں مجھ کو اپنے فتویٰ میں شریک نہ کیجئے اور نہ مجھ سے امید رکھئے کہ میں منصوصات کے خلاف کروں یا اجتہاد کروں میں تو کثر مقلد ہوں۔

صاحبین کا قول بھی کہیں اضطرار میں لے لیتا ہوں ورنہ میں تو امام صاحبؒ کے مذہب پر عمل کرتا ہوں آپ کی تو بھلا کیا تقلید کر سکتا ہوں آپ تو بچے ہیں اور میں بڑھوں کا مقلد ہوں پھر مزا افرا مایا کہ نہیں بڑھوں کا نہیں بلکہ ایک بڑھے کا۔

سوال: لذتو کسے نہیں پھر کیا صورت ہو؟

جواب: جو میں عرض کر رہا ہوں وہ منصوص ہے اسی پر عمل کریں یعنی قدرت کو دیکھ لیں اگر قدرت اور قوت ہے تو بجائے جتنے بھیجنے کے مقابل کریں جہاد کریں تکوار ہاتھ میں لیں لڑیں اور اگر قدرت نہیں جیسا کہ ظاہر ہے صبر کریں نیز عجز کی صورت میں یہ بھی ہو گا کہ آئندہ اگر کوئی ضرر پیش آیا تو اس کے برداشت کی بھی قوت نہ ہو گی اور جس ضرر سے بچنے کی قدرت نہ ہو یا مشکل ہو اس میں نہ پڑنا چاہئے۔

سوال: (آیت جہاد میں) من قوہ نکرہ ہے اس وقت جیل جانے کی قدرت ہے۔

جواب: قدرت سے یہ قدرت مراد نہیں بلکہ وہ قدرت جس میں خصم کو کوئی ضرر ہو اور اس کے ساتھ اپنا کوئی ضرر لقینی نہ ہو۔

سوال: جیل کے جانے میں تو کوئی ضرر نہیں معلوم ہوتا اور خصم کا ضرر ہے یعنی انفاذ پھر کیا حرج ہے۔

جواب: اگر قدرت علی الاضرار یہی ہے تو آج اس کی بھی قدرت ہے کہ ایک دشمن کے منه پر تھوک دیں اس میں بھی انفاذ ہے لیکن چونکہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ضرر اپنا ہے ایسا نہیں کرتے یا ایک دشمن کے ڈھیلا مار دیں اس کی قدرت بھی ہے مگر ایسا نہیں کر سکتے حاصل وہی ہے کہ قدرت سے مراد وہ قدرت ہے جس میں اس کا معتد بھی نہیں۔

خوب سمجھہ لیجئے کہ قدرت کی دو قسمیں ہیں کہ ایک یہ کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس پر تو ہم کو قدرت ہے لیکن اس کے کر لینے کے بعد جن خطرات کا سامنا ہو گا ان کے دفع کرنے پر قدرت نہیں دوسرا یہ کہ فعل پر بھی قدرت ہے اور اس کے کر لینے کے بعد جو خطرات پیش آئیں

گے ان کی مدافعت پر بھی قدرت ہو۔ پہلی صورت استطاعت لغویہ ہے اور دوسری صورت استطاعت شرعیہ خوب سمجھ لجھے گا اور مدافعت کی فرضیت کیلئے پہلی استطاعت کافی نہیں بلکہ دوسری صورت یعنی استطاعت شرعیہ شرط ہے جس کو اس حدیث نے صاف کر دیا ہے۔

قال من رأى منكم متوكلاً على غيره بيده فان لم يستطع فليس به
يستطيع فبقلبه.

جب کوئی شخص کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھتے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے اگر اس کی قدرت نہ ہو تو زبان سے اس کی برا آئی ظاہر کر دے اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے (ضرور) اس کو برا کر جھے گا۔ ظاہر ہے کہ استطاعت بالسان ہر وقت حاصل ہے پھر اس کے انتفاء کی تقدیر کب محقق ہوگی۔ یعنی اگر فعل کسی کی فرضیت کیلئے محض اس فعل پر قادر ہونا کافی ہو اور اس سے جو نظرات پیش آئے والے ہوں ان کی مدافعت پر قادر ہونا شرط نہ ہو تو زبان سے انکار کرنا ہر حالت میں فرض ہونا چاہئے کیونکہ زبان کا چلاتا ہر وقت ہماری قدرت میں ہے پھر وہ کون سی صورت ہوگی جس کی نسبت حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے بھی مٹانے کی قدرت نہ ہو تو دل سے مٹا دے اس سے ثابت ہوا کہ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس فعل پر قدرت ہونے کے ساتھ اس میں ایسا خطرہ بھی نہ ہو جس کی مقاومت اور مدافعت و مقابلہ بے ظن غالب عادة ناممکن ہو ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس دفاع کے بعد اس سے زیادہ شر میں بٹانا نہ ہو جائیں۔

سوال: پھر کیا صورت ہے کہ شمیر کے مسلمانوں کی امداؤ کی؟

جواب: یہ صورت ہے کہ وہاں جا کر ان کو تبلیغ کی جائے اور آپس میں اتحاد کی ترغیب دی جائے اور جب قوت ہو جائے تو یہیں جہاد کریں۔

سوال: دروازہ ہی پر روک لیا جاتا ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے اندر جانے ہی نہیں دیا جاتا۔

جواب: آپ ہی دیکھ لجھے کہ ایسی حالت میں آپ سے کشمیر کے مسلمانوں کو کیا انداد پہنچ سکتی ہے جب کہ وہاں تک پہنچنے پر بھی قدرت نہیں۔ جتوں کا جیل میں جاتا پڑتا، بھوک ہڑتاں وغیرہ کرتا

خودکشی کے مرادف ہے اور اگر خودکشی سے کسی کو فائدہ پہنچے تب بھی تو باوجود وجود موجب فوائد ہونے کے جائز نہیں ہے۔ چہ جائیکہ کوئی فائدہ بھی نہ پہنچے تو اس کا درجہ ظاہر ہے یعنی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ خودکشی کرنے سے کفار پر اثر ہو گا تو کیا خودکشی کرنا جائز ہو جائے گا اور یہ جیلوں میں جانا اور بھوک ہڑتال کرنا کیا خودکشی کا مرادف نہیں ہے اگر کوئی نفع بھی خودکشی پر مرتب ہو تو یہ خود ہی اتنا زبردست نقصان ہے کہ جس کا پھر کوئی بدل ہی نہیں حضرت ہر منفعت کا اعتبار نہیں اس کی تو بالکل ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ فلاں شخص کی جان بچ سکتی ہے اگر تم کنوئیں میں اگر جاؤ تو اس کی جان بچانے کی غرض سے کیا کتو نہیں میں گر جانا جائز ہو گا۔

سوال: تو کیا پھر قتال ہی کیا جائے۔

جواب: ضرور، مگر قدرت عادی شرط ہے اور شخص کا میابی کی خیالی توقع قدرت نہیں ہے۔

سوال: ضرر تو قتال میں بھی ہے اشد ضرر کہ جان جاتی ہے۔

جواب: چونکہ قتال مقصود اور منصوص ہے اس لئے اس کا ضرر معین نہیں اور یہ تذکیرہ اور طریق کار غیر منصوص ہیں اس لئے اس کے ضرر کو دیکھا جائے گا۔ اور وجہ فرق دونوں میں یہ ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ فتنہ نہ ہو قتال فتنہ نہیں ہے کیونکہ قتال میں طبیعت یکسو ہو جاتی ہے اور سکون ہوتا ہے۔ اور ان امور میں تشتت اور پر اگندگی اور اضاعت اوقات ہے۔ اصل یہ ہے کہ لوگ فتنہ کو نہیں دیکھتے پر گرام بناتے وقت۔ اور فتنہ کو شخص رائے سے دیکھنا کافی نہیں اور نہ مفید ہے بلکہ نصوص اور ذوق کے ساتھ دیکھنا مفید ہے اس میں سب احکام اظہر من اشتمس ہیں فتنہ ہی دقيق ہے اسی واسطے میں ہمیشہ احتیاط کے پہلو کو ترجیح دیتا ہوں۔

سوال: من قتل دون عرضہ و مالہ فهو شهید (جو شخص اپنی آپرو اور مال کے بچانے کے سلسلہ میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے) سے جان دینا جائز لکلتا ہے تو بھوک ہڑتال وغیرہ میں ہجناش معلوم ہوتی ہے۔

جواب: قتل سے مراد خودکشی نہیں بلکہ مراد قتال ہے یعنی لڑو جنگ کرو اس نیت سے کہ جان

اور مال اور ایمان نجع جائے پھر اس قتال میں اگر جان چلی جائے تو چلی جائے وہ شہادت ہے اور خود قتل مقصود نہیں ہے وہ بھی جبکہ اس قتال کی سب شرطیں پائی جائیں اور موائع مرتفع ہوں جس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے اور خود قتل کا مقصود نہ ہوتا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں ہر جگہ یقتلون (بصیغہ مجہول) بعد میں ہے یقتلون (بصیغہ معروف) سے۔ پس معلوم ہوا کہ یقتلون خود مقصود نہیں بلکہ یقتلون سے بھی لازم آ جاتا ہے۔

سوال: پوری قدرت تو نہیں مگر جو کچھ بھی ہے اس کا استعمال کس طرح کریں کچھ تو ہوتا چاہئے
جواب: یہ بھی آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے میری تو کچھ میں اس سے زیادہ نہیں آتا کہ ان کو تبلیغ کرو اور دین سکھاوا اس کے بعد لڑاؤ۔ میں پوچھتا ہوں بحربت کے بعد جو مسلمان مکہ میں تھے ان کی جانیں جاتی تھیں اس وقت اہل مدینہ نے ایک بھی جنہندہ بھیجا۔ کوئی بھی جنہانے گیا جب تک آیت قتال نازل نہ ہوئی۔ صبر کے سوا کوئی حرکت اس آئینی جنگ کی جاری نہ ہوئی پس جنگ اسلامی لڑاؤ آئین یا آئین کہاں کی خرافات نکالی ہے۔

سوال: ایسے آئین اس وقت ایجاد نہ ہوئے تھے اگر ہوتے تو جنگ بھی ایسی ہی ہو جاتی۔

جواب: بہر حال اس سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ یہ آئین منصوص تو ہے نہیں عقل ہی کا اختراع ہے تو صحابہ بھی عاقل تھے ان کے ذہن میں اور بڑی بڑی تدبیریں آئیں یہ تدبیر کیوں نہ آئیں اور یہ کیا آج کل کی اختراع شدہ تدبیر میں سے ایک بھی نہ آئی تو بس قتال کی آئی وہ بھی جب جبکہ آیت قتال نازل ہو چکی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر عمومات سے استدلال ہے تو سوال یہ ہے کہ آج تک امت میں عمومات سے استدلال کر کے کسی نے عمل بھی کیا ہے اور کیا تیرہ سو برس میں ایسی مظلومیت کی صورتیں پیش نہ آئیں تھیں۔ پھر یہ طریقے کیوں نہیں اختیار کئے گئے۔ دوسری بات یہ پوچھتا ہوں کہ بحربت کے بعد جو مستضعین مکہ میں رہ گئے تھے ان مسلمانوں میں بھی کچھ قوت اور استطاعت تھی یا نہیں اگر یہ کہا جائے ان میں قوت اس قدر نہ تھی کہ کسی قسم کا بھی مقابلہ کر سکتے جواب یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے ان میں اس قدر قوت تھی کہ ہندوستان کی قوت ان کی قوت کے سامنے گرد ہے۔

سوال: مقابل کفار بھی ایسے ہی قوی تھے اس لئے وہ ان سے مقابلہ نہ کر سکے۔

جواب: یہ تو میرے کلام کا حاصل ہے یہی توبات ہے اور اب کیا بات رہی اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر کوئی اختلاف ہی نہیں رہتا مطلب یہی تو ہوا کہ صبر ہی کرنا پڑے گا۔ عدم قدرت کی حالت میں جیسا کہ اہل مکہ نے کیا اور جب مدینہ والوں کو قوت ہو گئی اس وقت تکواریں باتھیں لیں اور مکہ پر چڑھائی کی۔

سوال: پہلے آئین کی لڑائی نہ تھی اب تو آئین کی لڑائی ہے۔

جواب: اس کا جواب پہلے ہو چکا ہے اب پھر سمجھو لیجئے کہ یہ آئین کہاں سے آئے یہ بھی تو گھرے ہوئے ہیں اور صحابہ نے تو سلطنت کی ہے اتنی بات ان کی سمجھی میں نہ آئی کہ اس طرح جتنے بیچج کر مکہ والوں کی مدد کرتے خیر کچھ بھی ہو منقولات سے ثابت کیجئے عجیب بات ہے کہ آپ مجھ سے تو غیر منقولات منوانا چاہتے ہیں اور آپ منقولات کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ میں ہرگز ماننے کو تیار نہیں جب تک آپ منقولات سے ثابت نہ کریں جیسے ہمارے بزرگوں نے نظام دین کی حفاظت کیلئے قائم کیا یعنی تقلید۔ اس کو ایسی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتے اور خرابی تو آجکل زیادہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہر شخص مجہد بنا ہوا ہے۔ واقعی سلف صالحین بڑے ہی حکیم تھے دنیا میں یہ طبقہ حکماء کا ہے کہ اجتہاد ہی کو بند کر دیا وہ ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے۔

مزاحا فرمایا کہ ہم لوگ تو عند اللہ بھی معدود ہوں گے پوچھا جائے گا عرض کر دیں گے کہ اے اللہ! کوئی دلیل ہی سمجھی میں نہ آئی تھی اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ باوجود دلیل معلوم ہونے کے بھی کشمیر کے مسلمانوں کی کیوں امداد نہیں کی اور وہاں پر کیوں نہیں گئے ہم تو وہاں پر بھی بڑی اور آپ سے وہاں بھی باز پرس!

میں ایک کام کی بات عرض کرتا ہوں کہ ان چیزوں میں نہے دلائل کافی نہیں تھوڑے سے ذوق کی بھی ضرورت ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ان جدید ایڈا اور طریق کار میں غیر منصوص ہونے کے

علاوہ میرا ذوق بھی ان چیزوں کے خلاف ہے اور مدار قبول اسکات خصم نہیں استقطاب ہے۔

سوال: ہم ہر طرح پر کمزور ہیں کچھ نہیں کر سکتے۔

جواب: یا تو اس قدر قوت تھی جوش تھا کہ منصوص کے مقابلہ میں غیر منصوص پر عمل کرنے کو تیار تھے یا یہ عقیدہ کر لیا ہے کہ ہم کمزور ہیں کام کیجئے۔ مگر شرط یہ ہے کہ حدود شرعیہ کو محفوظ رکھتے ہوئے کام کیجئے۔

انبیاء علیہم السلام کی تدابیر میں اثر نہ ہو غضب کی بات ہے اپنی اختراع کی ہوئی تدابیر کو موثر بھیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ تدابیر کے استعمال میں خدا کے راضی کرنے میں کامیابی کا اثر ہو گا یا ناراض کرنے میں ظاہر ہے کہ راضی کرنے میں اثر ہو گا تو اس کی ایک ہی تدابیر ہے کہ تدابیر منصوصہ پر عمل کیا جائے۔

سوال: ان غیر منصوصہ پر جو عمل کیا جائے گا غیر مشروع اور بر اسمجھ کر تھوڑا ہی کریں گے تو اس میں بھی خدا تعالیٰ کی ناراضی نہ ہوگی۔

جواب: یہ تو اور بھی برا ہے کہ معصیت کو معصیت بھی نہ سمجھا جائے بلکہ معصیت کو نیکی سمجھ کر کیا جائے یہ درجہ تو اس سے بھی برا ہے اور بہت برا ہے پھر بدعت کوئی چیز ہی نہیں رہتی اس لئے کہ بدعتیں جس قدر ہیں سب کو دین ہی سمجھ کر کرتے ہیں اہل بدعت یہی جواب دے سکتے ہیں کہ ہم بر اسمجھ کر تھوڑا ہی کرتے ہیں اس سے تو سنت اور بدعت جائز اور ناجائز میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا ہر برے کام میں نیت اچھی کر لیا کریں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ بر اکام نہیں بلکہ نیک کام ہے۔ آپ ہی بتلائیے کہ یہ کیا کہاں تک صحیح ہے جو آپ نے بیان کیا۔

سوال: منصوص تدابیر کے مقابل ان جدید تدابیر کو منہی عن نہیں فرمایا گیا نہ نبی وارد ہے نہ حکم ہے تو اس صورت میں مسکوت عنہ کہا جائے گا منوع ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب: جن چیزوں کی حاجت خیر القرون میں نہ ہوئی ہو اور خیر القرون کے بعد حاجت پیش آئی ہو اور نصوص ان کے خلاف نہ ہوں وہ تو مسکوت عنہا ہو سکتی ہیں لیکن ان چیزوں کی تو حاجت

ہمیشہ ہی پیش آتی رہی پھر بھی نصوص میں صرف جہاد یا صبر ہی کا حکم ہے تو اس اعتبار سے یہ مکوت عنہ نہ ہو گا مشی عنہ ہو گا۔ کہ باوجود ضرورت کے متفقین نے اس کو ترک کیا۔ اختیار نہیں کیا تو اجماع ہواں کے ترک پر اس لئے منوع ہو گا۔

علاوہ ان سب باتوں کے ایک یہ بات باریک ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام کرنے کیلئے حدود کی ضرورت ہے ان تحریکات میں بھی ضرورت ہے سواں کا تحفظ کوں کر گیا یا کون کرائیگا۔ ایک لڑکا زمانہ خلافت میں ہجرت کر گیا اس کی ماں روٹی اندھی ہو گئی اس کو کون دیکھے گا کہ کس کو جانا چاہئے اور کس کو نہیں۔ اگر تم اپر جدیدہ جائز بھی ہوں تب بھی اس کی ضرورت ہے کہ کوئی امیر ہوتا کہ حدود کی رعایت خود بھی کرے اور دوسروں سے بھی کرائے۔ بلہ امیر کے کچھ نہیں ہو سکتا۔

فرمایا! کہ امیر پر یاد آیا کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں پنجاب میں بہت ہی مخلص اور سمجھ دار شخص ہیں زمانہ تحریک خلافت میں ان کے ایک عزیز بڑے ہی جوش اور سرگرمی کے ساتھ حصہ لئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ان معاملات سے یکنشو تھے۔ ایک روز ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ اس تحریک میں حصہ کیوں نہیں لیتے ڈاکٹر صاحب نے میر انعام لے دیا کہ وہ شریک نہیں اس لئے میں کوئی حصہ نہیں لے سکتا۔ یعنی کہ میں اس کو تو پانچ منت میں اپنے ساتھ کراؤں گا۔ دیکھیں کیسے شریک نہیں ہوتے مجھ کو تھانہ بھون لے چلو میں گفتگو کروں گا۔

ڈاکٹر صاحب نے یہ واقعہ مجھ سے بیان کیا کہ میرے بھائی ایسا کہتے ہیں اگر اجازت ہو ساتھ لے کراؤ۔ میں نے لکھ دیا کہ ضرور لا او ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو اس قدر ذہین ہو مجھے خود ان سے ملاقات کا اشتیاق ہو گیا کہ اس لئے کہ ایسا ذہین آدمی کہاں ملتا ہے۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ میر گی ہمیشہ یہ نیت رہی اور ہے کہ مسلمان تو بڑی چیز ہیں اگر مجھ کو بھنگی کا بچہ بھی سمجھا دے میں ماں لوں گا۔ خدا نخواستہ کوئی ضد یا ہٹ تھوڑا ہی ہے۔ ہاں اس کے ساتھ یہ بھی نیت رہی کہ بدؤں مسئلے کو سمجھے ہوئے ایک انج بھی قدم نہ اٹھاؤں گا۔ دوسرے یہ ہے کہ مصالح وغیرہ کو

شریعت مقدسہ پر مقدم نہیں کر سکتا۔ یہ میرا فطری امر ہے میں اس میں مجبور ہوں مجھ سے مصالح پرستی نہیں ہو سکتی مصالح تو یہاں پر پیس دیے جاتے ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ مصالحوں کو سل پر خوب پیسا جائے جتنا پیسا جائے گا اتنا ہی سالم لذیذ ہو گا۔

فرمایا کہ مصالح پر یاد آیا جان سے بڑھ کر کوئی مصالح نہ ہوں گے جس زمانہ تحریک خلافت کا شباب تھا سورش پسند طبیعت میں جوش میں پھر ک رہی تھیں چہار طرف ایک آگ لگی ہوئی تھی یہاں تک نورت آگئی تھی کہ علاوہ بر ایکلا کہنے اور لعن طعن اور قسم قسم کے بہتان والزامات لگانے کی دھمکی کے خطوط میرے پاس آئے یا تو شریک ہو جاؤ ورنہ قتل کر دیئے جاؤ گے اس وقت غایت شفقت اور محبت کی بناء پر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص اور معتمد شخص کی زبانی کہلا کر بھیجا کہ یہ وقت خطرہ کا ہے اگر بظاہر تھوڑی سی شرکت کرو تو گنجائش ہے۔ میں نے کہلا بھیجا کہ یہ آپ کی محبت اور شفقت کا اقتضاء ہے مگر سب سے بڑا خطرہ جان کا چلا جاتا تھا۔ سواں کیلئے میں اپنے نفس کو تیار پاتا ہوں لیکن اس پر آمادہ نہیں ہوں کہ بلا سمجھے شرکت کروں اور نہ اس پر قدرت ہے کہ بظاہر تو شرکت کروں اور باطن میں الگ رہوں اس کو میں منافقت سمجھتا ہوں۔ اور محمد اللہ اس وقت تک ہر خطرہ سے محفوظ آپ کے سامنے زندہ اور صحیح سلامت موجود ہوں۔ لذکوں کا کھیل بنارکھا ہے یہ دین ہے کہ یا تو وہ کرو جو ہم کریں ورنہ قتل کر دیئے جاؤ گے۔

ای زمانہ میں جنگل معمول کے موافق صحیح کو گیا ایک ہندو راجپوت بوڑھا تھا نہ بھوں ہی کا رہنے والا ملابستی کے ہندو بھی جو پرانے خیال کے اور پرانے عمر کے ہیں محبت کرتے ہیں کہنے والا مولوی جی کچھ خبر بھی ہے تمہارے واسطے کیا تجویزیں ہو رہی ہیں تنہا اس طرح جنگل میں مت آیا کرو۔ میں نے کہا کہ چودھری مجھ کو اس کی بھی خبر ہے اور ایک بات کی اور بھی خبر ہے جس کی تم کو خبر نہیں کہنے لگا کہ جی وہ کیا ہے میں نے کہا کہ بدلوں اس کے حکم کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تھا تو ہندو مگر یہ سن کر اس قدر اس پر اثر ہوا جوش میں آ کر کہنے لگا کہ مولوی جی! تم جہاں چاہے پھر و تھیں جو کھم (خطرہ) نہیں ایسے آدمی کیلئے گھر جنگل پہاڑ سب ایک ہی سے ہیں۔

غرضیکہ ڈاکٹر صاحب اپنے بھائی کو ہمراہ لے کر یہاں پہنچے پہلی ملاقات تھی مگر نہایت بے تکلفی سے گفتگو شروع کی۔ گفتگو کرنے پر معلوم ہوا کہ آدمی سمجھ دار تھے مگر غلطی میں بتاتھے کہنے لگے کہ میں بلا تمہید عرض کرتا ہوں کہ آپ اس تحریک میں شریک کیوں نہیں۔ میں نے کہا کہ میں بھی بلا تمہید عرض کرتا ہوں کہ جو کام اس وقت انجام ہے اس میں ضرورت ہے اتفاق کی حدود تک بھی بقاء بھی۔ اور اول تو مجھ کو حدود اتفاق ہی میں کلام ہے لیکن علی سبیل التزل اگرمان بھی لیا جائے تو بقا کا کون ذمہ دار ہے۔ اس لئے کہ بقاء کیلئے ارادت کافی نہیں قہرو قوت کی ضرورت ہے اور وہ قوت امیر المؤمنین ہے اور اس وقت مسلمانوں کا کوئی امیر یا سردار نہیں جوان کی قوت کو ایک مرکز پر جمع رکھنے کے جو روح ہے اس کام کے کرنے کی خلاصہ شرط کا یہ ٹھہرا کہ مسلمانوں کا کوئی امیر المؤمنین ہو سب سے بڑا اور ہم مسئلہ یہ ہے سواس کی کیا صورت ہے کہنے لگا کہ ہم آپ ہی کو امیر المؤمنین بناتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں امیر المؤمنین بننے کو تیار ہوں مگر اس میں کچھ شرائط ہیں میں نے ان شرائط کی تقریر کی جس کا حاصل یہ ہے کہ اول شرط یہ ہے کہ تمام ہندوستان کے مسلمان اپنا تمام مال اور جائد امیرے نام ہبہ کر دیں میں بھیک مانگنے والا امیر المؤمنین نہیں بنوں گا۔ اور مانگنے کی بھی کوئی حد ہے کوئی ایک دفعہ دیگا دو دفعہ دیگا تین دفعہ دیگا۔ بالآخر اکتا جائیگا کہ ان کو تورات دن کا یہی قصہ ہے۔ دوسرے ایسے کام چندوں سے نہیں چلا کرتے۔ چندوں سے جن کے کام چلے ہیں ان کے مال و جان ان کی آبروان کے بیوی بچے سب خدا کی راہ پر اپنے کو قربان کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتے تھے اور اصل مقصد میں سب متعدد تھے خلوص سے ان کے قلوب پر تھے ان کی کیا کوئی ہمسری کا دعویٰ کر سکتا ہے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کہ کب تک یہ ضرورت رہے اور یہ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں تحریک کی بناء پر اس لئے کہ آجکل چندوں کی اس قدر بھر مار ہے کہ لوگ دیتے دیتے اکتا گئے۔

تیسرا یہ بات ہے کہ اگر کوئی ضرورت صرف کی فوری پیش آگئی اور پلے ہے نہیں اب اگر قم وقت پر اپنے موقع پر نہ پہنچی تو کیا ہو گا سوائے اس کے ناکامیابی ہو اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے مثلاً

ضرورت تو ہے آج اور آپ کھڑے ہوئے چندہ کو۔ پھر اس میں بھی یہ ضرور تھوڑا ہی ہے کہ فوری کامیابی ہو جائے یہ بھی تو احتمال ہے کہ کامیابی نہ ہو تو ایک یقینی ضرورت کو احتمالی بات پر متعلق کر دینا یہ کون سی غلطگندی کی بات ہے۔

اب بتلائیے کہ اس وقت چندہ کی فکر کیجئے گایا کام کی تو پہلے اس کا انتظام کیا جائے۔ اب سنئے کہ میں اس سرمایہ سے جو میرے نام ہبہ ہو گا۔ سامان جمع کروں گا اور یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہبہ کے بعد ہبہ کرنے والوں میں سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دوں گا سب کو حسب حیثیت اور مذاق اشاء اللہ تعالیٰ خرچ دوں گا اور یہ بھی اطمینان دلاتا ہوں اور اگر اطمینان نہ ہو تو تحریر مجھ سے لکھا جائے کہ بعد انفراغ اور کامیابی کے بحثہ شب کی جائیداد وغیرہ واپس کر دوں گا رکھوں گا نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہندوستان کے تمام مشاہیر علماء اور لیڈر دوں کے وسخنٹ کراو کہ وہ مجھ کو امیر المؤمنین تسلیم کر لیں اگر بلا اختلاف سب نے تسلیم کر لیا تو میں امیر المؤمنین ہوں گا۔ اگر ایک نے ابھی اختلاف کیا تو میں امیر المؤمنین نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اختلاف کی صورت میں امیر امیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تسلیم کے بعد پھر کوئی اختلاف یا خلاف کرے تو امیر کو حق ہے کہ وہ اپنی قوت سے ایسے لوگوں کو دبائے اور ٹھیک کرے قبل از تسلیم حق نہیں کہ اس کو دباایا جائے ایک یہ کام کر ادیجئے۔

اب سنئے کہ امیر المؤمنین ہونے کے بعد سب سے اول جو حکم دوں گا وہ یہ ہو گا کہ دس سال تک سب خاموش ہر قسم کی تحریک اور ہر قسم کی شور و غل بند! اس دس سال میں انتظام کروں گا۔ مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے اور ان کی اصلاح کیلئے با قاعدہ انتظام ہو گا۔ غرضیکہ مکمل انتظام کے بعد جو مناسب ہو گا حکم دوں گا۔ عملی صورت یہ ہے کام کرنے کی اور محض کاغذی امیر المؤمنین بنانا چاہتے ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ آج امیر المؤمنین ہوں گا کل کو اسیر الکافرین ہوں گا آج سردار بنوں گا کل کو سردار ہوں گا۔

یہ تقریں کر ان کی تو سب ذہانت ختم ہو گئی اور یہی مقصود تھا۔ اس تقریر سے کہ ان کو اپنے خیالی منصوبوں کی حقیقت معلوم ہو جائے ورنہ امیر المؤمنین کوں بنتا ہے اور کون بنتا ہے۔ یہ

تقریر بھی ایک علمی ناول تھا جس میں فرضیات سے مفید سبق دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر کام اصول سے ہو سکتا ہے بے اصول تو گھر کا بھی انتظام نہیں ہو سکتا۔ ملک کا تو کیا خاک انتظام ہو گا۔ یہ ہیں وہ اصولی باتیں جن پر مجھ کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور قسم قسم کے الزامات و بہتان میرے سرخوب پے جاتے ہیں اور لوگ مجھ سے خفا ہیں اور وجہ خفا ہونے کی صرف یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اصول کے ماتحت کام کرو جوش سے کام مت لو۔ جوش سے کام لو۔ جوش کا انجمام خراب نکلے گا۔ حدود شرعیہ کی حفاظت رکھو وہ ان باتوں کو اپنے مقاصد میں روزانہ کانا سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر دین نہ رہا اور احکام اسلام کو پامال کرنے کے بعد کوئی کام بھی کیا تو وہ کام پھر دین کا نہ ہو گا۔ کیا یہ دین کی خیرخواہی اور ہمدردی کہلانی جا سکتی ہے۔

اے صاحبو! آج سے پہلے بھی تو اسلام اور مسلمانوں پر اس سے بڑے بڑے حوادث پیش آئے ہیں کہ اس وقت اس کا عشرہ شیر بھی نہیں مگر انہوں نے اس حالت میں بھی اصول اسلام اور احکام اسلام کو نہیں چھوڑا اسفل کے کارناموں کو پیش نظر کر کچھ تو غیرت آنا چاہئے تم تو معمولی معمولی باتوں میں احکام اسلام کو ترک کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو وہ حضرات میں قال کے وقت بھی حدود کی حفاظت اور رعایت فرماتے تھے جس پر آج ہم کو تحریر ہے اب تم ہی فیصلہ کرلو کہ وہ تھے خیرخواہ اسلام ہمدرد اسلام جانباز اسلام یا تم۔ تحریک خلافت کے زمانہ میں صاف الفاظ میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مسائل کا وقت نہیں کام کرنے کا وقت ہے۔

ایک مولوی صاحب نے جو تحریکات میں نہایت جوش اور سرگزی کے ساتھ کام کر رہے تھے مجھ سے خود بیان کیا کہ ہم کو وہ کام کرنے پڑے ہیں اس تحریک میں کہ اگر علماء کو معلوم ہو جائیں تو ہم پر کفر کا فتوی دیدیں۔ یہ تو حالت ہے اور اس پر دعوی دین کی خدمت کا۔ خود ان خرافات اور بیبود گیوں کا اقرار ہے اور پھر ایسے معاملات میں کہ جن کو خود بھی شرک اور کفترتک سمجھتے ہیں دوسروں کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے کہ تم بھی ہم جیسے بن جاؤ۔

اس موقع پر یہ مقولہ صادق آتا ہے ”ہم تو ڈوبے ہیں مگر مجھ کو بھی لے ڈویں گے“ یہ تو علماء کی حالت ہے جو ان تحریکات میں حصے لے رہے ہیں۔ باقی عوام اور لیڈروں کی حالت

کا اسی سے اندازہ کر لیا جائے کہ وہ کیا کرتے ہوں گے۔ اب جو ان باتوں پر تنقید کرے یا خاموش اور علیحدہ رہ کر خرافات کی شرکت سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرے اس پر لعن طعن سب و شتم کیا جاتا ہے۔ یہ سب خرابیان امیر عادل نہ ہوتے کی وجہ سے ہیں اگر امیر عادل ہو وہ ان خرافات کا انسد او کر سکتا ہے وہی حدود کی رعایت کر اسکتا ہے۔ غرض اصل چیز رعایت ہے حدود کی پھر اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو صبر کریں۔ ابھی جان دینا تو مشکل نہیں مگر یہ تو اطمینان ہو کہ اپنے مصرف پر گئی جان بھی۔ کم بخت دی اور خلجان مول لیا کہ جس کام کیلئے جان دی ہے وہ دین ہے یا نہیں۔ یونہی بیٹھے بھلائے جا کر جان دے دینا کون سی انسانیت ہے اگر کوئی وقت آگیا جان دینے کا اور صحیح مصرف بھی ہوا تو سب سے پہلے یہ مدعیان خیرخواہی قوم اور ہمدردان اسلام ہی دم دبا کر بھاگتے نظر آئیں گے جس وقت حضرت مولانا دیوبندی مالیؒ سے دیوبند تشریف لائے تو میں حضرت کی زیارت کیلئے دیوبند حاضر ہوا تھا۔ وہاں پر ایک صاحب اس قسم کی گفتگو کرنے لگے اور یہ کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے پہلے آپ کے بزرگ بھی تو کھڑے ہوئے تھے میں نے کہا مجھ کو یہ بھی خبر ہے کہ کھڑے ہوئے تھے اور اس کی بھی خبر ہے کہ بیٹھے بھی گئے تھے اور آخر تک بیٹھے ہی رہے۔

اب بتلواد کہ اپنے بزرگوں کے قبیع ہم ہوئے یا تم اس لئے کہ تم منشوخ پر عمل کر رہے ہو اور ہمارا عمل ناخ پر ہے پھر کچھ نہیں بولے خدا معلوم کیا سمجھ رکھا ہے جن وجوہ اور اسباب کی بنا پر بیٹھ جانیکو ترجیح دی تھی وہی اسباب اب بھی موجود ہیں۔ بلکہ اس سے زیادہ ابتری اور کمزوری نظر آرہی ہے۔ اگر ذرا انحراف اور فکر سے کام لیں تو اس وقت اور اس وقت کی حالت کا تقاویت مشاہدہ ہو سکتا ہے کوئی باریک یا غامض بات نہیں جس میں اختلاف کی گنجائش ہو اور یوں تو ہر بات کا جواب ہو سکتا ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ جواب مقبول ہے یا مردود۔ اس لئے کہ شیطان نے بھی اللہ میاں کو جواب دیا تھا اس پر جو شراس کا ہوا کسی سے مخفی نہیں اور عوام کے بھروسہ جبکہ ان میں دین بھی اپرانتہ ہو کسی ایسے کام میں ہاتھ ڈالنا بہت خطرناک بات ہے اور یہ خطرہ دنیا ہی کیلئے نہیں بلکہ اس کا اثر دین پر بھی ہو گا اور یہ نہایت قوی اندیشہ ہے خصوصاً اس حالت کے مضر ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا جبکہ دوسروں کے کندھوں پر بندوق چلائی جائی ہو۔

جیسا صاف کہتے ہیں کہ بدوں برادر اسلام (ہندوؤں) کی شرکت کے ہم کچھ نہیں کر سکتے ایسی قوت کے بھروسہ کہ جس سے کسی وقت بھی اسلامی خیرخواہی اور ہمدردی کی امید نہیں کام کرنا کہاں عقلمندی کھلانی جاسکتی ہے نہ شرعاً نہ عقلاً۔ اس کو کوئی نافع تسلیم کر سکتا ہے ہزار ہا واقعات شب و روز مشاہد ہو رہے ہیں کہ وہ کسی طرح بھی اور کسی وقت میں اسلام اور مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے۔ خدا معلوم ان مشاہدات کو کس بناء پر نظر انداز کیا جا رہا ہے اور جو اصل چیز ہے کہ مسلمانوں میں دین پیدا ہوان کی قوت ایک مرکز پر جمع ہو۔ ان کا کوئی امیر ہواں کا کہیں نام و نشان بھی نہیں بھیڑا چال ہے جس طرف کو ایک چل دی سب اسی طرف کو چل دیتی ہیں۔ میں بقسم عرض کرتا ہوں اور خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ اگر مسلمان مقبولی کے ساتھ اپنے دین کے پابند ہو جائیں اور تمام آپس کے مناقشات کو ختم کر کے متحد ہو جائیں اور اپنی قوت کو ایک مرکز پر جمع کر لیں اور جس کو اپنا خیرخواہ سمجھ کر بڑا بنا لیں اس کے کہنے اور مشوروں پر عمل کریں اس کی اتباع سے سرمواعرض نہ کریں تو پھر ان کونہ کسی کی شرکت کی ضرورت نہ ان کو کسی سے خوف کی ضرورت اور نہ ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے ہر کام طریقہ اور اصول سے ہوتا ہے معمولی معمولی باتوں پر بغیر اصول پر عمل کئے آدمی ناکامیاب رہتا ہے یا اتنا بڑا کام اور اس کا کوئی اصول نہ ہو سخت حیرت ہے ہمارا تو ہستی اور وجود ہی کیا ہے۔

صحابہ کرام جن کی مقبولیت اور فراست و عقل تمام دنیا کو تسلیم ہے اور بڑے بڑے عقلااء اس پر متفق ہیں۔ انہوں نے بھی ساری عمری کام کئے مگر اصول اور حدود کا ہاتھوں سے نہیں چھوڑا یہی راز ان کی کامیابی کا ہے یہ توہ شخص کی زبان پر ہے کہ ان کو کامیابیاں ہوئیں ان کی نصرت ہوئی وہ تمام عالم پر بے سروسامانی کی حالت میں غالب آئے مگر اسی کے ساتھ یہ بھی تودیکھنا چاہئے کہ ان کا طریق کار کیا تھا ان کا اس جدوجہد سے کیا مقصود تھا انکی نیت کیا تھی ان کے اعمال کیسے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے وہ احکام اسلام پر کس درجہ عامل تھے ان کے قلوب میں اسلام اور احکام اسلام کی کس قدر عظمت اور محبت تھی تھراث پر تو نظر ہے اسباب ثمرات

پر بھی نظر ہوتا چاہئے اور اس پر اپنی حالت کو منطبق کرنا چاہئے کھونے کھرے کا فرق بہولت معلوم ہو جائے گا اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہم ان کا میا یوں اور نصرتوں کے مستحق ہیں یا نہیں۔ نزے دعوے اور زبانی باتیں ہانکنے سے کہیں کام چلا کرتا ہے؟ کام تو کام کرنے سے ہوا کرتا ہے میرا محمول ہے کہ مجھے جب کوئی اس قسم کا مشورہ دیتا ہے کہ یہ کرنا چاہئے اور یہ ہوتا چاہئے۔ جواب میں ایسا طریقہ بتلاد دیتا ہوں کہ اس میں ان حضرت کو بھی کچھ کرنا پڑے اور خود بھی شرکت کا وعدہ کر لیتا ہوں پا و جو دی میرے وعدہ شرکت کے، کسی کو بھی آمادہ نہیں دیکھا دوسروں ہی کو چاہتے ہیں کہ سب یہ ہی کریں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے بطور مزاح فرمایا کہ پھر تو وہ اس کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ کہا جائے آمادہ (یعنی اے مادہ آجا) سب تر کی ختم ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کی حالت بالکل اس کی مصدق ہے جیسے دو دوستوں کا ایک ساتھ سفر ہوا اول منزل طے ہونے کے بعد کسی مقام پر قیام۔ کیا وہاں پر کھانے پکانے کی تجویز ہوئی۔ ایک بولا کہ بھائی! میں توبازار سے سو دالاتا ہوں تم جنگل سے لکڑیاں جن لاؤ۔ دوسرا کہتا ہے کہ دوست تم کو معلوم ہے کہ میں سفر کی وجہ سے تھکا ماندہ ہوں مجھ سے یہ کام انجام نہیں دیا جا سکتا۔ وہ بیچارا بازار سے سو دا بھی لے آیا۔ اور جنگل سے لکڑیاں بھی جن لایا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ کام تو ہو گیا اب تم آگ جلا لو اور میں آٹا گوندھتا ہوں کہا کہ اتنی ہمت کہاں ہے بہت ہی خستہ حالت ہے اس نے یہ دونوں کام بھی انجام دیے پھر اس نے کہا کہ بھائی میں روٹی پکاتا ہوں تم آگ جلاتے رہنا اور روٹی سینتے رہنا کہا کہ بیٹھنا موت ہے سفر کی تھکان سے نانکیں چور ہو رہی ہیں اس نے روٹی بھی پکائی پھر اس نے کہا کہ لو بھائی آ کر کھا تو لو! تو کہتا ہے کہ بہت دری سے دوست کے کہنے کی مخالفت کر رہا ہوں آخر کہاں تک مخالفت کروں شرم معلوم ہوتی ہے دوست کہے گا کہ کسی بات میں بھی کہنا نہیں مانا لاؤ کھا تو لوں۔ ہے یہی حالت ان مشورہ دینے والوں کی ہے۔ پکی پکائی چاہتے ہیں کہ مل جائے ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔

میں پوچھتا ہوں کہ جو سلف کے کارناموں کو پیش کر کے دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں۔

کیا ان کی یہی حالت تھی جو تمہاری ہے کہ ہر کام سے خود تو جان بچاتے ہیں اور دوسروں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں (یعنی عوام کو پھانس کر لیڈر خود مزے کرتے ہیں) ان کی تو یہ حالت تھی کہ کام تو

ہے کیا بلا ایک سے پہلے دوسرا اپنی جان دینے کو تیار رہتا تھا۔ مجملہ اور وجہ کے ایک یہ بھی وجہ ہے کہ میں ایسے کاموں میں شرکت نہیں کرتا کہ ایسے کاموں کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے۔ اور یہ تجربہ سے معلوم ہو گیا ہے کہ کسی دوسرے کے بھروسے کوئی کام کیا جائے۔ بھی انجام کوئی پہنچ سکتا یہ تو بہت بڑا کام ہے رات دن کے معاملات میں دیکھا جا رہا ہے معمولی معمولی کاموں میں لوگ اس قدر پریشان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی کام پر دکر دیا جاتا ہے تو آئندہ توبہ ہی کرنی پڑتی ہے یہ تو اس کے مصادق ہیں کسی نے خوب کہا ہے ۔

نہ خبر اٹھے گا نہ تکوار ان سے ☆ یہ بازو مرے آزمائے ہوئے ہیں
البتہ دو کاموں کے خوب ہیں ایک تو جوبات گاندھی کے منہ سے انکل جائے اس کو
قرآن و حدیث میں ٹھوٹنا اور اس پر منطبق کرنا دوسرا یہ کہ جہاں کوئی بات ہوئی لا اوجتنده! ان دونوں
چیزوں میں کمال حاصل کر لیا ہے۔

و یکچھ لیجئے! اتنا زمانہ گزر گیا گاندھی نے کسی نئی بات کا اعلان نہیں کیا سب خاموش ہیں۔
اب وہ کسی نئی ایکیم کی فکر میں ہو گا۔ جستجو کر رہا ہو گا توجہاں اس نے کسی چیز کا اعلان کیا پھر دیکھنا
قرآن و حدیث میں بھی وہ چیز نظر آنے لگے گی۔ اور کوئی چیز بھی تو اس تمام تحریک کی ایسی نہیں جو کسی
مسلمان لیڈر یا علماء کی تجویز کردہ ہو دیکھ لیجئے۔ اول ہوم رومن گاندھی کی تجویز بایکاٹ اس کی تجویز
کھدر اس کی تجویز خلافت کا مسئلہ اس کی تجویز بھرت کا سبق اس کی تجویز۔ غرضیکہ جملہ تحریکات
میں جس قدر اجزاء ہیں سب اس کی تجویزات ہیں۔ ان کا صرف یہ کام ہے کہ جو اس نے کہا الیک
کہہ کر ساتھ ہو لئے کچھ تو غیرت آنا چاہئے ایسے بدھموں نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا اخت
صد مدد اور افسوس ہے۔

پھر غصب یہ ہے کہ اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور
اس کوفرض واجب سے تعبیر کیا جاتا ہے اس سے علیحدہ رہنے والے لوگراہ اور مرکب کیا رہ کا سمجھ
ہیں۔ خدا معلوم لکھ پڑھ کر کہاں ڈیو دیا۔ گاندھی کے اقوال کا انطباق قرآن و حدیث پر ایسا ہی۔
جیسے ایک گاؤں میں بوجھ بجکور رہتا تھا اتفاق سے اس گاؤں کے رہنے والوں میں سے ایک شخص

کھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔ چڑھ تو گیا تھا مگر اتر انہیں تمام گاؤں جمع ہو گیا مگر کسی کے کوئی تدیر ذہن میں نہ آئی کہ اس کے اتر آنے کی درخت سے تدیر ہے کیا۔ بالآخر بوجہ بھکرو بلائے گئے آکر درخت کے پاس کھڑے ہوئے کبھی اور پر کو دیکھتے ہیں اور کبھی نیچے کو۔ سونچ ساقچ کر بولے کہ رسی لاو۔ رسی لائی گئی کہا کہ اس میں گردہ لگا اور اس کو قوت کے ساتھ اور پر پھینکو اور اس شخص سے کہا کہ اس کو پکڑ کر پھندہ کر میں ڈال لے۔

غرضیکہ رسہ پھینکا گیا اس نے پکڑ کر میں ڈال لیا۔ اب نیچے والوں سے کہا کہ زور سے جھٹکا مار دانہوں نے زور سے جھٹکا لگایا وہ پٹ سے نیچے آپڑا۔ ہڈی پسلی ٹوٹ گئیں بھیجا تکل کر دور جا پڑا ختم ہو گیا۔ لوگوں نے بوجہ بھکرو سے دریافت کیا یہ کیسی تدیر تھی یہ تو مر گیا۔ بوجہ بھکرو جواب میں کہتے ہیں کہ مر گیا تو میں کیا کروں اس کی قسم۔ میں نے تو سینکڑوں آدمی اس ہی صورت سے رسی کے ذریعہ کنوئیں سے نکالائے ہیں تو جیسے اس بوجہ بھکرو نے قیاس کیا کنوئیں پر کھجور کے درخت کو۔ ایسا ہی انتباط اور استدلال آجھل کیا جا رہا ہے۔ اسی استدلال کی بدلت (مشابہ ہے) موپلوں کی قوم کو تباہ و بر باد کر دیا۔ ان لیڈروں اور ان کے ہم خیال موالیوں نے پیکھر دیے عربی انسل تھے۔ جوش پیدا ہو گیا۔ بھڑک اٹھے پھر جو کچھ ان کا حشر ہوا سب کو معلوم ہے پھر ایک لیڈر بھی وہاں نظر نہ آیا کسی نے بھی ان کی امداد نہ کی۔ چاہتے یہ ہیں کہ ہم تو کری صدارت پر بنیٹھے رہیں اور لوگ جاتیں دیتے رہیں یہ انجام ہوتا ہے بے اصول کاموں کا، کہ موپلوں کی قوم تباہ و بر باد ہو گئی۔ بجائے ترقی کے پستی کی طرف پہنچ گئے۔ بالکل وہی صورت ہے کہ کھجور کے درخت سے زمین پر لا یا گیا۔ بلندی سے پستی کی طرف آیا۔ انجام ہلاکت ہوا تو یہ جس قدر من گھڑت مد اپر نصوص کے خلاف ہیں ان کا درجہ بھی اس بوجہ بھکرو کی تداپیر سے کم نہیں جو انجام وہاں ہوا وہی یہاں ہو گا کہ بلندی سے پستی کی طرف آؤ گے۔ اور اصول کے خلاف مت کرو۔ حدود شرعیہ کا تحفظ کرو۔ ایڑی چوٹی تک لگاؤ زور، واللہ ثم واللہ ثم واللہ! ایک انج بھی تو آگے نہیں چل سکتے۔ کر کے دیکھ لو۔ اور یہی دیکھ لو کہ کسی نتیجہ پر پہنچتے ہو یا نہیں مسلمانوں کی فلاج اور ان کی بہبودی

تم ابیر منصوصہ ہی میں ہے یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے بعض لوگ دعا ماثورہ کو چھوڑ کر اور طریق دعا کا اختیار کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر یہ طریق مقبول اور پسندیدہ خدا اور رسول کا ہوتا تو وہ بھی تو تعلیم کر دیا جاتا، جب نہیں کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ طریق مقبول اور پسندیدہ نہیں اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ غیر مقبول میں خیر اور برکت کہاں، بے برکت بھی مشاہدہ ہے اور بے برکت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ یہ اس شخص کی تعلیمات اور تجویزات ہیں جو توحید اور رسالت کا منکر اسلام اور مسلمانوں کا دشمن رئیس المشرکین والا کافرین یہ سب اس کا سبق پڑھایا ہوا ہے۔

تحریک خلافت کے زمانہ میں ہجرت کا روز ولیوشن پاس کر دیا۔ اسی پر مسلمان لبیک کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ ہزاروں مسلمانوں کو بے خانماں کر دیا اس کا جو مسلمانوں کی ذات پر اثر ہوا اور ناقابل برداشت نقصان پہنچا وہ سب کو معلوم پھر ملازمتیں ترک کرنے کی تعلیم دی گئی جن کی متین ماری گئیں تھیں وہ چھوڑ بیٹھے مسلمانوں نے تو چھوڑیں اور ہندوؤں نے ان جگہوں کو پر کیا بہت سے تواب تک جوتیاں چھٹاتے پھرتے ہیں بعض کے خطوط آتے ہیں لکھتے ہیں کہ اس وقت یہ حماقت ہو گئی تھی اب تک بے روزگاری ہے سخت پریشانی ہے یہ ہیں بے اصول کاموں کے انجام اگر کوئی اصول ہوتا یا کوئی مرکز ہوتا تو ان لوگوں کو کیوں پریشانی ہوتی اور کیوں بد دل ہوتے۔

غرضیکہ قدم قدم پر ناکامی اور ذلت گلوگیر ہو رہی ہے مگر پھر بھی آنکھیں نہیں کھلتیں جو سوچتی ہے نئی سوچتی ہے یہ سب مشرک کی تعلیم پر عمل کرنے کے ثرات ہیں اگر مسلمان تنہا اصول کے ماتحت حدود شرعیہ کے تحفظ کرتے ہوئے اور کسی کو اپنا بڑا بنا کر کام کریں اپنی مالی اور جانی قوت کو ایک مرکز پر جمع کر لیں پھر کسی کو بھی اختلاف نہ ہو گا۔ مسلمانوں کے جو مقاصد شرعیہ یا اپنی بہبودی دنیا و دین کے لئے مطالبات ہیں مجھ کو ان سے اختلاف نہیں اور نہ کوئی مسلمان اختلاف کر سکتا ہے وہ تو سب ہی کو مطلوب ہیں مجھ کو جو اختلاف ہے وہ طریق کار سے ہے۔ حدود شرعیہ کا قطعاً تحفظ نہیں سردار یا امیر کوئی نہیں اختلاف اور خلاف کی یہ حالت ہے کہ پارٹی بندیاں ہو رہی ہیں کہ علماء یہ ملفوظ آج سے ستائیں سال پہلے کا ہے جب علماء کی اکثریت ایک طرف کو چلتی تھی

لیکن آج عالم ہو یا لیڈر، ہر ہر فرد کا راستہ الگ الگ ہے۔ قالی اللہ ام مشکلی ۱۲) ایک طرف کو چلے جا رہے ہیں لیزد رائیک طرف چلے جا رہے ہیں عوام کی یہ حالت ہے۔ کہ جس نے مرضی کے موافق فتویٰ دیدیا یا کوئی عالم یا لیڈر ان کے ساتھ ہولیا اس میں سب کمالات ہیں اس کو عرش پر پہنچادیں گے اگر کسی نے مرضی کے خلاف کوئی بات کی تو تخت المثلہ میں اس کو جگہ مانا مشکل۔

غرضیکہ ایک گڑ بڑ ہے اور یہ طریقہ کارجو موجود ہے یہ تو سراسر اسلام اور شریعت سب کے خلاف ہے اس کو اسلام اور مسلمانوں سے کیا تعلق مثلاً کانگریس کی شرکت جو خالص مذہبی یا سیاسی ہندوؤں کی تحریک ہے جس کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کو تباہ و بر باد کرتا ہے اور مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دینا اس کا ایک خاص فرض منصبی ہے یہ سب بالشویک خیالات کے لوگ ہیں۔ بالشویک نے جیسا کچھ اسلام اور مسلمانوں کو تباہ اور بر باد کیا۔ مدارس دینیہ و مساجد کو خراب کیا وہ ساری دنیا کو معلوم ہے تو حضرت یہ سوراج سو راج ہاتھتے پھرتے ہیں۔

اگر خدا نخواستہ اس میں کامیابی بھی ہو گئی تو ہندوستان ایک خونی مرکز بن جائیگا برادران وطن اپنی رکیک حرکتوں سے باز نہ آئیں گے مسلمانوں میں اشتعال اور جوش ہو گا روزانہ قتال اور جدال رہے گا۔ شرکی ابتداء مسلمان کبھی نہیں کرتے یہ تو ہونے پر بھی بے حد در گزر کرتے ہیں مگر جب سر پر سے پانی گزرنے لگتا ہے تب بے شک یہ بھی ہاتھ پیر ہلاتے ہیں میں اس وقت چہار طرف سے غل مچایا جاتا ہے کہ یہ وحشیانہ حرکت ہے اور تو میں یہی حرکت کریں تو مہنذ بانہ حرکت ہے کیا انصاف ہے اور کیا سمجھ ہے۔

حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کا کانگریس میں شرکت کرنا ہندوؤں کے ساتھ مل کر یا ان کو ساتھ ملا کر کام کرنا یہ اسلام اور مسلمانوں کیلئے نہایت خطرناک بات ہے اور اس طریقہ کار کو کس طرح مقاصد شرعیہ کہا جا سکتا ہے وہ اس آڑے وقت میں بھی مسلمانوں کی کسی قسم کی مراعات نہیں کرتے ان کے مذہبی شعار کو ہندوستان میں باقی چھوڑنا نہیں چاہتے آئے دن کے واقعات اس کے شاہد ہیں۔ کاپور اور کشمیر وغیرہ کے واقعات آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اب اگر اس پر بھی

کسی کی سمجھ میں نہ آئے اس کا کیا علاج۔ ایک صاحب مجھ سے کہتے تھے (وہ دفتر میں ملازم ہیں) کہ ہندوؤں کی بدولت ہر جگہ اور دفاتر میں مسلمانوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے وہ بے چارے لیڈروں یا ان کے ہم خیال مولویوں کو کیا معلوم جن پر پڑ رہی ہے وہی خوب جانتے ہیں۔

غرضیکہ یہ مسلمانوں کی جان و مال ایمان سب کے دشمن ہیں اور انہیں کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھ رکھا ہے یہی انگلی بڑی زبردست ناکامی کا راز ہے جو شخص دوست دشمن میں امتیاز نہ کر سکے وہ کیا خاک کام کریگا اور اس کو پتھر کا میابی ہوگی یہ ہیں وہ وجہ جن کی بناء پر کسی کام کے کرنے کو جی نہیں چاہتا دیکھتی آنکھوں کس طرح مسلمانوں کو آگ میں گھنے اور تباہ بر باد ہو جانے کی اجازت دے دوں۔ ان خرافات میں بتلا ہیں اور آڑ بنا یا جاتا ہے۔

کہ حضرت دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے یہ مقاصد تھے۔ استغفار اللہ! حضرت کی حیات میں حضرت کو دہلی ایک جلسہ شوریٰ میں مدعو کیا گیا تھا۔ حضرت بعض اعذار کی وجہ سے دہلی تشریف نہ لے جاسکے۔ اور ایک مواعی صاحب کے ہاتھ خط بھیجا اور یہ ہدایت فرمائی کہ جو مسئلہ مذہبی پیش آئے اس میں اپنا خیال صاف صاف بدوں کی خوف اور مذاہت کے ظاہر کر دو۔ اس وقت قربانی گاؤ کے بند کردینے پر زور دیا جا رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ مقاصد شرعیہ کے بالکل خلاف ہے ہم مذہبی احکام میں ادنیٰ تصرف اور ذرا سی ترمیم کو بھی یہداشت نہیں کر سکتے خواہ لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ ہم سے جو خدمت اسلام کی بن پڑے گی کرتے رہیں گے۔

حضرت مولانا قدس سرہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اور عقیدت کا دم بھرنے والے حضرت کے اس فرمان سے سبق حاصل کریں کہ ادنیٰ ترمیم کو بھی شریعت مقدسہ میں گوارانیں فرماتے نہ یہ کہ سر سے پیر تک شریعت مقدسہ کے خلاف باتیں کی جائیں احکام اسلام کی کھلم کھلا مخالفت کی جائے اور اس کو حضرت مولانا قدس سرہ کی طرف منسوب کیا جائے ان باتوں کو حضرت کے مقاصد میں سے بتا کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے۔ حضرت مولانا تو بڑی چیز ہیں سلاطین اسلام باوجود یہ کہ دنیادار کہلاتے ہیں مگر ان میں سے جن کے دل میں اسلام اور احکام اسلام کی

عظمت اور احترام تھا۔ انہوں نے شریعت مقدسہ کے خلاف کرتا گواہ نہیں کیا اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ سلطنت جائے گی یار ہے گی۔

سلطان صلاح الدین نے جس وقت ملک شام کو فتح کیا ہے تو وزراء نے عرض کیا کہ یہ نصر انہیں کامل کے نیا منتوحہ ہے اس ملک کے لوگ نہایت سرکش اور سخت ہیں۔ اسلامی سیاست نرم ہیں اس لئے ضرورت ہے کہ علاوہ احکام اسلام کے اگر اور بھی کچھ تو انہیں اور قواعد نافذ کر دیئے جائیں ان پر قابو رکھنے کے لئے توزیادہ مناسب ہے۔

اس پر سلطان صلاح الدین نے جو جواب دیا ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہتے ہیں کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں نے جو ملک فتح کیا ہے وہ حکومت اور سلطنت کرنے کیلئے کیا ہے میں نے مخفی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کیلئے یہ سعی اور کوشش کی ہے احکام اسلام ہی کو نافذ کروں گا اس پر چاہے ملک رہے یا جائے میں ایک حکم کا بھی احکام اسلام کے خلاف نافذ نہ کروں گا اس واقعہ سے علماء اور لیڈر سبق حاصل کریں اور اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں۔ ان حضرات کی کامیابی کے یہ راز تھے اور یہاں یہ حالت ہے کہ نہ ابھی کوئی ملک قبضہ میں ہے نہ آئندہ ملنے کے بظاہر کوئی اسباب نظر آتے ہیں مگر شریعت مقدسہ کی قطع و برید پہلے ہی سے شروع کر دی انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

حضرت مولانا قدس سرہ کی حیات میں اپنے ملک پر آزادی سے عمل کرتا تھا۔ حضرت کی وفات کے بعد سے دیکھے بھال کر عمل کرتا ہوں وجد اس کی یہ ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ حضرت اختلاف کی حقیقت سے واقف ہیں حضرت کے قلب پر میرے اختلاف سے ذرہ برا بر بھی گرانی نہ تھی۔ پانی پت کے ایک مولوی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ مرض الموت میں دہلي حضرت کے پاس جب زیادہ اختلاف کی خبر میں پہنچیں تو یہ فرمایا کہ اختلاف تو اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ لا و میں تھی کچھ اپنی رایوں سے ہٹ جاؤں۔ حضرت کی نظر میں اختلاف کا یہ درجہ تھا۔ ایک مرتبہ تحریک خلافت کے زمانہ میں حضرت کی بینہ ک میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے میرے متعلق برے بھلے الفاظ

کہہ رہے تھے کچھ الفاظ حضرت کے کانوں میں پڑے باہر تشریف لے آئے بہت خفا ہوئے۔ اور یہ فرمایا کہ تم اس شخص کے باب میں یہ الفاظ کہہ رہے ہو جس کو میں ایسا ایسا سمجھتا ہوں مجھ کو وہ الفاظ بیان کرتے ہوئے بھی جا ب معلوم ہوتا ہے۔ جو حضرت نے فرمائے مگر چونکہ اب ذکر آگیا عرض کرتا ہوں وہ الفاظ یہ ہیں کہ جس کو میں اپنا بڑا سمجھتا ہوں۔ اور یہ فرمایا خبردار! جو آئندہ ایسے الفاظ کبھی استعمال کئے اور یہ فرمایا کہ میرے پاس کیا کوئی وجی آتی ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ سب ٹھیک ہے میری بھی ایک رائے ہے اُس کی بھی ایک رائے ہے۔

ایک مرتبہ حضرت نے یہ فرمایا کہ ہمیں تو اس پر بھی فخر ہے کہ جو شخص تمام ہندوستان سے بھی متاثر ہوا اور کسی کی بھی پرواہ نہ کی وہ بھی ہماری ہی جماعت سے ہے حضرت کی اقل کوتوبی چاہتا ہے لوگوں کا۔ مگر حضرت جیسا حوصلہ تو پیدا کرلو۔ فلاں مولوی صاحب تحریک خلافت میں بہت سرگرم تھے مسلک میں اختلاف تھا اور ہے مگر کبھی ذرہ برابر نہ ان کو مجھ سے انقباض ہوانہ مجھ کو ان سے۔

ایک مرتبہ دہلی سے یہاں پر آئے میں نے دریافت کیا کہ کیسے سفر کی صعوبت گوارا فرمائی، کہنے لگے کہ مجھ کو خلوت میں کچھ کہتا ہے میں نے کہا صاف بات ہے اور معاملہ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ تہائی میں میں کوئی بات نہ کروں گا کیونکہ اس میں آپ کی تو کوئی مصلحت نہیں اور میری مصلحت کے خلاف ہے اس لئے کہ آپ تو حکومت اور مشین گنوں، تو پوں اور فوجوں کے مقابلہ کیلئے تیار ہیں اور اس کا آپ اعلان کر چکے ہیں اور میں ابھی تیار نہیں ہوا۔ آپ کو تہائی اور غیر تہائی سب برابر ہیں آپ کیلئے کوئی نیا خطرہ نہیں اور میرے لئے خطرہ ہے کہ نہ معلوم چکے چکے کیا مشورہ ہو جو بات ہو جمع میں ہو۔ پھر یہ کہ آپ کو تردود ہے نہیں کیونکہ آپ اپنے مسلک کا اعلان کر چکے ہیں اور تردد کی حالت میں اعلان نہیں کیا جاتا تو گفتگو سے رفع تردود تو مقصود ہے نہیں صرف مجھ کو تبلیغ کرنا ہے سو میں نہایت خوشی سے سننے کو تیار ہوں مگر جب یہ تبلیغ ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ تقریر فرمائیں میں سنوں لیکن آپ کو یہ حق نہ ہو گا کہ آپ یہ دریافت فرمائیں کہ تو سمجھا یا نہیں۔

میں سمجھوں یا نہ سمجھوں آپ اپنا فرض منصبی ادا فرمائیں کیونکہ بیان کا فرض مناظر کے جواب پر موقوف نہیں اگر معقول تقریر ہوگی میں اپنے مسلک سے رجوع کرلوں گا اور اعلان کر دوں گا کہ پہلے میں غلطی پر تھا فلاں صاحب کے سمجھانے سے سمجھ میں آگیا اور اگر نہیں تو خاموش رہوں گا کچھ نہ کہوں گا اس پر مولوی صاحب راضی ہو گئے میں نے دو شخصوں سے کہا کہ پسل کاغذ لے کر بیٹھ جانا اور جو مولوی صاحب تقریر فرمائیں اس کو ضبط کر لیتا اس میں یہ مصلحت ہے کہ سب تقریر سننے سے دماغ میں رہ نہیں سکتی۔ ضبط ہونے پر میں اس میں اچھی طرح پر غور کر سکوں گا۔ اس سے مولوی صاحب پر ایک خاص اثر رکاوٹ کا ہوا۔ میں نے اس کا احساس کر کے کہا کہ ایک اور صورت اس سے بھی سہل سمجھ میں آئی اس میں تو پھر بھی ایک طول ہے یہ لوگ لکھیں گے پھر صاف کریں گے پھر آپ کے پاس نظر ثانی کرنے کو بھیجیں گے اور علاوہ طول کے اس میں وقت بھی زیادہ صرف ہوگا۔ سہل صورت یہ ہے کہ آپ دہلی والپس تشریف لے جائیں اور اطمینان سے کتابیں دیکھ کر اور علماء اور عقلاں سے مشورہ لیکر تحریری تبلیغ میرے پاس بھیج دیں اس میں ایک اور مصلحت بھی ہے کہ علاوہ اس کے فی البدیرہ تقریر میں تمام جزئیات کا احاطہ نہیں کر سکیں گے بعد میں افسوس ہوگا۔

بس مولوی صاحب اس پر راضی ہو گئے اور اس پر گفتگو ختم ہو گئی کتنی سال کی یہ بات ہو گئی وہ تبلیغ آج آرہی ہے یہ حالت تو اس تحریک میں پیشوا اور مفتادوں کے کام کرنے کی ہے عوام بے چارے تو بھلاکس شمار میں ہیں۔

۳۰ رمضان المبارک ۱۴۵۰ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم سہ شنبہ

ملفوظ ۱۱۸: ”سلسلہ عالیہ اشرفیہ“ کے لفظ سے کراہت

فرمایا! کہ ایک صاحب کا خط آیا تھا بخملہ اور مضاف میں کے یہ بھی لکھا تھا کہ مجھ کو بھی سلسلہ عالیہ اشرفیہ میں داخل فرمایا جائے۔ میں نے جواب میں لکھا تھا کہ اشرفی کے کیا معنی اس کا کوئی جواب نہیں کیا تھا کہا نہ ہے اس تحریک کا۔ پارٹی بن دیا ہو رہی ہیں دین میں بھی دنیا گھس رہی ہے۔

ملفوظ ۱۱۹: سورہ لیس کی فضیلت پر ایک شبہ کا جواب

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک مرتبہ جو شخص سورہ لیس شریف پڑھنے اس کو سات قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے فرمایا کہ سات نہیں دس کا ثواب ملتا ہے۔ عرض کیا کہ مجھ کو سات ہی یاد تھا مگر عرض کرنے سے غرض یہ ہے کہ ایک شخص نے تو صرف سورہ لیس شریف پڑھی اور ایک شخص نے دس قرآن شریف پڑھنے تو کیا اس کا اور اس کا ثواب برابر ہو گا جواب میں فرمایا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ (لیس شریف پڑھنے سے) اجر تو دس ہی قرآن شریف پڑھنے کا ملے گا مگر وہ انوار میسر نہ ہوں گے جو کامل دس قرآن پڑھنے سے ہونگے اور صاحب غیب کی کس کو خبر ہے انسان عند ظن عبدي بسی کیا کچھ عطا فرمادیں کوئی ان چیزوں میں ضابطہ تھوڑا ہی ہے۔

ملفوظ ۱۲۰: حدیث "العی من الايمان" کا مطلب کلام بضرورت ہونا چاہئے

ایک اہل علم کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا! کہ صحیح آپکے پرچہ کا جواب دے چکا ہوں اس کو زبانی بھی کچھ لججے گا حدیث میں عی فی البیان کے ایمان میں سے ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے اصل یہ ہے کہ مقصود کے بیان میں تور و اتنی ہوتی ہے اور غیر مقصود کے بیان میں انقباض مثلاً انسان کی اور طرف متوجہ ہونے کی حالت میں کلام کرتا ہے تو اس کے کلام میں روانی نہیں ہوتی بس اہل اللہ پر چونکہ خوف آخرت کا غلبہ ہوتا ہے اور ہر وقت اس کا دھیان رہتا ہے لہذا ان کے کلام میں ولیتگی ہوتی ہے خوف آخرت کے غلبہ سے بیان کی روانی جاتی رہتی ہے جیسے ضروری کلام میں جو کہ مقصود ہوتا ہے آدمی اشراط اور سلط سے بولتا ہے اور روانی ہوتی ہے اور غیر مقصود یا فضول کلام میں روک روک کر بستگی کے ساتھ بولتا ہے ایسے ہی غلبہ خوف آخرت سے بضرورت ہی بولتا ہے تو خواہ مخواہ اس کے عام کلاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے اور اس کی محسوس مثال یہ ہے کہ کسی ایسے شخص سے جسے زور کا پیشاب اگاہ ہو مٹاہے بالکر ریکی تقریر کرائی جائے تو ہرگز روانی

نہ ہوگی۔ غیر مقصود میں رواں کلام وہی کر سکتا ہے جس پر خوف آخرت کا غالب نہ ہو اسی کو کلام میں حظ ہو گا ایسے ہی کلام کی برائی کرنا مقصود ہے جو شخص حظ کیلئے کیا جاتا ہے کلام بضرورت ہونا چاہیے۔ اس میں حظ کا درجہ نہ ہونا چاہیے آدمی کو چاہیے کہ ضرورت کے درجہ تک کلام کو رکھے غیر ضروری کلام میں بڑے ہی انتقام ہیں مزاح کے طور پر فرمایا کہ مگر ایسا بھی نہ ہو کہ ضروری کلام میں بھی اختصار کرنے لگیں جیسے ایک شخص نے نماز کے اندر اختصار کیا تھا۔ وہ انقد کی نماز کہلاتی ہے یعنی الحمد کے شروع کا الف اور ختم کا نون۔ اور قل هو اللہ کے شروع کا قاف اور ختم کی دال یا انقد کی قراءۃ ہو گئی۔

اسی طرح ایک شخص نے خط میں مجھ کو لکھا تھا السلام عليکم الی آخرہ یہ اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی ضروری کلام میں بھی اختصار کرنے لگیں اور چپ شاہ بن کر بیٹھ جائیں آج کل اہل فہم دنیا میں بہت آباد ہیں (مراد غیر اہل فہم) جن کو عقل اور فہم دونوں کا ہیضہ ہے یا یوں کہنے کے قابل ہے۔

غرضیکہ دونوں حالت میں حد اعدالت سے دور رہتے ہیں اس لئے ہربات میں اس کا خیال رہتا ہے کہ اُسی نے سمجھ جائیں۔

اصول کے مطابق خدمت کرنا

ملفوظ ۱۲۱:

فرمایا! ایک صاحب کا خط آیا ہے میں نے ان کو بوجہ ان کی گز بڑ کے لکھ دیا تھا کہ سوائے استدعا دعا کے اور میری خیریت معلوم کرنے کے اور کوئی خطاب خط میں نہ کیا کرو۔ اس کے بعد کئی مرتبہ ان کے خطوط آئے ان اصول کے پابند رہے آج لکھا ہے کہ میرے لڑکے کی شادی ہے مجھے رسوم مروجہ کے متعلق مسائل دریافت کرتا ہیں۔ اطمینان تو حضرت ہی سے ہوتا مگر چونکہ اجازت نہیں اس لئے کسی ایسے عالم کا پتہ تحریر فرمادیں کہ جوان مسائل میں دل چھپی رکھتے ہوں۔ فرمایا نہایت ہی سلیقہ کی بات ہے جو طرز انہوں نے اختیار کیا اب مجھ پر یہ اثر ہوا کہ راستہ بتاؤں گا۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اصلاح الرسم دیکھنے کو لکھ دیا جائے فرمایا کہ میری تجویز اس سے بھی بہتر تجویز ہے یہ لکھ دیا ہے کہ یہاں کسی سے تعلق پیدا کرو ان کو تم لکھو اور

وہ مجھ سے مسائل پوچھ کر تم کو لکھ دیا کریں یہ ہل راستہ نکل آیا۔ اس میں براہ راست خط و کتابت بھی نہ ہوگی اور جوان کا مقصود ہے کہ میں ہی مسائل بتاؤں وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ مجھ کو خدمت سے انکار نہیں مگر چاہتا یہ ہوں کہ اصول سے کام ہو بے اصولی سے مجھے تکلیف ہوتی ہے ایک تو خدمت کرو اور اپر سے تکلیف انٹھاوا اور غلامی کرو مجھ سے تو یہ ہونیں ملتا۔ اس پر مجھ کو خخت کہتے ہیں۔ میں بحمد اللہ خخت نہیں ہوں یہ تو بہتان ہے۔

اب دیکھ لجئے! مشاہدہ ہے کہ ڈھنگ سے بات لکھی دیا ہی جواب دیا گیا۔

ملفوظ ۱۲۲: آج کل کی خوش اخلاقی

فرمایا! کہ مروج خوش اخلاقی کا میں ہمیشہ سے مخالف ہوں اس لئے کہ یہ تو خوش اخلاق اور نیک نام مشہور ہو جائیں گے مگر اعلیٰ دنادیب نہ ہونے سے یہ خوش خلقی دوسروں کے اخلاق تباہ اور بر باد ہونے کا ذریعہ اور سبب ہو جائیگی۔

مثال ہے تو فخش مگر ہے چپاں جیسے رندی ہڑی خلیق ہوتی ہے پان بھی کھلاتی ہے عشق بازی کی باتیں بھی کرتی ہے محبت کا بھی اظہار ہے ذرا ناز و انداز بھی ہے غرضیکہ دل بھانے کے سب ہی اسباب جمع کرتی ہے۔ اور ایک ہے گھرستن کہ رات دن خاوند سے لڑتی ہے سیدھے من بات نہیں کرتی ایک استغنا کی سی شان ہے۔ اب آپ ہی انصاف سے بتائیے کہ یہ رندی تو خلیق ہے اور گھرستن بد خلق ہے۔ مگر آپ ہی اندازہ فرماسکتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اور کون سی حالت محمود ہے۔ کون سی مذموم۔ ایسی مروج خوش اخلاقی کا جس میں دین کا ضرر ہو۔ اصل مشاء صرف یہ ہے کہ کہیں آنے والوں کا اعتقاد نہ جاتا رہے یہ ہم کو بدنام نہ کریں کیونکہ اگر ایسا ہوا تو آمدی نہ ہوگی۔ کوئی ہمارے پاس نہ آئے گا نہ رہو بدنام کریں گے کرنے والا آمدی نہ ہوگی مت ہو۔ کوئی پاس نہ آئے گا نہ آؤ۔ ہماری جوتی سے بلانے کون جاتا ہے مانگتا کون ہے حضرت ان ہی وجہ سے اہل علم کو اہل دنیا ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں مجھ کو تو غیرت آتی ہے اور نہایت ہی ذلت معلوم ہوتی ہے۔ اہل دنیا کے ساتھ اس طریق سے پیش آتے ہیں جس میں دین اور اہل دین کی

ذلت کا شہبھی ہو۔ عوام کی جو جرأت بڑھی ہے یہ اہل علم کی خوش اخلاقی ہی کی وجہ سے ہر چیز کے حدود ہیں خوش اخلاقی کی بھی کوئی حد ہونا چاہئے وہ حد یہ ہے کہ دین اور اہل دین کی ذلت نہ ہو اس درجہ تک خوش اخلاقی کا مفہوم نہیں اس سے آگے کا درجہ مذموم ہے۔ محمد اللہ ہمارے بزرگوں نے اس کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔

ملفوظ ۱۲۳: عورتوں کی عفت اور پرده کی فطری ضرورت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو عورتیں پھوڑ ہوتی ہیں وہ عفیف ضرور ہوتی ہیں اور اس طرف کی عورتیں عفت میں تو حوریں ہیں۔ بعض تو ایسی ہیں کہ آج تک کسی اجنبی کی صورت بھی نہیں دیکھی اور حوروں ہی کی شان میں قرآن پاک میں تھی وارد ہے فیہ مَنْ فُصِّرَاتُ الطَّرْفِ نیز عورتوں کے فضائل میں ہے الفافلات المومنات۔ معلوم ہوا کہ خارجیات سے بے خبری اصل وضع ہے عورتوں کی۔ او گویہاں پر مراوغفلت عن الفواحش ہے مطلق بے خبری مراد نہیں مگر غفلت عن الفواحش مردوں میں بھی تو مقصود ہے لیکن باوجود اس کے عورتوں کی مدح میں تو اس کو لائے مردوں کیلئے تو یہ نہیں فرمایا۔

اس سے صاف معلوم ہوا کہ مطلق بے خبری بھی عورتوں کے زیادہ مناسب ہے اب تالاق کہتے ہیں کہ پرده توڑ کر بے پرده ہو جاؤ اور ترقی کرو ان کے یہاں کسی چیز کی کوئی حد ہی نہیں۔ عجب گو بردماغوں میں بھرا ہے میرا دل تو گواہی دیتا ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ کبھی ان لائقوں کو کامیابی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دین کی امداد کریں گے۔ جس سے ان اطراف کی عورتیں ہرگز قبول نہیں کریں گی۔

میں نے ایک بار اسی مسئلہ کی گفتگو کے سلسلہ میں ایک مجھ میں کہا تھا کہ پرده کے مسئلہ میں قرآن و حدیث کو نقچ میں لانے کی ضرورت ہی کیا ہے جبکہ قرآن و حدیث کے بغیر ہی اس کی ضرورت ثابت ہو سکتی ہے اس کے متعلق میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کبھی ان لوگوں نے ریل میں سفر کیا ہوگا۔ اور نوٹ بھی ہمراہ لئے ہوں گے کبھی ایسا بھی کیا ہے کہ نوٹ جیب سے نکال کر باہر کھدیجے ہوں یا یہ کیا جاتا ہے کہ اندر کی جیب کے بھی جواندرا جیب ہے اس میں رکھے ہوں گے تو کیا اس طرح

نوٹ کو چھپا کر کھنے کا حکم قرآن میں ہے۔ بھض اسی واسطے مخفی رکھا جاتا ہے کہ انہمار میں خطرہ ہے اسی طرح یہاں بھی یہ طبعی امر ہے کہ ایسے ہی خطرہ کے سبب اس کا پوشیدہ کرنا ضروری ہوگا۔ نیز مزید برآں غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عورت کو پردہ میں رکھا جائے یہ بھی ایک طبعی امر ہے جو علاوہ حکم شرعی کے مقتضی ہے وジョب اخفاء کو۔ بلکہ جو خطرہ یہاں نوٹ کو نکال کر سامنے رکھنے میں ہے اس سے زائد خطرہ عورت کو باہر نکالنے میں ہے۔ نوٹ تو دو چار ہزار کے ہی ہوں گے تو ان کی تو آپ کے دل میں ایسی قدر اور عورت کی اتنی بھی آپ کے نزدیک قدرتہ ہونے والے چب رہ گئے کچھ نہیں بولے۔

ملفوظ ۱۲۳: اپنے خط کی اصلاح بھی دین میں داخل ہے

فرمایا! ایک خط آیا ہے شکستہ میں ایسا لکھا ہے کہ اس کا پڑھنا ہی مشکل ہے اور بندہ خدا نے پتہ بھی اسی طرح لکھا ہے ڈاک خانہ والوں کو بھی پریشانی ہوئی ہوگی۔ مضمون تو اس میں بہت کچھ لکھا ہے مگر خط کا مضمون اس سے شروع ہوا ہے کہ میں نفس کی اصلاح چاہتا ہوں۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ نفس کی اصلاح سے پہلے ضرورت ہے آپ کو اصلاح خط کی جو موقوف علیہ ہے اصلاح نفس کا اگر شبہ ہو تو اتفاقہ کا پتہ دیکھو اک ڈاک خانہ والے کس قدر پریشان ہوئے ہوں گے۔ پس بڑی اصلاح یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف سے بچائے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔

ملفوظ ۱۲۵: بالشویک پارٹی

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بالشویک نے ایک انجمن قائم کی ہے اس کا نام رکھا ہے عدو اللہ اس میں پچیس ہزار کے قریب مختلف اطراف کے لوگ شریک ہیں جو اس انجمن کے مقاصد کو ملک میں پھیلانے کی کوشش و سعی میں معروف ہیں مجملہ اور مقاصد کے ایک یہ امر بھی انجمن کے مقاصد سے ہے کہ عورتوں کو پردہ نہ کرنے دینا چاہئے اور لڑکوں کو مثل لڑکوں کے بنایا جا رہا ہے رفتار گفتار لباس طرز انداز سب لڑکوں کے سے ہوں اور ان کو فوج میں بھرتی کیا جا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کو کھانے کو کون دیتا ہے وہ جواب میں کہتے ہیں

کہ خدا دیتا ہے اس پر کہتے ہیں کہ یوں کہو کہ حکومت دیتی ہے اگر اس پر بچے پھر بھی یہ نہ کہیں تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ ایسے بچے مسلمانوں ہی کے ہوتے ہیں کہ وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ خدا دیتا ہے۔

یہ واقعہ سن کر حضرت والا پر ایک خاص اثر ہوا اور بے حد رنج اور صدمہ و افسوس کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ کیا نہ کاتا ہے، مردودوں کا، فرعون سے بھی بدتر ہو گئے خدا نگارت کرے۔ صاحبو! لوگ سوراچ سوراچ لئے پھرتے ہیں اگر خدا نخواستہ مل گیا تو اسحام ہندوستان میں اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے یہی ہو گا جو بالشویک کی حالت ظلم اور سرکشی کی سننے میں آرہی ہے اور یہاں پر جو یہ جماعت ہے جو کانگریس کے نام سے مشہور ہے یہ بھی سب وہی بالشویک خیال کی پارٹی ہے اور یہ سب اسلام کے مقابلہ پر سازش ہے انگریزوں پر بہت دانت تیز کے جاتے اور ہندوستان میں بالشویکوں کے آنے کی تمناظا ہر کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کا بھی یہی حشر ہوا فسوس تو بعض علماء پر ہے کہ وہ بھی ان باتوں کو نہیں سمجھتے مجھ کو تو بحمد اللہ ان ابواب میں کھلی آنکھوں حق و باطل نظر آ رہا ہے۔

ملفوظ ۱۲۶: اور اک حق کی مختلف صورتیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ حق تعالیٰ بھی بڑے ہی حکیم ہیں کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں اگر حق تعالیٰ کا اور اک سب کو ایک ہی صورت میں ہو جائے تو شہر ہو سکتا ہے کہ شاید وکیوں لیا ہو گا کسی کو کسی صورت میں اور اک ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا۔

ملفوظ ۱۲۷: سادگی اور تصنیع

فرمایا! کہ سادگی بھی عجیب برکت کی چیز ہے ایسے شخص کو بہت سی کلفتوں سے نجات ہو جاتی ہے تصنیع کا اہتمام ہزاروں کلفتوں کو خریدتا ہے۔ ایک دکایت یاد آئی ایک بزرگ تھے کہ نہایت سادہ ان کا خط نہایت درجہ خراب تھا۔ اتفاق سے بازار سے گزر رہے تھے کہ کسی کی دکان پر ان سے بھی زیادہ بڑے خط کی ایک کتاب نظر سے گذری بڑی قیمت دیکر اس کو خریدا اس لئے کہ

لوگ دیکھیں گے کہ دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ خراب لکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ گھر پر لے جا کر مطالعہ کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بھی میری ہی لکھنی ہوئی ہے ابتدائے عمر کی۔

فرمایا کہ کیسی سادگی کی بات ہے کہ اس کو بھی ظاہر کرو یا۔ اگر ظاہرنہ فرماتے تو کسی کو کیا خبر ہوتی تفہن تو بڑوں میں ہوتا ہی نہیں۔ منصع بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو ہم بڑے ہی ہیں۔ اور واقع میں ان کی کسی طرح بھی اہانت و بکلی نہیں ہوتی۔ بلکہ اور کمال پر محمول کیا جاتا ہے چھوٹا بے چارہ سمجھتا ہے لے دے کر ایک دو چیز پاس ہے اگر اس میں بھی نقش نکل آیا تو ہی کہی بھی جانے گی۔

ملفوظ ۱۲۸: ایک بزرگ خود عالم شخص کا حال

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ مجھ میں کوئی بھی قابلیت نہ تھی دوسروں سے مضمون لکھوایا کرتا تھا کسی علم میں بھی اس کو مہارت نہ تھی نہ فارسی میں نہ عربی میں۔ اس پر عربی دانی کا دعویٰ کرتا تھا اس کی کتابیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بے سر و پایا تینیں بانکتا ہے۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ اس کی عربی دانی کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں جیسے دو بی بی انجمن سے حج کو گئیں تھیں۔ اتفاق سے ان میں سے ایک کا بچہ گم ہو گیا وہ بدودی سے کہتی تھی کہ بچہ گم ہو گیا اس کو ڈھونڈو۔ بدودی اردو سمجھنا نہ تھا یہ اپنی زبان میں کہتی تھیں وہ سمجھنا نہ تھا اس پر آپس میں لڑائی ہوتے گی تو دوسری بی بی بولیں کہ تو ہٹ! میں سمجھاؤں گی تجھے عربی بولنی نہیں آتی۔ یہ بی بی بدودی سے کہتی ہیں ”شیخ حدا بی بی کا پوت نہیں آیا“، یہ ہی حالت اس شخص کی عربی دانی کی تھی۔ نہایت بدفهم اور کم عقل تھا۔ اس کی وجہ سے بڑی ہی گراہی کا باب مغلوق ہوا خود تو گراہ ہوا ہی تھا اور وہ کوئی پچانس گیا لوگوں کی حالت بھی عجیب ہے کہ کوئی کیسا ہی ہو بلیک کہہ کر ساتھ ہو لیتے ہیں۔ پیشین گویاں کثرت سے جھوٹی ہوئیں فلاں مولوی صاحب سے شکست کھانی مگر بے حیائی کا کیا علاج ایسی موٹی موٹی باتوں کے بعد بھی لوگ معتقد ہیں۔

ملفوظ ۱۲۹: غیر محقق پیر کے مریدوں کی اصلاح میں مشکل ہوتی ہے

فرمایا! کہ ایک خط آیا ہے متحملہ اور باتوں کے یہ بھی لکھا ہے کہ میری یہ حالت ہے کہ

بعض دوست بے مہار مجھ کو جہاں چاہتے ہیں لے جاتے ہیں مرا دنماشہ وغیرہ میں لے جانا ہے۔ بوجہ تعلقات کے انکار مشکل ہوتا ہے جس سے میری حالت اور بھی خراب ہوتی جاتی ہے۔ بطور مزاح فرمایا کہ تو کیا پیر جی ان کو مہار سنجھاں کر کھڑے ہوا کریں۔ اطلاع سے یہ ہی مطلب ہوا۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایسے شخص کو کچھ دنوں یہاں پر رہنے کی ضرورت ہے فرمایا کہ اگر خالی الذہن ہو کر یعنی سب رایوں کو فتا کر کے رہیں تو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ خود رائے شخص اتباع نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بزرگ سے مرید ہیں ان کا شاید اب انتقال ہو چکا ہے جو لوگ پہلے کسی غیر محقق سے تعلق رکھ چکتے ہیں اور پھر کسی کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کا ٹھیک ہونا اکثر دشوار ہوتا ہے۔

یہ تجربہ کی بات ہے کوئی بہت ہی فہیم اور سلیم طبیعت کا آدمی ہو تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے ورنہ اکثر ناکامیابی ہوتی ہے اور اپنے بزرگوں کے متعلقین میں یہ مانع نہیں وجبہ اس کی یہ ہے کہ مذاق ایک ہے بہت جلد مناسبت ہو جاتی ہے۔

ملفوظ ۱۳۰: اپنے بچے کو عربی پڑھاؤں یا انگریزی؟

فرمایا! کہ ایک صاحب نے خط کے ذریعہ مشورہ چاہا ہے کہ میں اپنے بڑے کو انگریزی پڑھاؤں یا عربی۔ میں نے جواب میں لکھ دیا کہ اپنی ہمت دیکھو! فرمایا کہ اس لکھنے میں مصلحت یہ ہے کہ میں کیوں اپنے اوپر احسان کرواؤں یہ کہنے کو۔ کہ فلاں کے کہنے سے انگریزی نہیں پڑھائی اپنے دین کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ آخر یہ کون سی پوچھنے کی بات تھی جس وجہ سے مجھ سے مشورہ کر رہے ہیں۔ وہ خود ان کو محسوس ہو سکتا ہے پھر مشورہ کے کیا معنی سوانے احسان رکھنے کے۔ مجھے تو بڑی غیرت آتی ہے ایسی باتوں سے جنت میں تو جائیں گے خود اور احسان ملاؤں پر۔ عجیب مذاق ہے۔

ملفوظ ۱۳۱: مدارس کے طلباء پر ایک صاحب کے اعتراض کا جواب

فرمایا! ایک صاحب کا خط آیا ہے چند سوالات لکھے ہیں جن کا نہ سر نہ پیر۔ اخیر میں سب کے لکھنے ہیں کیا حکم ہے یا انگریزی خواہی ہے میں نے لکھ دیا ہے

کہ کس قسم کا حکم۔ اس پر ان انگریزی دانوں کو دعویٰ ہے تہذیب اور قابلیت کا۔

اسی سلسلہ میں فرمایا ایک صاحب تھے انگریزی دان ریاضی میں مشہور و معروف مطلع مجتبائی دہلی میں ان سے ملاقات ہوئی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے مدارس کے طلبہ میں کچھ قابلیت بھی ہوتی ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ اس قابلیت کی پہلی تعین فرمادیجھے تاکہ میں یہ معلوم کر سکوں کہ اس قسم کی قابلیت کا سوال ہے کہ یہ بجائے خود مدعی بننے کے مجھ کو مدعی بنانا ہے جو مناظرہ کا ایک عیق داؤ ہے پرانے گھاٹ تھے کچھ عربی کا بھی علم تھا مجھ گئے پھر نہیں بولے۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ پھر حضرت بھی کچھ نہیں بولے؟ فرمایا کہ میں اور کیا بولتا پہلا ہی اوہ حاران پر تھا وہ جب ادا کرتے تب دیکھتا کہ کھوٹا ہے یا کھرا۔

۱۳۵۰ رمضان المبارک میں مجلس خاص بوقت صبح یوم چہارشنبہ

ملفوظ ۱۳۲: سب سے بڑا مجاہدہ کامل کے سامنے مٹا ہے

فرمایا! کہ سلف میں مشائخ بڑے بڑے مجاہدے اور ریاضتیں مریدین سے کراتے کتابوں میں دیکھنے سے حیرت ہوتی ہے اس وقت قوی لوگوں کے اچھے تھے عمریں بھی بڑی ہوتی تھیں اب نہ قوی ہیں اور نہ عمر۔ جو بات اس زمانہ میں معتد بِ مجاہدات کے بعد حاصل ہوتی تھی یعنی قوت بہیمیہ کا کمزور ہو جانا وہ آجکل بلا مجاہدات کے حاصل ہے مگر یہ سن کر کوئی خوش فہم صاحب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ واقع میں مجاہدہ کی ضرورت نہیں ضرورت ہے مگر اسی درجہ کی جس درجہ کی قوت بہیمیہ ہے اور بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ کسی کامل کے سامنے اپنے کو پاماں کر دے مولا نافرما تے ہیں۔

قال را بگزار مرد حال شو ☆ پیش مرد کاٹے پاماں شو

(قال کو چھوڑ۔ مرد حال ہو جا۔ اور کسی کامل کے سامنے فتا ہو جا)

اور فرماتے ہیں —

صحت ایں حس بجوئید از طبیب ☆ صحت آں حس بجوئید از حبیب

صحت ایں حس نعمتوں ترن ☆ صحت آں حس زخیر بدن

﴿بدن کی صحت تو طبیب سے حاصل کرو اور باطن کی صحت محبوب (مرشد) سے حاصل کرو۔ صحت ظاہری تو بدن کو بنانے سنوارنے میں ہے اور باطن کی صحت بدن کی تخریب میں ہے یہ مثال سے سمجھو لیجئے جیسے قلعہ کی دیوار کے نیچے خزانہ بدفون ہے اگر دیوار نہ گرانے گا خزانے سے محروم رہیگا۔ اور اگر گردیگا تو اس قدر خزانہ نکلے گا کہ منہدم شدہ دیوار بھی تیار ہو جائیگی اور ساری عمر کیلئے خرچ کو کافی ہو گا۔ ایسا ہی اس تن کو فنا کرتا ہے اور فنا کے بعد جو اس کو بقاء ہو گی وہ ایسی ہو گی جس کو اس شعر میں فرمایا گیا ہے۔

خود کہ یابدایں چیس بازار را ☆ کہ بیک گل سے خری گلزار را

﴿ایسے بازار کوون حاصل کر سکتا ہے کہ جہاں ایک پھول کے بدلہ میں پورا گلزار خریدا جاتا ہے یہ۔

ملفوظ ۱۳۳: بیہاں نہ انگریزی کی پالیسی ہے نہ فارسی کی پالیسی

کسی خود رائے کی کسی درخواست کے جواب میں اس درخواست کی منظوری کا خاص طریقہ بتایا تھا وہ اس کوٹانا سمجھے۔ اس واقعہ کو بیان کر کے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جب میں نے انکار نہیں کیا بلکہ اس کا اہتمام کیا اور طریقہ بتایا پھر اس کو عذر کہنا ٹالنا سمجھنا کذب و بہتان ہے میں ان کے مقصود کی تکمیل کو تیار تھا مگر اس کا قاعدہ بیان کیا تھا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جس طرح ہم اقتض جنم کر لائے ہیں دوسرا ذرا اس کے خلاف نہ کرے۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ ہماری غلامی کرو جو ہم کہیں اسکے خلاف مت کرو کیا یہ کام لینے کا طریقہ ہے یہ تو اچھی خاصی حکومت کرتا ہے میں چھوٹا ہوں یا بڑا مگر بے اصول معاملہ تو چھوٹوں کے ساتھ بھی برا ہے بھی نہیں کہ چھوٹے ایسی بات نہ کریں جس سے بڑوں کو رنج ہو بلکہ بڑوں کو بھی ایسی کوئی بات نہ کرنا چاہئے جس سے چھوٹوں کو تکلیف پہنچے۔ شریعت میں تو (آدمی تو بڑی چیز ہے اور وہ بھی مسلمان) جانوروں اور کافروں کے حقوق کی بھی تعلیم ہے اس کا آجکل قطعاً خیال نہیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اپنی غرض اپنا کام ہر شخص پورا کرنا چاہتا ہے دوسرے کا چاہے کچھ ہی حشر ہو اور خواہ وہ بات اصول اور

قاعدہ کے خلاف ہی ہو مگر اپنا چاہا ہو جائے اور وہ بھی اس طرح جس طرح ہم چاہتے ہیں آخر کیا ایسی بات سے رنج نہ ہو گا تکلیف نہ پہنچے گی۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کی خاطر صحیح اصول اور قواعد کو چھوڑ دوں بہت سے تجربوں کے بعد اور بہت سی تکالیف انھا انھا کرتے یہ اصول اور قواعد مرتب کئے ہیں۔ نیز جب کسی کی رعایت کی بناء پر کوئی قاعدہ چھوڑتا ہوں وہی تکلیف پہنچتی ہے پھر ان کو کیسے چھوڑ دوں۔

اب چاہے کوئی خوش رہے یا ناراض میری جوئی سے۔ اور یہ قواعد میری ہی راحت کیلئے نہیں دوسروں کی راحت بھی اسی میں ہے اگر قلت فہم کی وجہ سے کسی کی بھجھ میں نہ آوے۔ اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں اور میں کیوں اس کا اتباع کروں میری کون سی غرض انکی ہوئی ہے مجھ کو ایسی حرکات سے سخت رنج اور صدمہ ہوتا ہے پھر اور پر سے ان حرکتوں کو چھپاتے ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کسی کی چوری کر لی اس خیال سے کہ اس کو خبر نہ ہو گی یا عدول حکمی کی کہ اس کو خبر نہ ہو گی یا جیسے باپ پر فانج کا اثر ہو گیا اور اس کے چار پانچ لکڑی مار دیں اس نے کہ اثر تو ہو گا ہی نہیں۔ میں جو بدنام ہوں کہ سخت ہوں یہ ہیں وہ تعلیمات جن کوختی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب بتائیے اس میں نے کیا بخشی کی اور انہوں نے کون سی نرمی کی۔ دو رہنمائیں بیٹھے لوگ فیصلے دیتے ہیں۔ ذرا واقعات کو یہاں بیٹھ کر دیکھیں۔ تب میں ان سے مشورہ لوں کہ ایسے موقع پر مجھ کو کیا کرنا چاہئے تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ بات صاف ہو تھیں نہ ہونہ مجھ کو دھوکہ ہونہ دوسرے کو ہو۔ میں ایک منٹ ایک سینڈ کیلئے بھی کسی مسلمان مرد عورت پر بوز ہے یا جوان کو حتیٰ کہ کسی کافر کو بھی دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا۔ میرے یہاں جو بات ہے صاف ہے نہ اس میں تھیں ہوتی ہے نہ پالیسی انگریزی کی اور نہ پالیسی فارسی کی۔ یہی میں دوسروں سے چاہتا ہوں کہ وہ بھی مجھ سے کسی قسم کا اونچ نیچ۔ یا پالیسی کا بر تاؤ نہ کریں جو ایسا کرتا ہے مجھ کو ناگوار ہوتا ہے میں اس پر موافق نہ کرتا ہوں نیچے اس کا بدنامی ہے لیکن ہوا کرے بدنامی۔ میں کسی کو بلانے کب جاتا ہوں اگر میں بد خلق ہوں تا آئیں میرے پاس، خوش اخلاقوں کے پاس جائیں یہ خوب بات نکالی کہ حرکتیں تو اپنی اور سر میرے تھوپیں جائیں۔ دنیا سے فہم تو اٹھ ہی گیا اناللہ وانا الیه راجعون۔

ملفوظ ۱۳۴: اکثر مشائخین کے مقریں کا حال

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ مشائخ کے یہاں جو مقریں بصیرت اسم مفعول ہوتے ہیں ان میں ایک دو مقریں بصیرت اسم فاعل بھی ہوتے ہیں ہر وقت شیخ کو اور دوسرے متعلقین کو کرب میں رکھتے ہیں جو ہجۃ الحجۃ لگاتے رہتے ہیں جس سے چاہا شیخ کو ناراض کر دیا جس سے چاہا راضی کر دیا۔ محمد اللہ تبارے بزرگ اس سے صاف ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کسی کی شکایت سنتے ہی نہ تھے۔ جہاں کسی نے کسی کی شکایت کی۔ فوراً منع فرمادیا کرتے تھے کہ خاموش رہو۔ میں سننا نہیں چاہتا اس کے بعد کسی کی ہمت ہی شکایت کی نہ ہوتی تھی۔ اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب سن کر فرمادیتے تھے کہ تم نے جو کچھ بیان کیا اور فلاں شخص کی شکایت کی سب غلط میں جانتا ہوں اس شخص کو وہ ایسا نہیں ایک صاحب نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارہ میں کیا معمول تھا۔ فرمایا کہ ایک صاحب نے حضرت سے سوال کیا تھا کہ آپ سے لوگ دوسروں کی شکایت بیان کرتے ہیں آپ پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہ میں یہ سمجھ لیتا ہوں دونوں میں رنجش ہے مگر سن لیتے تھے سب۔

ملفوظ ۱۳۵: حضرت حاجی صاحبؒ کے انتقال پر حضرت گنگوہیؓ کی حالت

فرمایا! کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایک جنت پیدا کی تھی ان کو اگر جنت اللہ فی الارض کہا جائے تو کوئی مضاائقہ نہ ہوگا جس وقت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر ملی ہے کئی روز تک حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو دست آتے رہے اس قدر صدمہ اور رنج ہوا تھا۔ بظاہر یہ معلوم نہ تھا کہ اس قدر محبت حضرت کے ساتھ ہوگی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی نسبت بار بار رحمۃ للعالمین فرماتے تھے۔ ایک صاحب نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کتابوں میں بھی آپ کا نام ہے (کسی عبارت میں ایسا جملہ تھا کہ یادداں اللہ ایسا ہوا) فرمایا کہ اگر کوئی ہم سے اعراض کرے کم بختنی نہ آجائے۔ حضرت والانہ جسہ تھا شے خاص لباس تھا۔ دیکھنے سے تھا نہ بچوں

کے ایک شیخ زادے معلوم ہوتے تھے مگر اہل بصیرت کی نظر میں ایک شان تھی۔

ملفوظ ۱۳۷: قرآن مجید کو بوسہ دینا

سوال: حضرت! قرآن شریف ہاتھ میں لے کر اس کو بوسہ دینا اور پیشانی سے لگانا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: فرمایا کیا حرج ہے عرض کیا کہ ایسا کرنے کو بہت ہی بھی چاہتا ہے فرمایا کہ بھی چاہنے کی تو چیز ہے ہی اور تقبیل کو تو فقہاء نے بھی جائز کہا ہے۔

ملفوظ ۱۳۸: آیت ولد العزة و لرسوله و للهُمَّ مِنْ

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وللہ العزة و لرسوله و للهُمَّ مِنْ سے کہاں کی عزت مراد ہے اور کیا اس کا مفہوم سابقین ہی پختم ہو گیا۔ فرمایا کہ مناطق اصل ہے عزت تو مسلمان ہی کو حاصل ہے اور وہ عزت آخرت کی ہے اسلئے کہ یہاں پر تو خلاف کا وقوع بھی ہوتا رہتا ہے جس عزت کو حق تعالیٰ فرمار ہے یہ وہ عزت آخرت ہی کی ہے کہ وہاں کمال عزت کا درجہ مسلمانوں ہی کو عطا فرمایا جائے گا اور کفار کو انتہائی ذلت کا سامنا ہو گا۔

ملفوظ ۱۳۸: سب بزرگوں کی جو تیوں کا صدقہ ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جو چیز بیان فرماتے ہیں ماشاء اللہ بے غبار ہوتی ہے نہ اس پر کوئی شبہ وارد ہوتا ہے اور نہ شک رہتا ہے۔ فرمایا کہ میرا کوئی کمال نہیں مجھ کو تو کچھ یاد بھی نہیں۔ یہ سب اپنے بزرگوں کی جو تیوں کا صدقہ اور حق تعالیٰ کا فضل ہے اور آپ کا حسن ظن۔

ملفوظ ۱۳۹: خانقاہ تھانہ بھون اور حضرت حاجی صاحب کی اشتست

مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت حاجی صاحب اسی جگہ بیٹھتے تھے جس جگہ حضرت بیٹھتے ہیں فرمایا کہ نہ معلوم ہے کہ اور نہ کبھی تحقیق کی۔ اتنا ضرور معلوم ہے کہ بیٹھنے کی جگہ یہی سہ دری ہے۔ اس سہ دری کے متعلق مختلف اجزاء مختلف لوگوں سے سے مجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ یہاں پر پہلے یہ سہ دری نہ تھی بلکہ اسکے بعد تھا اس میں کچھ درخت تھے ایک درویش تھے۔

حسن شاہ تاجی انبوں نے یہاں پر قیام کر لیا تھا درویش تو وہ ایسے ہی تھے سماں وغیرہ کا بہت شوق تھا۔ مگر جب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر آنا شروع کیا تو حسن شاہ یہاں سے اٹھ کر شاہ ولایت صاحب میں چلے گئے۔ حضرت نے کبھی اس کے متعلق کچھ نہیں فرمایا۔ یہ یعنی ان کا ادب تھا کہ بدلوں حضرت کے فرمائے ہوئے چل دیے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نرے کو رے ہی نہ تھے۔ پہلے تو یہ لوگ کبھی اللہ اللہ کرنے والے تھے۔ اسکا یہ اثر ہوتا تھا اور اب تو کثرت سے فاسق فاجر نفس پرست ہونے لگے ہیں۔ دین کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں نہ علم کا ادب نہ اہل علم کا ادب، نہ شریعت مقدسہ کا قلب میں احترام، بالکل آزاد، نہ خدا کے نہ رسول کے جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں پہلے درویش علم اور اہل علم اور شریعت مقدسہ کا احترام کرتے تھے۔

گویا ظاہر بعض حدود سے متجاوز ہوتے تھے مگر ان کے باطن میں شریعت کا ادب و وقت و عظمت و احترام ہوتا تھا۔ اب تو نہ معلوم کیا ان لوگوں پر بلانازل ہوئی ہے قطعاً حس نہیں ان کی حرکات سن کر فسوں ہوتا ہے جھوٹے جھوٹے مسائل جھوٹی جھوٹی روایتیں گھڑ رکھی ہیں خود بھی ان گراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گراہ کرتے ہیں۔ عوام بھی ایسے ہی مکاروں کے معتقد ہو جاتے ہیں۔ جتنا جس کو خلاف شریعت دیکھتے ہیں اتنا ہی کامل سمجھتے ہیں ان کے یہاں بزرگی کے لوازم میں سے ہے کہ خلاف شریعت ہو۔ نہ نماز ہونہ روزہ چاروں ابرو کا صفائیا ہو۔ انگوٹا بندھا ہو وہ درویش ہے۔ صوفی ہے کامل ہے ولی ہے قطب ہے، غوث ہے۔ لاحول ولا قوہ الا باللہ۔ مولا نا ایسیں ہی کے بارے میں فرماتے ہیں ۔

کارشیطان میکنی نامت ولی ☆ گروی این سنت لعنت بروی

﴿تو کام شیطان کے کرتا ہے اور نام تیراولی ہے۔ اگر ولی یہی ہے تب (تو) ولی پراعنت ہے (مطلوب یہ ہے کہ ایسے کو ولی کہنا بھی عظیم غلطی ہے ۱۲)﴾۔

غرضیکہ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ حسن شاہ خود ہی اس مسجد کو چھوڑ کر شاہ ولایت میں چلے گئے۔ اس کے بعد یہ سہ دری تیار ہوئی اس کا بھی عجیب واقعہ ہے یہاں ایک خاندان تھا ان کے پاس کچھ زمین تھی وہ شاہی زمانہ سے معافی میں تھی اگر یہ زمین نے اس پر مال گزاری لگادی۔ اس پر

ان لوگوں نے مقدمہ لڑایا اس میں بھی ناکام رہے تو ہائیکورٹ میں اپیل کی۔ حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا نہ بجون تشریف لایا کرتے تھے ان سے دعا کیلئے عرض کیا کہ حضرت! دعا فرمائیں۔ یہ مقدمہ اپیل میں ہمارے حق میں کامیاب ہو جائے فرمایا کہ ہمارے حاجی کو بیٹھنے کی تکلیف ہے یہاں پر ایک سہ دری بنوادو ہم دعا کریں گے عرض کیا کہ بہت اچھا! حضرت نے دعا فرمادی اور وکیل نے اطلاع دی کہ کامیابی ہو گی یعنی مالکہ اری معاف ہو گئی۔ ان لوگوں نے حضرت میاں جی صاحب کو بھی خبر کی حضرت نے فرمایا وعدہ بھی یاد ہے اب ان لوگوں کو خیال ہوا کہ دعا تو کرہی چکے۔ عرض کیا کہ حضرت پورے معارف کا تحمل نہیں جو کچھ اس سہ دری میں صرف ہو گا اس کا نصف صرف ہم لوگوں کے ذمہ ہے فرمایا بہت اچھا نصف ہی کہی بڑے خوش ہونے کے آدھے میں کام بن گیا پھر جو باقاعدہ اطلاع آئی تو وہ یہ تھی کہ سائل کی حیثیت تک معاف اور پھر ضبط! بڑے لکھ رائے اور پھر حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ہوا۔ فرمایا تم نے ہی تو کہا تھا کہ نصف میں نے بھی نصف منظور کر لیا کام بھی نصف ہی ہو گیا۔ عرض کیا کہ حضرت ہم پوری سہ دری بنوادیں گے۔ فرمایا جاؤ اب کیا ہوتا ہے۔ اس صورت سے یہ سہ دری تیار ہوئی فرمایا کہ عذر کے زمانہ میں اس سہ دری میں بھی آگ لگادی گئی تھی۔ اس جگہ کا در اور کواڑ پر اب تک جلے ہوئے کا اثر ہے۔ یہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ ہی کے ہیں لوگوں نے مجھ سے کہا بھی کہ ان کو بھی نکلوادو۔ میں نے کہا کہ نہ بھائی اس کو میں نہ نکلوادوں گا۔ اور یہ اس خیال سے کہ ان کو حضرت کا ہاتھ بھی لگا ہو گا بھی بھی جگہ میں آتے جاتے میرا خود بھی سر لگ جاتا ہے۔ ہاں چھت اس جگہ کی بالکل ہی جل چکی تھی۔ اس کو بدلوادیا گیا اور تینی کڑیاں ڈلوادیں۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ جس جگہ بزرگ رہتے ہیں اس جگہ میں ایک خاص برکت اور نور ہوتا ہے فرمایا میں نے خود حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سنائے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جائے بزرگاں بجائے بزرگاں۔ واقعی برکت ضرور ہوتی ہے فرمایا کہ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب صحیح کو تشریف لے گئے تھے ان کی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتا تھا تو زیادہ انوار و برکات محسوس ہوتے تھے اور جگہ میں یہ بات نصیب نہیں ہوتی یہ تو مشاہدہ ہے۔

ملفوظ ۱۲۰: استغناً اور کبر میں فرق معلوم کرنے کا آسان طریقہ

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کسی کو خیال تو یہ ہو کہ میں مستغنا ہوں اور واقع میں اس میں کبر ہواں کا کیا علاج ہے۔ فرمایا اس کے کئی طرق ہیں۔ معلوم کرنے کے اپنے مرتبی سے حالت بیان کر کے حل کر لے۔ یہ با تکمیل بیان کرنے سے سمجھ میں آنہیں سکتیں واقعات جزئیے سے مصلح خود سمجھ لے گا۔

۱۳۵ رمضان المبارک ۱۴۳۵ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم چہارشنبہ

ملفوظ ۱۲۱: اہل کمال کا استغناً اور سر سید کے دو واقعے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ بڑا شخص دین کا ہو یاد نیا کا۔ اس میں استغنا ضرور ہوتا ہے۔ مراد یہاں پر اہل کمال ہیں اہل مال نہیں اہل کمال کا حوصلہ بھی بڑا ہوتا ہے سر سید کا ایک واقعہ عجیب و غریب ہے ایک شخص انگریزی تعلیم یافتہ ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے پریشان تھے کیا سوچتی کہ ایک بہت بڑے افسر انگریز کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں سر سید کا داماد ہوں مجھ کو ملازمت کی ضرورت ہے۔ وہ انگریز بہت ہی خاطر سے پیش آیا اور کہا کہ آپ تھہریں ان کو تھہرا کر ان کی لاعلمی میں ایک تار سر سید کو دیا کہ فلاں شخص اس نام کا ہمارے پاس ملازمت کے خیال سے آیا ہے اور اپنے کو آپ کا داماد کہتا ہے کیا یہ واقعہ صحیح ہے جواب میں سر سید نے اس انگریز کو لکھا کہ بالکل صحیح ہے ضرور آپ ملازمت کی کوشش فرماؤ۔ میں منون ہوں گا اس شخص کو ملازمت مل گئی۔

ایک روز اتفاقاً اس انگریز نے اس شخص سے یہ واقعہ بیان کر دیا یہ بہت ہی شرمند ہوا۔

اور کچھ عرصہ کے بعد یہ شخص علی گڑھ آیا اور سر سید سے مل کر معافی کی درخواست کی۔ اور کہا کہ میں وہی شخص ہوں جس نے اپنے کو آپ کا داماد بتا کر ملازمت لی ہے یہ گستاخی ہوئی۔ گویہ گستاخی بضرورت تھی سر سید نے جواب میں کہا کہ گویہ بات اس وقت غلط تھی مگر اب صحیح ہو جائے گی۔ داماد کہتے ہیں بیٹی کے شوہر کو۔ اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ میری بیٹی آپ کی بیوی ہوتی سو یہ تو ہو

نہیں سکتا۔ مگر دوسری صورت ممکن ہے کہ آپ کی بیوی کو میں اپنی بیٹی بنالوں۔ سو میں آپ کی بیوی کو اپنی بیٹی بتاتا ہوں وہ میری بیٹی اور میں اس کا باپ۔ پھر یہ توجیہ و قتی ہی نہ تھی۔ بلکہ تازندگی باپ بیٹی اور داماد، ہی کا سا برتاؤ رکھا بلاتائیں اور یہاں سب اسی طرح رکھا تو یہ حوصلہ بڑے ہونے کے سبب تھا۔ گو وہ بڑائی دینیوں ہی تھی۔

یہ حکایت سن کر ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے یہ حکایت سن ہے یا لکھی دیکھی ہے فرمایا سننا اور لکھی ہوئی دیکھنا اس میں فرق ہی کیا ہوا اس لئے کہ وہ لکھی ہوئی بھی تو کوئی سن کر بھی لکھتا۔ دوسری ایک حکایت انہیں کی یاد آئی کہ ایک مرتبہ علی گڑھ کے اشیش پر ریل میں سریڈ سوار ہوئے اسی ڈیہ میں ایک اور صاحب پہلے سے سوار تھے انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون سا شہر ہے سریڈ بولے کہ علی گڑھ یہ سن کروہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ وہی علی گڑھ جہاں سریڈ (ایسا تیسا) رہتا ہے سریڈ کہتے ہیں کہ جی ہاں! وہی علی گڑھ وہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو بڑا ہی ایسا ہے ویسا ہے خوب برا بھلا کہا اس نے بڑا ہی دین کو نقصان پہنچایا سریڈ نے کہا جی ہاں! وہ ایسا ہے۔ یہ صاحب اور زیادہ کھلے اور کئی اشیش تک تبرا کرتے چلے گئے۔ سریڈ کو ذرہ برابر تغیر نہیں ہوا۔ تقدیق کرتے رہے۔ آخر ایک اشیش پر ان تبرا کرنے والے صاحب نے کھانا کھانے کے لئے نکلا جب کھانے بیٹھے تو ان کی بھی تواضع کی۔ سریڈ نے جواب دیا کہ آپ کھائیں انہوں نے کہا کہ مصنوعی تواضع نہیں۔ آجائیے! سریڈ نے پھر تلا انسوں نے پھر اصرار کیا کہ میری دل ٹکنی ہوگی۔ سریڈ نے کہا کہ مجھ کو کچھ عذر ہے انکا اس پر بھی اصرار ہوا سریڈ نے پھر کہا کہ واقعی مجھ کو عذر ہے انہوں نے کہا کہ وہ عذر کیا ہے۔ بتائیے! سریڈ نے کہا کہ بتلانے کا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بتلانا ہو گا سریڈ نے کہا کہ اگر بتلا دوں تو اس وقت تو آپ کھانا کھلانے پر مصروف ہیں اور معلوم ہو جانے کے بعد تو شاید میری صورت دیکھنا بھی گوارانہ کریں گے۔

انہوں نے کہا کہ توبہ توبہ ایسی کیا بات ہے اور آپ کیوں ایسا فرماتے ہیں۔ تب سریڈ نے کہا کہ میں ہی ہوں وہ شخص جس پر آپ کئی اشیشوں سے تبرا بھیجتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سن کروہ

صاحب کٹ ہی تو گئے بے حد ندامت اور شرمندگی سوار ہوئی۔ معانی چاہی نتیجہ یہ ہوا کہ معتقد ہو گئے۔ باوجود اس کے کہ سرید ایک دنیادار شخص تھے مگر استغنا اور حوصلہ تھا۔ مگر آجکل اہل کمال تقریباً متفقونظر آتے ہیں نہ دنیاداروں میں نہ دینداروں میں۔ الاما شاء اللہ! عالم بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، عارف بھی ہیں، زبد و قوی کا بھی دعویٰ ہے یہ تو سب کچھ ہے مگر استغنا اور حوصلہ نہیں ہے۔

ملفوظ ۱۳۲: کام پر درکرنے سے پہلے الہیت کی تحقیق

ایک مولوی صاحب نے ایک مدرسہ کے ارکان اور منتظمین کی کچھ انتظامی کوتا ہیاں بیان کر کے حضرت والا سے مشورہ چاہا اور بعض خاص صورتیں پیش کر کے حکم شرعی دریافت کیا اس پر حضرت مولانا نے فرمایا کہ یہ انتخاب کی غلطی ہے قاعدہ یہ ہے کہ جس کے جو کام پر درکیا جائے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ اس کام کی ذمہ داری کا اہل ہے یا نہیں یہ تو بے چارہ مدرسہ ہے بعض سلطنتیں اس غلطی انتخاب کی بدلت تباہ و بر باد ہیں یہ جو کچھ آجکل ارکان سلطنت کو پریشانیاں ہو رہی ہیں اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر احکام اہل نہیں وہ اپنے فرائض منصبی کو محسوس نہیں کرتے اور اگر بعض کرتے بھی ہوں تو اس کے انجام وہی میں غفلت سے کام لیتے ہیں۔

غرضیکہ سب ان خرابیوں کا انحطاط انتخاب ہے۔ رہا حکم شرعی کے متعلق وہ یہ ہے کہ کتابوں میں مسئلہ دیکھ لیا جائے مجھ کو تو ان تحقیقات سے زیادہ مناسبت نہیں آپ حضرات مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں۔

ملفوظ ۱۳۳: حضرت پر تہمت اور حضرت کے چند مواعظ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ ایک صاحب مجھ سے حکایت بیان کرتے تھے کہ کاشھیاواڑ میرے متعلق بعض عنایت فرماؤں نے یہ مشہور کر کھا ہے کہ فلاں شخص حضور ﷺ پر ایمان لانے کو منع کرتا ہے۔ یہ سن کر میں براخوش ہوا کہ تہمت بھی لگائی تو ایسی جس کو کوئی قبول ہی نہیں کر سکتا فرمایا کہ میرے چند مواعظ ہیں جن کے یہ نام ہیں۔ النور، النظہور، السرور، الچور،

الشذور۔ ان رسائل کو دیکھ کر کسی سمجھدار اور فہیم شخص کو یہ شبہ ہی نہیں رہ سکتا کہ میں حضور اقدس ﷺ کی کوئی بے ادبی یا کسی قسم کی نعوذ باللہ تدقیق کر سکتا ہوں۔ السرور میں عید میلاد النبی پر پوری بحث کی ہے۔ اور انظہروں میں عجیب بات ہے کہ مثنوی شریف سے آپ کے فضائل کو ثابت کیا ہے جس کا تعلق دیکھنے سے ہے باقی میں دعویٰ نہیں کرتا۔ قلیل العلم اور ضعیف الرائے کی رائے اور تحقیق ہی کیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے فضل کو ظاہر کرتا ہوں۔

ملفوظ ۱۲۴: صاحب حال پر عمل کرنے سے روکنا

فرمایا! کہ میں کسی صاحب حال شخص کو اس کے حال کے اقتضا پر عمل کرنے سے خواہ وہ حال ناقص ہی کیوں نہ ہو نہیں روکتا۔ اگر صاحب حال خود چاہے تو اس کی اصلاح یا تعديل کر دیتا ہوں ورنہ اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اور اس حال کی قدر کرتا ہوں اور قدر کرنی چاہئے بھی۔ اگر چیخنے کو جی چاہئے خوب چیخنے کو جی چاہئے خوب نہیں جو حال وارد ہواں کو اس وقت روکنا نہیں چاہیے۔

ملفوظ ۱۲۵: مریدی نجات کیلئے کافی نہیں

فرمایا! کہ ایک خط آیا ہے لکھا ہے کہ حضرت اپنے خدام میں داخل فرماں شاید اس ناکارہ کی نجات ہو جائے۔ میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ اگر دوسرا جانب کی شاید واقع ہو جائے تو کیا کرو گے (مقصود طریق کام کی تعلیم ہے کہ نجات کو خادم بننے پر متفرع کرنا مخدوش ہے)۔

ملفوظ ۱۲۶: ایک ہندوکوروک ٹوک کا فائدہ

ایک ہندو گندہ اہونانے کی غرض سے حاضر ہواں کی بعض بد عنوانیوں پر حضرت والا نے روک ٹوک فرمائی۔ اس پر ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو ہندو ہے اور ہے بھی جاہل تو ایسے لوگوں کی روک ٹوک سے کیا فائدہ! اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا اور حضرت کو روک ٹوک کی کلفت بر تھی فرمایا جماد اللہ مجھے کوئی کلفت نہیں ہوتی بلکہ ایک حظ ہوتا ہے کہ ان کی فلسفی پر منبہ کیا گیا اور فائدہ سے خالی نہیں۔

وہ فائدہ یہ ہے کہ دوسری جگہ ایسی حرکت نہ کریں گے اور دوسرے کو تکلیف نہ دینے گے ایک بات یہ ہے کہ اصول پر عمل کرنے سے حظ ہوتا ہے اور بے اصولی سبب ہوتی ہے کلفت کا۔ سو میں وقاریہ ہو گیا مسلمانوں کا خصوص اپنی بڑی جماعت کا۔ عرض کیا کہ حضرت یہ معلوم ہوا کہ رحم بھی اپنے محل ہی پر کرنا چاہئے۔ بطور مزاح فرمایا کہ جی ہاں! رحم اپنے محل میں ہواں میں بھی حظ ہوتا ہے۔

ملفوظ ۱۲۷: ”کیا میں جاسکتا ہوں؟“ کا محاورہ

ایک سلمانہ گفتگو میں فرمایا! کہ میرے یہاں تو ایک یہ بھی مستقل تعلیم ہے کہ بات صاف کہو جیسے آج کل بولتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا بہل بات ہے۔ یہاں پر ایک صاحب مہماں تھے دوسرے مہماں کو اشیش پہنچانے کے لئے جاتا چاہا تو جانے کے وقت مجھ سے کہنے لگے کہ کیا میں اشیش جاسکتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں جاسکتے خدا نے پیر دیے چلنے کو۔ آنکھیں دیں دیکھنے کو۔ قوت ارادیہ دی ارادہ کرنے کو۔ اس لئے آپ جاسکتے ہیں۔ یہ خرافات ہیں اور یہ عیسائیوں سے لیا ہے ان میں کوئی نیا محاورہ نہیں قدیم عیسائیوں نے کہا تھا۔

حضرت علیہ السلام سے۔ *هَلْ يُسْتَطِعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ*۔ عیسائیوں سے مسلمانوں نے بھی یہ محاورہ کیا کہ لیا ہے بر امعلوم ہوتا ہے۔

ملفوظ ۱۲۸: اقتضاۓ طبعی کی وجہ سے عمل صالح کا صدور باعث ثواب ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر کوئی عمل نیک اقتضاۓ طبعی کی وجہ سے صادر ہو گیا وہ بھی موجب اجر ہو گا۔ فرمایا کہ جن اعمال کے ہم مکلف ہیں سب امور طبعیہ ہی کے مقتضایں مگر طبیعت سلیم ہو اب چاہے وہ عمل اقتضاۓ طبعی کی وجہ سے ہوا جر ہو گا البتہ نیت واختیار شرط ہے۔

ملفوظ ۱۲۹: بعض جگہ سکوت بھی عبادت ہے

فرمایا! کہ ہر جگہ ذکر ہی عبادت نہیں بلکہ بعض جگہ سکوت بھی عبادت ہے اس وقت میں اس کی دلیل کیلئے ایک حدیث پیش کرتا ہوں حدیث شریف میں آیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت

کے وقت جب اس درجہ استعجام (جب پڑھنے میں گز بڑھنے لگے۔ ۱۲) ہو جائے کہ کچھ کا پتہ نہ لئے گئے اس وقت حکم ہے کہ سکوت اختیار کرو اس سے بعض اوقات سکوت کا ماموریہ ہوتا اور ماموریہ ہونے کے سبب عبادت ہونا ثابت ہو گیا۔

ملفوظ ۱۵۰: حضرتؐ کے یہاں دوسرے کے احوال باطنہ کی رعایت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں فقیہ نہیں، محدث نہیں، مجتهد نہیں، مفسر نہیں ہاں ان حضرات کا نقش ہوں جن کو ان چیزوں میں کمال تھا۔ اللہ کا شکر ہے جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے اپنے بزرگوں کی دعا سے اس کے متعلق ضروری علم حق تعالیٰ قلب میں وارد کر دیتے ہیں یہ میرا کمال نہیں جس پر میں فخر کر سکوں یا سننے والا اندر سے تعمیر کر لے۔ بلکہ واقعہ ہے پھر اسی سلسلے میں احوال باطنہ کی رعایت کے متعلق فرمایا کہ میں یہاں تک وقت کا خیال رکھتا ہوں کہ اگر کسی پر کوئی حال وارد ہو۔ میں اس میں مزاحمت نہیں کرتا۔

مکہ معظمه کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب بیت اللہ کی طرف دیکھ کر مجھ سے ایک ایسی بات کہنے لگے کہ بظاہر قابل تکیر تھی۔ میں اس وقت موافقت تو کرنے سکتا تھا مگر مخالفت یا زجر بھی نہیں کیا۔ اور مخالفت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ان کی حالت دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ حالت کا غایب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور چروہا ہے کا قصہ یاد آگیا اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس چروہا سے جو مزاحمت کی تھی۔ آپ نے غایت غلبہ انتظامِ حمیت دین سے اس وقت اس طرف توجہ نہیں فرمائی کہ مغلوب ہے اور عتل اور علم سے مسلوب ہے۔ مولانا رومیؒ اسی واقعہ کو اس طرح فرماتے ہیں ۔

ایں نمط بیہودہ میگفت آں شبان ☆ گفت موسیٰ باکیست ای فلاں
 گفت با آں کس کہ مارا آفرید ☆ این زمین وچخ از وآمد پدید
 گفت موسیٰ ہائے خیرہ سرشدی ☆ خود مسلمان ناشدہ کافرشدی
 ایں چہ کفرست این چہڑا اڑست و فشار ☆ پہنہ اندر دہان خود فشار

(وہ چرداہا اسی طرح بیہودہ باتیں کہہ رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص تو یہ کس کو کہہ رہا ہے چرداہے نے کہا کہ اس ذات کو جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ زمین و آسمان اسی (کے پیدا کرنے) سے ظاہر ہوئے ہیں موسیٰ نے فرمایا کہ ارے تو توبہ ہو گیا اور کافر ہو گیا۔ یہ کیا کفر اور بیہودہ اور فضول باتیں ہیں زبان بند کر۔ ۱۲)

یہ شکر اس کے بدن میں سنانا نکل گیا اور یہ کہا۔

گفت اے موسیٰ دہنم دوختی ☆ وز پیشمانی توجانم سوختی

(چردابے نے کہا کہ اے موسیٰ (علیہ السلام) تم نے میری زبانی دی اور پیشمانی کی وجہ سے میری جان جلا دی۔ ۱۲)

وابا سے موسیٰ کو اشاد ہوا

وچی آمد سوئے موسیٰ از خدا ☆ بندہ مارا چرا کر دی جدا

تو برائے وصل کر دن آمدی ☆ نے برائے فصل کر دن آمدی

(موسیٰ علیہ السلام کی طرف حق تعالیٰ کی طرف سے وچی آئی کہ ہمارے بندہ کو (جو بوجہ مغلوب الحال ہو نیکے اس حالت میں بھی ہمارا مقرب تھا) ہم سے جدا کیوں کر دیا آپ تو ہمارے وصل (کی تعلیم) کیلئے آئے ہیں نہ کہ جدائی ڈالنے کیلئے۔ ۱۲)

ملفوظ ۱۵۱: ”بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا“ کا مطلب

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ذرا اس کا مطلب بیان فرمادیں اس کا مطلب کیا ہے۔

صحبت نیکاں اگر یک ساعت است ☆ بہتر از صد سالہ زہر طاعت است

(نیکوں کی صحبت اگر یک ساعت کیلئے میسر ہو جائے تو سو سالہ زہر طاعت سے (جو بغیرہ بہر کامل کے ہو) بہتر ہے۔)

فرمایا مجھ سے تو آپ ہی بہتر سمجھنے والے ہیں مگر میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کامل کی

صحبت میں بعض اوقات کوئی گرہا تھا آجاتا ہے یا کوئی حالت ایسی قلب میں پیدا ہو جاتی ہے جو ساری عمر کے لئے مشتاق سعادت بن چاتی ہے یہ کافی نہیں بلکہ بہمہد ہے ہر وقت یا ہر ساعت مرا دیہیں۔ بلکہ وہی وقت اور وہی ساعت مرا وہ ہے جس میں ایسی حالت پیدا ہو جائے عرض کیا تو کیا ہر صحبت اس وجہ مفید نہ ہوگی۔ فرمایا کہ یہ تو یہی مگر کس کو علم ہے کہ وہ کون ساعت ہے جس میں یہ حالت میسر ہوگی۔ ہر صحبت میں اس کا اختال ہے اسلئے ہر صحبت کا اہتمام چاہئے۔ اس سے ہر صحبت کا مفید اور نافع ہونا ظاہر ہے اور اس حالت کو صد سالہ طاعت کے قائم مقام بتلانے کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ اگر کسی شخص کے پاس سوگنی ہوں تو بظاہر تو اس کے پاس امتحنہ میں سے ایک چیز بھی نہیں مگر اگر ذرا تعقیل کی نظر سے دیکھا جائے تو ہر چیز اس کے قبضہ میں ہے اسی طرح اگر وہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہوگئی تو بظاہر تو خاص طاعات میں سے کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں مگر حکما ہر چیز ہے پس مراد اعمال پر قدرت ہوتا ہے اسی سے سب کام اس کے بن جائیں گے اور اصل چیز وہی کام ہے جن کی یہ مشتاق صحبت میں نصیب ہوگئی اگر وہ اعمال نہ کئے تو نری مشتاق کس مصرف کی۔

اسی لئے یہ کہتا ہوں کہ بدول اعمال نہ کچھ اعتبار ہے اقوال کا نہ احوال کا نہ کیفیات کا۔

اس ہی لئے ان چیزوں میں سے کسی چیز میں بھی حظ نہ ہوتا چاہئے اگر اعتبار کے قابل کوئی چیز ہے وہ اعمال ہیں اور اعمال یا توفیق حق کے مشکل اور توفیق عادۃ سوقوف ہے صحبت کامل پر اسی کو مولا فرماتے ہیں۔

قال راجنگدار مرد حال شو ☆ پیش روے کامل شو

حضرت کی نظر ملقوط ۱۵۲:

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شیطان بھی آپ کا بڑا ہی دشمن ہے جس قدر تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے دشمنی ہوگی اتنی اکیلے حضرت سے ہے کیونکہ حضرت اسے مکرو فریب سے اللہ کی مخلوق کو آگاہ فرماتے رہتے ہیں وہ اس پر جلتا بھختا ہو گا فرمایا کہ ممکن ہے جس ساتھ ہی وہ مجھ کو لفظ بھی بہت پہنچاتا ہے اس طرح سے کہ وہ لوگوں کو بہکاتا ہے وہ مجھ کو نا حق گالیا دیتے ہیں اس پر صیر کرتا ہوں اللہ میرے گناہ معاف فرماتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔

ملفوظ ۱۵۳:

یہ طریق بہت ہی نازک ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ یہ طریق بہت ہی نازک ہے کسی محقق کی صحبت سے کچھ بھی میں آجائے تو آجائے ورنہ کتابوں سے پورا بھی میں نہیں آ سکتا اور نہ کام چل سکتا ہے جیسے طب کی کتابیں پڑھ کر بدول ماہر فن کی صحبت میں رہے ہوئے مطب نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا شخص کسی مريض پر ہاتھ ڈالے گا اس مريض کی خیر نہیں۔

اسی طرح مريض روحانی کی بھی خیر نہیں نہ معلوم ناقص کی تعلیم سے کیا اٹ پلت تدابیر اختیار کر لے اور جائے ففع کے مضرت میں پھنس جائے اور کامل کی معرفت کیلئے ضرورت ہے کسی کامل کی شہادت کی۔ آجکل تو جہلاء مشائخ بنے ہوئے ہیں اس جہل کی بدولت طریق کو بدنام کر دیا۔ حق تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائیں۔

ملفوظ ۱۵۴:

اس طریق میں قیل و قال سے کام نہیں چلتا

ایک مولوی صاحب کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس طریق میں قیل و قال سے کام نہیں چلتا گو معلوم ہو جاتا کسی علم کا اچھا ہے مگر وہ کیفیات کہاں جو اس راستے کو طے کر کے منزل پر پہنچنے سے مشاہد ہوتی ہے۔

مثلاً ایک شخص تو سفر کر کے بسمی دیکھ کر آیا اور ایک آئے ہوئے سے وہاں کے حالات دریافت کرتا ہے دونوں میں زین آسمان کا فرق ہے۔ اس کا صحیح طریق یہ ہے کہ وہاں پر پہنچ جانے کی کوشش کرے جس کیلئے راستہ بتلانے والے کی ضرورت ہوگی مگر جو اس راستے کے بتلانے والے ہیں ان کا یہ ادب ضروری ہے کہ ان سے ان کو کلفت نہ پہنچے یہ اس طریق میں بڑی ہی ضرر چیز ہے۔ کیونکہ مدعايان محبت سے ذرا سی بھی کوتا ہی ہو وہ گوارا نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک فطری چیز ہے اس کا اثر ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ عقیدت اس قدر مطلوب نہیں، عظمت اس قدر مطلوب نہیں جس قدر محبت کی ضرورت ہے اور یہ ہی زیادہ مطلوب ہے۔

گو عقیدت جو حدود کے درجہ میں ہو وہ بھی ایک درجہ میں مطلوب ہے مگر بڑی چیز جو ہے وہ محبت ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر محبت ہوگی تو سب چیزوں کی فکر ہوگی کہ کوئی بات مجھ سے ایسی نہ ہو جائے جو سب بن جائے تکلیف کا اور یہ بہت ہی اہل چیز ہے جس کو اس درجہ سخت بجھ رکھا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا قصد رکھنے اہتمام رکھنے پھر انشاء اللہ ایسا کوئی کام نہ ہوگا جس سے تکلیف پہنچے اور اگر باوجود اس قصد اور اہتمام کے پھر بھی ہو جائے تو اس کی اتنی گرانی نہ ہوگی اسلئے کہ جہاں وہ اس کو محسوس کرتا ہے یہ بھی محسوس کریگا کہ قصد نہ تھا اور اس کے خلاف کا اہتمام بھی تھا مگر انسان ہے ہو گیا یہ سمجھ کروہ معدود سمجھنے گا اور اس سے قلب پر گرانی نہ ہوگی۔

پھر فرمایا کہ بے فکری پر جوشیوں غتاب کرتے ہیں یہ طریقہ چھوٹوں کے ساتھ بھسلحت اصلاح کے اختیار کیا جاتا ہے ورنہ خدا نہ است قلب میں تحریر ہوڑا ہی ہوتی ہے کس کو علم ہے کہ کون چھوٹا ہے اور کون بڑا۔ بلکہ جس طرح چھوٹوں کو ضرورت ہے بڑوں کی۔ اسی طرح بڑوں کو ضرورت ہے چھوٹوں کی۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بڑوں کو چھوٹوں کی کیا ضرورت؟ فرمایا ضرورت یہ ہے کہ کبھی چھوٹوں کو وہ بات نصیب ہو جاتی ہے کہ بڑوں کو بھی وہ بات خواب میں نہ آئی ہوگی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ بڑے بڑے ہی نہ رہتے کیونکہ ان کے نفس کی یہ حالات ہو جاتی جس کو موالا نافرما تے ہیں۔

نفس از بس مدحہا فرعون شد ☆ کن ذلیل النفس ہونالا تسد
 (نفس زیادہ تعریقوں کی وجہ سے فرعون ہو گیا ہے، کبھی بھی اس کو ذلیل بھی کر لیا کرو)
 اب یہ بڑے بھی ہر وقت اپنے اعمال کے محاسبہ میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہماری ضرورت چھوٹوں کو ہے۔ اسی طرح ہمیں ضرورت ان کی ہے بھلا جس کا یہ خیال ہے وہ چھوٹوں کی تحریر یا ذلیل کسی وقت میں بھی کر سکتا ہے۔

ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں آنے والوں کے

ملفوظ ۱۵۳: ذکر میں زبان کی طرف توجہ

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ کیا ذکر کے وقت قلب ہی کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے اگر بھی زبان کی طرف توجہ ہو جائے مضر تو نہیں فرمایا کہ کچھ تو توجہ زبان کی طرف بھی ضرور ہوگی مضرت کچھ نہیں لایکل夫 اللہ نفسا الا وسعا اور یہ غیر اختیاری ہے جس کا یہ مکلف نہیں۔

ملفوظ ۱۵۴: اشغال کچھ نہیں اصل اعمال ہیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ تو اشغال ہیں اور اشغال میری نظر و میں کچھ بھی نہیں اصل چیز تو اعمال ہیں انکے اہتمام کی ضرورت ہے۔

ملفوظ ۱۵۶: بزرگوں کی زندہ دلی اور آجکل کا وقار

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے سب بزرگ زندہ دل تھے آپ میں ایک دوسرے سے مزاج بھی فرماتے تھے اور یہ متنانت متعارفہ دلیل کبری ہے اور علامت ہے روح کے مردہ ہونے کی اور نفس کے زندہ ہونے کی اور خوش مزاجی دلیل ہے انکار کی۔ اور علامت ہے روح کے زندہ ہونے کی اور نفس مردہ ہونے کی۔

ایک شخص یہاں پر تھے وہ ذی علم بھی تھے مجھ سے ایک روز فرمایا کہ آپ کی فلاں فلاں بات وقار کے خلاف ہے۔ میں نے کہا میں تو پوچھتا ہوں کہ حضور ﷺ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو دوڑے تھے کیا یہ وقار کے خلاف ہے اگر نہیں تو آپ نے کبھی اس سنت پر عمل کیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑے ہوں اور میں نے بحمدہ اللہ اس سنت پر عمل کیا۔ فرمایا کہ ایک ضروری بات یاد آئی حضور کے دوڑے میں شبہ ہوتا تھا کہ مکان اس قدر وسیع کہاں تھا جس میں حضور ﷺ دوڑے مگر اب مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ سفر کی حالت میں تھا۔ حضور ﷺ ایک میدان میں حضرت عائشہؓ کے ساتھ پرده کرا کر دوڑے تھے پھر ان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا چہ رہ گئے میاں متنانت اور وقار کو لئے پھرتے ہیں۔

۵ رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم پنجشنبہ

منظیم کا طریقہ

ملفوظ ۱۵۷:

ایک مولوی صاحب نے ایک تحریر پیش کر کے حضرت والا سے مشورہ چاہا حضرت والا نے ملاحظہ فرمایا کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عوام اور خواص سب کسی ایک کے مبتowع بنانے پر متحد اور متفق ہو کر اس کام کو کریں تو تنظیم ہو سکتی ہے۔ متفق کام کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عرض کیا کہ مبتowع کی تعین کیلئے قرعداً لیا جائے۔ فرمایا اسی پر راضی ہو جائیں کہ قرعداً میں جس کام آجائے گا اس کو مان لیں گے۔ دارتومنان لینے پر ہے اس کے بعد مدد اپر سب ہو سکتی ہیں۔ عرض کیا امید ہے کہ مان تو لیں گے فرمایا کہ جب یہ امید ہے تو آپ ہی اس کی ابتداء فرمائیں اور بھی شریک ہو جائیں گے۔ قبل اس کے کہ کام شروع ہو شریک ہونا نہ ہو نا برابر ہے۔

ملفوظ ۱۵۸: فضول علمی تحقیق اور عمل سے غفلت

فرمایا! کہ بعض اہل علم بھی آجکل بہت زائد فضولیات میں وقت بے کار کھوتے ہیں ضروریات سے غفلت ہے علمی تحقیقات بھی وہ کرتے ہیں جن کی تحقیقات سے کوئی نتیجہ نہیں آدی کو ضروری کاموں میں لوگ جانتا چاہئے اور سب میں ضروری کام آخرت کی فکر ہے اگر ساری عمر بھی غیر ضروری چیزوں کو پتہ نہ لگے تو وہاں پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں محاصرہ نہیں۔ ہاں یہ پوچھا جائیگا کہ کچھ کیا بھی یا نہیں۔

ایسی تحقیقات صرف علماء کا ایک مشغله ہے اور اس مشغله کی حقیقت اس سے زائد نہیں جیسے مرتع کی تحقیق میں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور ہم اس کو فضول خیال کرتے ہیں اس میں اور اس میں فرق ہی کیا ہے حضرت جس کو جو کچھ عطا ہوا ہے وہ عمل ہی کی بدولت تو ساری عمر اسی ادھیزہ بن میں لگا رہنا چاہیے کسی وقت بھی عمل سے بے فکر نہ ہونا چاہئے وہاں ان تحقیقات کو پوچھتا کون ہے ان تحقیقات پر ایک مثال یاد آئی۔ بالکل ایسی ہی مثال ہے جیسے طالب علموں کے کورس میں اقلیدس

جس کی حقیقت سب جانتے ہیں کہ بعضوں کو عمر بھر بھی اس سے کام نہیں پڑتا۔ پس اگر ساری عمر بھی اس علم کو حاصل نہ کرے اور ایک شکل بھی اقلیدس کی نہ معلوم ہو ورج کیا ہے۔

اس اقلیدس کی شکل پر بحث میں ایک حکایت یاد آگئی۔ ماموں امداد علی صاحب رڑکی میں تھے بارش ہوئی کچھر ہو رہی تھی۔ ایک صاحب چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے جلدی جلدی چل رہے تھے ماموں صاحب بڑے ظریف تھے کہا کہ میاں سنپھل کر چلو کبھی گرنہ جاؤ۔ جواب میں کہتے ہیں کہ میں اقلیدس کے قاعدہ پر چلتا ہوں گر نہیں سکتا۔ اتفاق سے پیر پھل گیا اگر گئے۔ ماموں صاحب فرماتے ہیں کہ کیوں حضرت کون سی شکل بنی۔

رڑکی ہی کا ایک اور قصہ۔ ماموں صاحب کا یاد آیا۔ دو دو اعاظ میں اتفاقی بات کہ دونوں موٹے تھے۔ اور پیٹ دونوں کے بڑے بڑے تھے۔ ملاقات کے وقت معافانہ کرنے لگے تو سینہ سے بینہ مشکل سے ملا۔ ماموں صاحب کیا فرماتے ہیں مولا نایہ تو معافانہ ہوا مباطنہ ہو گیا یعنی پیٹ سے پیٹ مل گیا۔

فرمایا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تحقیقات میں کچھ نہیں رکھا ضرورت عمل کی ہے چاہے وہ گھٹیا ہی درج کا ہو جیسے روٹی اچھی پکی ہوئی ہو۔ سنکی ہوئی اچھی ہو۔ چاہے وہ چھوٹی سی نکلیا ہی ہوا سے کام چل جاتا ہے۔

ملفوظ ۱۵۹: نماز بلا حضور بھی بڑی دولت ہے

فرمایا! کہ لوگوں کے قلوب میں اعمال کی قدر نہیں کسی غالی درویش نے نماز کی نسبت حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ حضرت جب دل متوجہ نہ ہو تو اس اٹھک بینھک سے کیا نتیجہ۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ کیسے گتا خ ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ رحم فرمائیں کیسی جرأت کی بات ہے ایسے لوگوں کے دل میں خشیت کا نام نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اسی اٹھک بینھک کی قیمت وہاں معلوم ہو گی کہ کس درجہ کی چیز ہے۔ فرمایا کہ یہی سب کچھ ہے اگر حق تعالیٰ اسی کی توفیق عطا فرمائیں اور بلا حضور قلب ہی اٹھک بینھک ہو جایا کرے بڑی دولت ہے۔

ملفوظ ۱۶۰: شیخ سے اپنی چیز استعمال کروا کے متبرک کرنا

ایک مولوی صاحب نے اپنی تسبیح حضرت والا کے سامنے پیش کر کے عرض کیا کہ حضرت اس پر پڑھ دیجئے گا برکت کیلئے اور ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کیا کہ یہ بہت ہی سهل طریق ہے تبرک بنانے کا، فرمایا کہ واقعی بہت اچھی تدبیر ہے یہاں تو نہیں۔ مگر عرب میں یہی طریقہ دیکھا ہے کہ شیخ سے اپنی چیز استعمال کرا کر اس کو تبرک بنالیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہندوستانی لوگ جو حج کو جاتے تھے تبرک مانگنے تھے حضرت کی یہ حالت تھی کسی کو تہبین دا اور کسی کو کرتہ اور کسی کو نوپی دے رہے ہیں۔ آخر کہاں تک کوئی انتہا نہ تھی بعض اوقات اس تقسیم کی بدولت حضرت کے پاس کپڑے نہ رہتے تھے عرب کا طریقہ نہایت ہی پسندیدہ ہے کہ اپنی چیز کو تبرک بنالیا جائے۔

ملفوظ ۱۶۱: حضرت حاجی صاحبؒ کی شان عبدیت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انکسار اور شان عبدیت کا کیا تھا کانہ۔ فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ کی ستاری ہے کہ میرے عیوب کو اہل نظر سے چھپا رکھا ہے یہ باعثیں کہنے سے سمجھ میں نہیں آتیں مگر کہنا پڑتی ہیں جن پر یہ باعثیں گزرتی ہیں وہی خوب جانتے ہیں یہاں قال سے کام نہیں چلتا یہاں ذوق کی ضرورت ہے اس انکسار کی۔

ایک مثال عرض کرتا ہوں ایک چمار کے پاس باوشاہ نے ایک لاکھ روپیہ کا موتی امامت رکھ کر فرمایا کہ اس کو حفاظت سے رکھا وہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہذا امتن ہے اور ایسا سمجھنا ایک معنی کرٹھیک بھی ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو ایسی قیمتی چیز اس کے کیسے پر دکی جاتی۔ مگر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت اس چمار کی حالت قابل دیکھنے کے ہے وہ لرزائیں اور ترسائیں راتوں نیز نہیں آتی کہ دیکھنے کہیں امامت میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے میرے وجود اور میری حیثیت سے زائد مجھ کو امامت پر دکر دی گئی۔ اب اس پر اس کی دو حالتیں ہیں ایک شکر کی اور ایک خوف کی دونوں کو جمع کرنا اور اسکے حقوق بجالانا آسان بات نہیں۔ واقعی یہ

طریق بہت ہی نازک ہے۔ ہزاروں سرمار کر پڑھ گئے، مگر منزل مقصود تک رسائی نہیں ہوئی اس میں رہبر کامل کی ضرورت ہے بغیر اس کا دامن پکڑے ہوئے اس راہ میں قدم رکھنا خطرہ ہی خطرہ ہے ویکھنے مثال سے کسی قدر سمجھ میں آ جائیگا۔ ایک انسان ہے عالم ہے محدث ہے مفسر ہے، فتنہ ہے مجتهد ہے حافظ ہے قاری ہے نیک ہے حسین ہے تند رست ہے اور باوجو اس کے اس کو کسی کمال پر نظر نہ ہو کیا یہ سہل بات ہے البتہ جو کمالات اس کو عطا ہوئے ہیں ان پر خوش ہونا یا ان کا اقرار یہ بری بات نہیں لیکن ان کمالات کی بناء پر غیر اہل کمالات کی تحریر کرنا یہ بے نظر نہ موم۔ اسی طرح یہ بھی نظر نہ موم ہے کہ میں ان کمالات کی وجہ سے خدا کے نزد یک مقبول ہو گیا کیا خبر ہے، مقبولیت و عدم مقبولیت کی لائق فُرْمَالِیّسَ لک بِهِ عَلَم۔

حضرت ممکن ہے کہ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں مقبول ہوں اور وہاں مردود ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک عورت ہے جو خوب صورت بھی ہے لباس فاخرہ بھی ہے زیور سے بھی آراستہ ہے، سنگار کئے ہوئے ہے، اور اس آرائش و زیبائش کی بناء پر سمجھتی ہے کہ میرا خاوند مجھے چاہتا ہے۔ مگر ساتھ ہی گندہ وہنی میں بتلا ہے اس لئے خاوند اس کی صورت ویکھنے کا بھی روادار نہیں۔

اور ایک عورت ہے سانوی۔ کپڑے بھی میلے کچلے زیور بھی اس کے پاس نہیں۔ مگر اس کی کوئی اداخاوند کو پسند ہے وہ اس کو محبوب رکھتا ہے دل سے چاہتا ہے فرمائیے! ان دونوں میں کچھ فرق ہے یا نہیں۔ یہ ہی مثال ہمارے کمالات کی ہے تو جس طرح گندہ ذہن عورت اپنے خاوند کی نظر میں مقبول ہونے کے غلط گمان میں بتلا ہے یہی حالت کمالات کی بناء پر ہمارے گمان کی ہے۔

حاصل یہ ہے کہ یہ ظاہری کمالات دلیل مقبولیت کی نہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی باطنی خرابی ہو جو میاں کو ناپسند ہو۔ فرمایا کہ باطنی خرابی کی شان کے متعلق کیا عرض کروں جو دل میں ہے کس طرح دوسروں کے دل میں ڈال دوں بعض اوقات سالک کی یہ حالت ہوتی ہے کہ باوجود یکہ یقین کے ساتھ یہ سمجھ رہا ہے کہ فرعون نے خدا کی کادعوی کیا اور میرا دعوی ہے عبدیت کا۔ وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنے کا مستحق ہے اور میں جنت میں رہنے کا امیدوار۔ اسلئے کہ امید تو

ہے ہی مسلمان ہونے کی وجہ سے اور امید رکھنی بھی چاہئے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا منکر اور میں تمام انبیاء علیہم السلام کا مابنے والا۔ مگر باوجود فحیکہ ان سب چیزوں کے حالاتیہ سمجھتا ہے کہ فرعون مجھ سے لاکھ درجہ بہتر ہے اس لئے کہ ایک مرتبہ کے کلمے پڑھنے سے اس کا ادھر سے ادھر معاملہ ہو جاتا۔ اور ایک منٹ میں اس کو نجات ہو سکتی تھی اور جس الجھن اور ضيق میں یہ اپنے کو بیتلاد کیتھا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہزار برس میں بھی نجات ہو جائے تو خیریت ہے اور اسی حالت میں لوگوں نے خود کشیاں تک کر لی ہیں وہ ضيق ایسا ہے کہ فرعون اس میں بیتلاد تھا محض کافر تھا۔ ایک مرتبہ کے کلمے پڑھنے سے ایک منٹ میں مسلمان ہو سکتا تھا اور یہ شخص اپنی حالت کو اس سے زیادہ جانتکاہ دیکھ رہا ہے تو ایسے شخص کی کہاں کمالات پر نظر ہو سکتی ہے اور کیا احوال ہوں گے اس کے سامنے اور کیا مقامات ہوں گے اس کی نظر میں وہ تو دوسری ہی ادھیزبر بن میں لگا ہوا ہے جس گرداب میں یہ پھنسا ہوا ہے اگر اہل ظاہر کو اس کی یہ حالت منکشف ہو جائے تو کالیج پھٹ جائے مگر باوجود ان عقبات (گھائیوں) اور دشوار گذار را ہوں کے جن کو حق تعالیٰ نے فہم کامل اور ذوق سليم عطا فرمایا ہے وہ اس راہ سے اس سہولت سے نکال کر لے جاتے ہیں کہ معلوم بھی نہیں ہوتا یا تو ادھر تھے یا ادھر ہو گئے۔

اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کو سمجھتے کرتا پڑے گا کہ ناضر و پڑیا مگر وہ گرا یے ہیں کہ جو سخت سے سخت اور کٹھن گھائیوں کو پلاک جھکنے میں طے کر دیں گے اور یہ باتیں شخص زبانی بیان کرنے سے سمجھو میں نہیں آسکتیں اس میں ضرورت کام کر کے دیکھنے کی ہے اس لئے کہ بعض باتیں وجود ایمنی اور ذوقی ہیں۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ذوق کس طرح پیدا ہو۔ فرمایا اہل ذوق کی خدمت سے پیدا ہو سکتا ہے مولانا فرماتے ہیں۔

قال را بگذار مردحال شو جلا پیش مردے کا ملے پامال شو
یہ تو جن پر گذرتی ہے ان کا ذکر تھا یقیناً ہم اس درجہ کے نہیں تو کم از کم اتنا تو کریں کہ خدا کی عطا کی ہوئی چیزوں سے نافرمانی اور عصیاں کا کام نہ لیں اگر انسان کچھ بھی نہ کر سکے تو اتنا تو

کرے کہ حقوق واجہہ کا اہتمام اور منکرات سے اجتناب رکھے انشاء اللہ تعالیٰ نجات کے لئے کافی ہے۔
حق تعالیٰ عقل سليم اور فہم کامل نصیب فرمائیں اسی عقل و فہم پر مدار ہے دین کے سب کارخانے کا۔
جس کو یہ نصیب ہو جائیں بڑی دولت ہے بڑی نعمت ہے۔

ملفوظ ۱۶۲: بعض حضرات سے عدم مناسبت کے واقعات

ایک صاحب کی بے عنوانی پر حضرت والا نے ان کو خانقاہ میں آنے اور مکاتبہ میخاطب سے منع فرمادیا تھا۔ انہوں نے ایک مولوی صاحب کے واسطے سے معافی چاہی مولوی صاحب نے عرض کیا کہ فلاں شخص حضرت سے معافی کے خواستگار ہیں اور یہاں پر بننے کی اجازت چاہتے ہیں اور بہت ہی روتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ آنکھوں سے روتے ہیں میں دل سے روتا ہوں مگر کلفت کو کس طرح برداشت کروں خصوص ان سے جو مدعاں محبت ہیں جب ان سے ایسی کوئی بات ہو جو موجب کلفت ہو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اگر آپ فرمائیں کہ کافیں اٹھا اور اڑیتیں ہے۔
میں اس کیلئے بھی تیار ہوں۔ آخر حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ معلوم ہے کیا حضور ﷺ اس کے خلاف پر قادر نہ تھے ظاہر ہے کہ تھے مگر پھر بھی حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ تمام عمر اپنی صورت نہ دکھانا مقصود یہ تھا کہ تمہاری صورت دیکھ کر چچا کا قتل یاد آ جاتا ہے اور اس سے تکلیف ہوتی ہے اور یہ تکلیف سب تمہارے نقصان کا ہوگی۔ تو یہ حضور کا فرمانا حضرت وحشی ہی کی مصلحت سے تھا کہ ان کو دیکھ کر حضور ﷺ کو کلفت ہوتی اس میں حضرت وحشی کا نقصان تھا۔

میں نے یہ واقعہ اپنے عذر کے لئے ایک صاحب کو لکھا تھا انہوں نے بھی ستایا تھا۔ اور یہ بھی لکھا تھا کہ کہاں حضور اور کہاں ہم گندے ناپاک کوئی نسبت نہیں جب وہاں اتنا اثر ہوا اگر یہاں ہو تو کیا بعید ہے۔ وہ صاحب جواب میں لکھتے ہیں کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے تو قتل کیا تھا۔ میں نے قتل تھوڑا اہی کیا ہے۔

میں نے جواب میں لکھا کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے کفارہ بھی ایسا ہی زبردست کیا تھا کہ اسلام لے آئے تھے جس کی شان یہ ہے کہ یہدم ما قبلہ (پچھلے گناہوں کو مناویتا ہے)

اور تم نے اس درجہ کا کیا کفارہ کیا۔ ان صاحب کے جواب دینے پر فرمایا کہ آجکل تو بولنا کمال میں داخل ہو گیا ہے ایسے لوگوں سے یہ بھی امید نہیں ہوتی کہ کوئی بات کبھی جائے اس کو سمجھ لیں گے پھر مفارقت کی تجویز کے متعلق فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں جس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا **هذا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ** یہ مجھے میں اور تم میں جدائی (کا وقت) ہے ۝ ایسے اولوں العزم پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کسی معصیت کا ارتکاب کیا تھا۔ محض عدم مناسبت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو علیحدہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس تجویز کے لئے طالب کی معصیت شرط نہیں۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وہاں پر تو پہلے ہی شرائط ملے ہو گئے تھے فرمایا اچھا یہی سبھی مگر یہ بتائیے شرائط ہی کیوں ملے ہوئے تھے اسی مناسبت و عدم مناسبت کے امتحان کے لئے تو ملے ہوئے تھے۔ تو وہی بات رہی۔ عدم مناسبت کی۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ سے الگ ہونا پڑا نیز اب یہی طالب و شیخ میں بھی شرط ہوتی ہے وہاں صراحت تھی۔ یہاں دلائل جیسا ماریض جیسا طبیب کے نسخ میں چون وچر انہیں کرتا۔ اور ایسا کرنے سے اگر وہ علاج چھوڑ دے اس پر کوئی ملامت نہیں کرتا۔ اس طریق میں تو چون وچر اسے کام چل ہی نہیں سکتا۔ بڑی ضرورت اس کی ہے کہ جس سے تعلق متابعت کا کیا جائے اس کو کلفت نہ پہنچائے اور یہ فکر اور غور سے ہو سکتا ہے مگر مشکل تو یہ ہے کہ لوگوں نے فکر اور غور کرتا ہی چھوڑ دیا۔ میں جیسے دوسروں کو نہیں ستاتا۔ یہ ہی دوسروں سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھے نہ ستاویں۔ اس میں راز یہ ہے کہ عدم مناسبت کی وجہ سے کوئی نفع نہ ہوگا۔ اس کو میں ظاہر کر دیتا ہوں۔ اور ظاہر نہ کرنے کو خیانت سمجھتا ہوں کوئی فوج تھوڑا ہی جمع کرتا ہے عدم مناسبت کی صورت میں سب سے زیادہ اچھا اور سہل طریق یہ ہے کہ اصلاح کا تعلق کسی دوسرے سے کر لیں اور فوائد سننے کیلئے اگر چاہیں یہاں آ کر رہیں بذریعہ خط صرف میری خیریت معلوم کر لیا کریں دعا کیلئے لکھ دیا کریں مجھے خود قلت ہوتا ہے مگر کیا کروں میں بھی معدود ہوں خدمت سے تو انکار نہیں مگر خدمت طریقہ سے کی جاتی ہے۔

ملفوظ ۱۶۳: اپنی اصلاح کے طریقے سوچتے رہنا

فرمایا! کہ جس طرح میں دوسروں کی اصلاح کے طرق سوچتا رہتا ہوں۔ اللہ کا لا اکہ لا کہ

شکر ہے کہ اپنی اصلاح کے طریق بھی سوچتا رہتا ہوں۔ مسلمان کو تو مرتبے دم تک اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہنا چاہئے اس پر بھی اگر نجات ہو جائے تو سب کچھ ہے اس سے آگے ہم کیا حوصلہ اور ہمت کر سکتے ہیں۔ باقی فضائل و مدارج توبہ میں لوگوں کی باتیں ہیں۔ ہم کو تو جنتیوں کی جوتیوں ہی میں جگہل جائے یہ ہی بڑی دولت ہے۔ جوتیوں پر یاد آیا کہ حضرت مولانا شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شرکت کرنے کو اور ایک مجلس میں بیٹھنے کو خلاف ادب سمجھتے تھے۔ حضرت سید صاحب کی جوتیاں لئے ہوئے موخر مجلس میں بیٹھ رہتے تھے اگر کبھی بیٹھنے بیٹھنے کسل ہو جاتا تو ہیں جوتیاں سر کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتے تھے جس وقت حضرت سید صاحب کی پالکی چلا کرتی تھی تو حضرت مولانا شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالکی کے ساتھ دوڑا کرتے تھے اس کو اپنے لئے فخر سمجھتے تھے۔ چاندنی چوک میں کو پالکی جارہی ہے اور آپ ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ حالانکہ دہلی میں اس خاندان کے ہزاروں سلامی تھے مگر ذرہ برابر حضرت شہید صاحب اس کی پروانہ کرتے تھے کیا یہ حضرات خشک تھے ان کو خشک کہا جاتا ہے اصلاح یوں ہی ہوتی ہے آج ذرہ ذرہ بات پر ناگواری ہوتی ہے۔ غرض ہر شخص کو اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہنا چاہیے۔ مرتبے دم تک یہی حالت رہے۔ عارف روی فرماتے ہیں ۔۔۔

اندریں رہ گی تراش و گی خراش ☆ تادم آخر دے فارغ مباش

تادم آخر دے آخر یوو ☆ کہ عنایت یا تو صاحب سر یوو

﴿اس راستے میں بہت نشیب و فراز ہیں آخر دم تک ایک دم کیلئے بے فکر نہ ہو یہاں تک کہ اخیری وقت میں ایک وقت تم پر ایسا آیا گا کہ عنایت حق تم پر ہو جائے گی۔ ۱۲﴾۔

ملفوظ ۱۶۳: یکارہو کربے فکر ہونا اور حضرتؐ کی اپنے بارے میں رائے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر کوئی یکارہو اور لوگ اس کو علاج سے بے فکر دیکھیں تو چاہوں طرف سے تازہ پڑتی ہے جس سے وہ اپنی فکر میں لگ جاتا ہے ایسے شخص کی امید صحت کی ہوتی ہے افسوس تو اس شخص کی حالت پر ہے کہ تمام دنیا اس کو تند رست

سمجھے ہوئے ہے اور وہ بیمار ہے دوسروں کے تند رست سمجھنے پر یہ بھی اپنے کو تند رست سمجھے بیٹھا ایسے مریض کے تند رست ہونے کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ جب میں دوسرے کے لئے کوئی تجویز کرتا ہوں اپنے سے بے فکر ہو کر نہیں کرتا۔ مستغفی ہو کر نہیں کرتا۔ بلکہ میں تجویز کے وقت برابر اس کا خیال رکھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی اس تجویز میں نہ ہو جائے اور اس شخص پر ذرہ برابر شگلی نہ ہو۔ اس پر مجھ کو سخت کہا جاتا ہے ہاں یہ دوسرے بات ہے کہ احتجادی غلط ہو جائے اس کے متعلق یہ ہے کہ قصد نہیں تیت نہیں۔ حق تعالیٰ معدود رخیال فرمائ کر امید ہے کہ معاف فرمائیں گے۔

۵ رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم پنجشنبہ

ملفوظ ۲۵۰: دوسروں کے حقوق کی گہری رعائیں

فرمایا! کہ مجھ کو بدنام تو کیا جاتا ہے مگر یہاں پر رہ کر دیکھا جائے کہ میں کس قدر رعائیں کرتا ہوں اور آنے والے مجھ کو کتنا ستاتے ہیں یک طرفہ بات سن کر گھر پہنچے فیصلہ دیدیں ا تو آسان ہے لیکن جب وہی باتیں اپنے کو پیش آئیں پھر اگر تحل کر کے دکھائیں تو ہم جانیں البتہ اگر کسی کو حس ہی نہ ہو یا شخص فوج ہی جمع کرتا ہو یا روپیہ ہی شخص ایسخنا مقصود ہو اور دکانداری ہی جہانا ہو تو ایسا شخص تو واقعی اس سے بھی زیادہ سخت سخت باتوں کا تحل کر لے گا۔ مجھ سے تو نہیں ہو سکتا بلکہ سے کوئی معتقد رہے یا غیر معتقد ہو جائے۔ میں تو یہاں تک رعایت رکھتا ہوں کہ یہاں پر پہلے مسجد میں ایسا قصہ ہوتا تھا کہ جہاں میں نماز کیلئے مصلے پر جانے لگا کوئی ادھر کو کھڑا ہو گیا کوئی ادھر کو کھسکا۔ مجھ کو ایسی باتوں سے اذیت ہوتی تھی۔ نیز اس سے ایک عظمت اور بڑائی کی شان معلوم ہوتی تھی۔

میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ ایسی باتوں کو پسند نہ فرماتے تھے نہ مجھ کو پسند ہیں۔

غرضیک لوگوں نے مجھ کو ایسا بنالیا جیسے بھیڑ یئے کو دیکھ کر بھیڑیں ادھر ادھر کو بھاٹا کر کرتی ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے اللہ میں ہوا ہوں۔ آخر میں نے یہ انتظام کیا کہ لوگوں سے کہہ دیا کہ تم صرف اتنا کیا کرو کہ میرے مصلے پر آنے کیلئے مصلے کے مقابل ایک آدمی کی

جگہ چھوڑ دیا کرو باقی حرکت مرت کیا کرو۔ مگر اس صورت میں یہ ہوا کہ بعض صاحب میرے ساتھ ہوئے اور اس خالی جگہ پر جا کھڑے ہوئے۔

اب یہ ظاہر ہے کہ پہلے پہنچنے والے بے چارے میری محبت کی وجہ سے کہ اس کو آنے میں لکفت نہ ہو۔ ایک آدمی کی جگہ چھوڑ دیتے تھے تو وہ جگہ ان کا جتن تھی۔ مگر میرے اس قاعدے سے دوسروں نے نفع اٹھانا شروع کر دیا مجھ کو اس پر بھی خیال ہوا کہ میں آله بنا۔ ان ساتھ ہو لینے والے حضرت کے مورخ سے مقدم بنانے کا اس پر میں نے یہ انتظام کیا کہ یہ بھی مرت کرو۔ اپنی اپنی جگہ ملے ہوئے بیٹھنے رہو۔ میں جب آیا کروں گا جس جگہ سے جانا ہوا کندھے پر باتھر کر دیا۔ اس وقت تھوڑی اسی جگہ مجھ کو جانے کی دیدیا کرتا۔ اس میں ان کی بھی رعایت مقصود تھی۔ وہ یہ کہ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ اس کو گوارانہ کریں گے کہ مجھ کو کوئی تنگی ہو اس لئے مجھ کو بھی ان کی یہ ناگواری گوارانہ ہوئی اور بے تکلف اشارہ کر کے رستہ لینا تجویز کر لیا۔

یہ میں نے بطور نمونے کے بیان کیا ہے اور ہزاروں جزئیات میں کہاں تک احاطہ ہو سکتا ہے جن کی میں رعایت رکھتا ہوں زبان سے دعویٰ کرنا آسان ہے کر کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ اسلئے میں بھی چاہتا ہوں کہ دوسرا بھی میری راحت کی رعایت رکھے۔

ملفوظ ۱۶۳: - بد فہمی اور بد عقلی کا کوئی علاج نہیں

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جس شخص سے مسجد میں کھڑے ہو کر تکنے پر حضرت والا نے مو اخذہ فرمایا تھا وہ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دیکھنے سے بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے؟

حضرت والا نے یہ سن کر فرمایا کہ جب فہم کی یہ حالت ہے اس کا کوئی علاج نہیں جب گھر کی عقل نہ ہو کوئی انتظام نہیں ہو سکتا۔ ایوں کی غلطی پر اگر تسامح کیا جائے تو کیا امید ہو سکتی ہے ان سے کہ یہ خود سمجھ کر کوئی اذیت یا تکلیف نہ پہنچائیں گے بد فہم آدمی کا تو کسی حالت میں بھی انتظام نہیں ہو سکتا۔

جیسے ایک شخص کے لڑکے کی شادی تھی لڑکے کے باپ نے ایک شخص سے دو لہا کے لئے دو شالہ لے لیا۔ دو شالے والے بھی بارات میں ہمراہ گئے۔ قاعدہ ہے کہ لوگ دو لہا کو دیکھنے کے واسطے آکر پوچھتے ہیں کسی نے آکر پوچھا کہ دو لہا کون سا ہے دو شالے والے صاحب بولے کہ دو لہا تو یہ ہے اور دو شالہ میرا ہے۔ لڑکے کے باپ نے کہا کہ میاں تم بڑے مہل آدمی ہو اس کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دو شالہ میرا ہے کہنے لگے واقعی فعلی ہوئی اب احتیاط رکھوں گا۔ اتنے میں کسی اور نے دو لہا کو آپوچھا تو آپ کہتے ہیں کہ دو لہا تو یہ ہے دو شالہ میرا نہیں۔ لڑکے والے نے کہا کہ میاں تم عجیب آدمی ہو۔ اس ہی کہنے کی کیا ضرورت تھی دو شالہ والے نے کہا کہ واقعی ضرورت نہ تھی اب یہ بھی نہ کہوں گا۔ اتنے میں کسی نے پھر آکر دریافت کیا کہ دو لہا کون ہے آپ کہتے ہیں کہ دو لہا تو یہ ہے اور دو شالے کا کوئی ذکر ہی نہیں آخر لڑکے والے نے دو شالہ والے کو سارا کردیا۔

غرض اس شخص کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا کیونکہ گھر ہی کی عقل نہیں تھی ایک اور حکایت یا وائی ایک رئیس نے نوکر رکھا جو اکثر کاموں میں کوتا ہی کرتا بار بار کے موافقہ پر یہ کہا کہ اصل میں مجھ کو یہ معلوم نہیں کہ میرے ذمہ کیا کیا کام ہیں مجھ کو ایک فہرست کاموں کی لکھ کر دیدی جائے۔ رئیس نے ایک فہرست بنانے کو دیدی کہ یہ کام تم سے لئے جائیں گے مجملہ اور کاموں کے اس فہرست میں یہ بھی تھا کہ گھوڑے کے ساتھ چلتا پڑیا جہاں کہیں ہم جایا کریں گے۔ ایک روز آقا سوار ہو کر چلے اور یہ ساتھ ہو لئے اتفاق سے شال گھوڑے سے گری آپ نے فوراً فہرست نکال کر دیکھا اس میں یہ نہ لکھا تھا کہ اگر کوئی چیز گھوڑے سے گرے اس کو اٹھا لیا جائے آپ نے شال نہ اٹھائی جب منزل مقصود پر پہنچ آقانے دیکھا شال نہیں دریافت کیا کہ شال نہیں کیا ہوئی کہتے ہیں حضور! وہ تو فلاں جگہ گری تھی اقانے موافقہ کیا۔ اٹھائی کیوں نہیں آپ نے فہرست سامنے رکھ دی کہ اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو چیز گر اکرے اس کو اٹھا لیا جایا کرے اس لئے میں نے نہیں اٹھائی۔ آقانے فہرست لے کر اس میں یہ بھی لکھ دیا کہ اگر کوئی چیز گر جایا کرے اسکو اٹھا لیا جائے پھر آقا سوار

ہو کر چلے اور منزل ختم ہوئی تو ایک گھڑی سامنے لا رکھی دریافت کیا کیا ہے عرض کیا دیکھ لجھے کھول کر دیکھا تو گھوڑے کی لید۔ پوچھایہ کیا۔ وہی فہرست سامنے رکھدی کہ دیکھنے اس میں یہ لکھا ہے کہ: وجہزگرے انھالو۔

سوائی بدنی کا کیا علاج۔ فرمایا کہ میں بعضوں کو یہاں رہتے ہوئے مکاتبت و مناظرست سے منع کر دیتا ہوں پھر اگر وطن پہنچ کر خط و کتابت کریں اور مجھ کو خط و کتابت سے معلوم ہو جائے کہ سیاقہ پیدا ہو گیا تو مجھ کو ضد تھوڑا انتہی ہے اجازت دیتا ہوں کہ یہاں آ کر بھی خط و کتابت کر سکتے ہیں۔ مخصوصاً میرا ان لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے کہ طبیعت پر سمجھنے سوچنے کا بوجہ پڑے فکر اور غور کی عادت ہو۔ دوسرے کو جوازیت یا کلفت ہوتی ہے وہ بے فکری سے ہوتی ہے اور میرا عقیدہ تو وہ ہے جو حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آنے والے حضرات کے قدموں کی زیارت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں کیونکہ میرا تو کسی دلیل سے بھی اپنے ثابت نہیں اور میرے پاس آنے والے اللہ کا نام لینے آتے ہیں یہ یقیناً اچھے ہیں آہ۔

بھلا جس شخص کا یہ عقیدہ ہو وہ آنے والوں کو تحقیر کی نظر سے دیکھ سکتا ہے یا ایسا شخص کسی کے آنے سے گھبرا نے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رعایت اس کی کنجائی ہے جو اپنی بھی رعایت کرے اور یہ جو لوگ سفارش کرتے ہیں یہ خود دلیل ہے کام نہ کرنے کی کہ خود کچھ کرنا نہ پڑے ایسا شخص اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالتا ہے اور خود ہاکار رہتا ہے اس سے طلب کام ہونا معلوم ہوتا ہے بڑی سفارش تو طلب ہے لوگوں کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں ان کو چھوٹا بڑا ہی مشکل ہے نہ اپنی تکلیف کا احساس نہ دوسروں کی۔ کہاں تک ان کی بے پرواہی اور بے فکری کی اصلاح کی جائے۔

فرمایا کہ عادت پر ایک حکایت یاد آئی یہاں پر ایک صاحب تھے برادری کے تھے ان کی عادت برادری کو گالیاں دینے کی تھی اتفاق سے ان کے یہاں شادی ہوئی اہل برادری ان کی اس حرکت سے ناراض تھے بے اشاق کیا کہ کوئی ان کے یہاں شریک نہ ہوان حضرت کو معلوم ہوا کہنے لگے کہ اب بھی گالیاں نہ دیا کروں گا لوگوں نے کہا کہ اپنے اہم یوں تو اعتبار نہ کریں گے۔ شاہ

ولایت میں چل کر عہد کرو کے گالیاں نہ دیا کروں گا ساتھ ہو لئے۔ پہلے لوگ شاہ ولایت صاحب کو بہت مانتے تھے وہاں پر پہنچ کر اگر کوئی بات طے ہو جایا کرتی تھی تو اس پر سب مطمئن ہو جایا کرتے تھے غرضیکہ یہ حضرت شاہ ولایت کے مزار پر پہنچے اور کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت میری خادوت گالیاں دینے کی تھی اب میں عہد کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ان کی یوں توں کروں ان کو کبھی گالیاں نہ دیا کروں گا اُگوں نے کہا اُرے پھر گالی دی۔ کہنے لگے اچھا اُب ایسا نہ کروں گا پھر عہد اُسی گالی کے ساتھ کیا تب لوگوں نے ان کو مخدور سمجھا اور ہر ا manus چھوڑ دیا اور سب نے شادی میں شرکت کی۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ تھے چالاک یہ ترکیب انہوں نے اسلئے کی کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ کیلئے منہ بند رکھنا پڑے گا اُسی ترکیب کرو کہ یہ مخدور سمجھیں۔

ملفوظ ۱۶۷: ایک بدعتی کا قول

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک بدعتی مولوی یہ کہتا ہے کہ گاندھی کے پیچھے نماز پڑھنے میں اتنا نقصان نہیں جتنا دیوبندی کے پیچھے نماز میں ہے مرا حا جواب میں فرمایا کیونکہ گاندھی کے پیچھے نماز مکروہ بھی نہ ہوگی۔ (یعنی نماز ہوگی اسی نہیں)

ملفوظ ۱۶۸: مرتد کے یہاں چوری

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ان قادیانیوں کی کوئی کتاب وغیرہ چہ اے جائز ہے یا نہیں اس لئے کہ یہ مرتد ہیں۔ جواب میں فرمایا کہ مسئلہ تو کتاب میں دیکھا جائے جو کہ کو اس وقت یاد نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اُسی چوری کرنے کی نیزی تو نیت نہیں۔

ملفوظ ۱۶۹: اشیش پر سامان کا وزن کرنے میں تاہل

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اشیشوں پر اکثر باؤ لوگ مال کا وزن کرنے میں تاہل کرتے ہیں اس کے ادا کرنے کی کیا صورت ہے جواب میں فرمایا کہ خود وزن کر لے اور جس قدر زائد ہو قانونی حساب معلوم کر کے اتنے کا نکٹ خرید کر چاک کر دے یہ صورت ادا کی ہو سکتی ہے۔

ملفوظہ ۰۷۱: ایک صاحب کی حاضری کیلئے نگران کی شرط

ایک صاحب کی بے عنوانی پر حضرت والا نے ان کو خانقاہ میں آنے اور مرکا تبت وغیرہ سے منع فرمادیا تھا ان صاحب نے ایک مولوی صاحب کے واسطے سے معافی چاہی تھی یہ ملفوظ صبح کی مجلس میں آج ہی درج ہو چکا ہے جس کا نمبر ۱۲۲ ہے اور جس میں حضرت وحشی کا قصہ مذکور ہے اب بعد نماز ظہر کی مجلس میں ان مولوی صاحب نے پھر سفارش فرمائی۔ حضرت والا نے فرمایا ایک صورت ذہن میں آئی ہے جس سے آنے کی اجازت ہو سکتی ہے اس لئے کہ خدا نخواست مجھ کو بغرض یا عداوت تھوڑا تھی ہے مقصود اصلاح ہے اور وہ صورت یہ ہے۔ کہ اگر کوئی صاحب اسکے ذمہ دار نہیں کہ یہاں پر رہنے کے زمانہ میں انکو اپنے ساتھ رکھیں، چلنے میں، بیٹھنے میں، کھڑے ہونے میں نماز میں، کھانے میں۔ اگر مجھ سے مصافی کرنے آئیں تو نگران صاحب ساتھ آئیں مجلس میں ساتھ لا ایں۔ استنبجے جائیں تو یہ ساتھ جائیں ان شرائط کے ساتھ ان صاحب کو آنے کی اجازت ہو سکتی ہے۔ فرمائیے کون صاحب! اس پابندی کیلئے تیار ہیں دیکھوں کون صاحب ان کے ہمدرد بننے ہیں یا بعض مجھ کو ہی تختہ مشق بنایا جاتا ہے۔

مولوی صاحب نے عرض کیا کہ فلاں مولوی صاحب اس کو انجام دے سکتے ہیں فرمایا مجھ کو اس سے بحث نہیں جو صاحب پابندی کر سکتے ہیں وہ مجھ سے کہیں کر میں کر سکتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں اس کی پابندی کر سکتا ہوں حضرت والا نے دریافت فرمایا کہ معیت فی الاستنجا تک کی پابندی عرض کیا جی باں! فرمایا بہت اچھا اجازت ہے بلا جھجھے۔ عرض کیا کہ ساتھ رہنے کے علاوہ اور تو کوئی میری ذمہ داری نہ ہوگی۔ فرمایا یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی حرکت کریں ہو خلاف قاعدہ ہو یا دوسرے کی اذیت کا سبب ہو آپ بتلاتے رہیں سمجھاتے رہیں میرے لئے اس میں یہ سہولت ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو میں قرین سے باز پرس کروں گا میرا توجہاں تک ذہن پہنچتا ہے عین مو اخذہ کے وقت میں بھی سہولتیں کرنے میں کوئا ہی نہیں کرتا۔ اور میں اس کو عاصی نہیں سمجھتا۔ مگر عدم متابعت سے جو کلفت ہوتی ہے اسکیں میں بھی معدود ہوں۔

ملفوظ ۱: شیخ کی طرف دیکھنے کا طریقہ

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شیخ کی طرف دیکھنا یا اس کی طرف نظر کرنا کیا اس سے برکت حاصل نہیں ہوتی۔ فرمایا ہوتی ہے لیکن طریق اس کا یہ ہے کہ ایسے وقت دیکھے۔ جب یہ دیکھ لے کہ شیخ اس کے دیکھنے کو نہیں دیکھ رہا وجد اس کی یہ ہے کہ بلا ضرورت کسی شخص کی طرف تکشیلی باندھ کر دیکھنا اس کو مشوش کرتا ہے۔ اور یہ بات میرے ہی ساتھ مخصوص نہیں یہ امر طبعی ہے کہ اگر ایک شخص ایک شخص کو برابر دیکھے چلا جا رہا ہو تو اس کو شبہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص بات ہے جو مجھ کو گھور رہا ہے۔ ہاں! ایسے وقت شیخ کی طرف نظر کرنا کہ جس وقت اس کو علم نہ ہوا اس کے دیکھنے کا کوئی حرج نہیں یا خود شیخ اس کی طرف متوجہ ہو یا کچھ پوچھنے یا بتلانے اس وقت چونکہ شیخ خود متوجہ ہوتا ہے اس وقت دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج کل فہم اور عقل کا تحفہ ہے لوگ افراتلفریط میں بتتا ہیں شاید اس سے بدفهم لوگ شیخ کے متوجہ ہونے کے وقت بھی اس طرف دیکھنے اور بولنے کو ادب کے خلاف سمجھنا۔ میں نہیں۔

ملفوظ ۲: صاحب کشف کو کسی بھی وقت کشف ہو سکتا ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کیا صاحب کشف کیلئے یہ ضروری ہے کہ ہر وقت انکشاف ہوا کرے۔ فرمایا کہ یہ تو ضروری نہیں مگر یہ احتمال ہر وقت ہے کہ نہ معلوم کس وقت انکشاف ہو جائے۔

ملفوظ ۳: ایک صاحب کی ایک روپیہ میں خلافت لینے کی خواہش

فرمایا! کہ ایک صاحب کا بڑے مزے کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ ایک روپیہ نذرانہ کیلئے مشی آرڈر کروں گا آپ چاروں سلسلوں کی اجازت دیکر بندہ کو بہرہ مند فرمائیں۔ فرمایا کہ یہ ایک روپیہ میں خلافت لینا چاہتے ہیں۔ لغافہ پر پتہ ملاحظہ فرمائیا کہ آپ ماشر ہائی سکول بھی ہیں۔ مزاہما فرمایا کہ ہائی اسکول تو نے تباہ کر دیا۔ ان لوگوں کو اب بتلانے اس بد فہمی اور کم عقلی کی کچھ حد ہے۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم خرا کی راہ سے لکھ رہا ہے فرمایا یہ بات نہیں اصل بات یہ ہے کہ روپیہ لیکر لوگ خلافتیں دیتے ہیں۔ میں نے اس قسم کے اکثر

واقعات سے ہیں یہ سب بے خبری کی باتیں ہیں یہ قدر ہے طریق کی ان لوگوں کی نظر وہ میں اور یہ وقعت ہے ان چیزوں کی ان لوگوں کے دلوں میں۔ میں اگر اس پر منظاً بات کرتا ہوں اور اس طریق کی حقیقت کو ظاہر کرتا چاہتا ہوں تو مجھ کو بدنام کیا جاتا ہے کہ مزاج میں تشدید ہے بختنی ہے۔ مجھ سے تو بے غیرتی نہیں اختیار کی جاتی۔ میں اگر ایسے کو زخمزوں کے ساتھ نرمی برتوں تو اس کا اثر مجھ ہی تک محدود نہیں رہے گا اس کا اثر طریق پر پڑیگا تو علاوہ بے غیرتی کے دین کے بھی خلاف ہو گا۔ کیونکہ طریق بدنام ہوتا ہے ایسے موقع میں سیاست کرنے پر جو شخص مجھ پر اعتراض کرتا ہے میں اس معارض ہی سے دریافت کرتا ہوں کہ ایسے شخص کے ساتھ کیا برداشت کیا جائے جس نے ایک روپیہ میں خلافت چاروں سلسلوں کی اجازت طلب کی ہے۔

حضرت دور بیٹھنے والے قائم کر لیتا بہت آسان ہے ذرا یہاں پر رہ کرو واقعات کو دیکھیں
تب حقیقت معلوم ہو۔

ملفوظ ۲۷ کے ا:

فرمایا! کہ ساری دنیا عقولاً ہی سے بھری ہوئی ہے ایک اور صاحب کا لحاظ آیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضور بزرگ کامل و مدلل ہیں ابطور مزاج فرمایا کہ بہتی زیور جو کامل و مدلل چھپا ہے اس وجہ سے یہ چارے نے لکھا ہے کہ تم بھی کامل و مدلل ہو ایک یہ بھی لکھا ہے کہ حضور کامل کامل و مدلل بزرگ ہیں۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ نہ میں کامل نہ مدلل یہ سب غلط ہے اور گرتہ بارے نزدیک صحیح ہے تو اس دعویٰ کو کامل و مدلل کرو پھر اس نے جو لکھا ہے کہ حضور امشرق و مغارب جنوب و شمال تمام دنیا بھر کے بزرگ ہیں میں نے لکھ دیا ہے کہ تو یہ کرو تو یہ۔

فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں القاب کی جگہ یہ لکھا تھا کہ رب المشرقین و رب المغاربین۔ حضرت نے وہ خط حاضرین کو پڑھنے کیلئے دیا۔ اب جو دیکھتا ہے نہیں کی وجہ سے بے تاب ہو جاتا ہے۔ حضرت کو پڑھ کر کوئی شانہیں سکلتا تھا۔ آخر وہ میرے پاس آیا

میں نے بھی کو ضبط کر کے حضرت کو سنایا۔ حضرت بڑے تھیں کہ فرمایا لاحول ولاقوة الابالله جہل بھی کیا بری چیز ہے یہ فرمائ کر اس شخص کی مخدود ری بیان فرمادی کہ ابوجہبے علمی کے ایسا ہوا۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ دوسروں نے جو حضرت کو پڑھ کر سنایا کیا۔ حضرت خود نہیں پڑھ سکتے تھے فرمایا پڑھ سکتے تھے مگر تکلف کے ساتھ اس لئے کہ حضرت کی نگاہ کمزور ہو گئی تھی۔

ملفوظ ۵۷۱: اپنے شیخ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے؟

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے ان صاحب کے اس لکھنے پر کہ حضور مشرق مغرب، جنوب و شمال تمام دنیا بھر کے بزرگ ہیں یہ تحریر فرمایا ہے کہ توبہ کرو تو قبہ۔ اور میں نے ایک مرتبہ ایک صاحب کے سامنے مسجد میں اس پر قسم کھاتی تھی کہ دنیا میں حضرت سے بڑھ کر اس وقت اصلاح کے لئے کوئی زہر نہیں تو کیا مجھ کو بھی توبہ کرنا چاہئے۔ مزاہ فرمایا کہ توبہ سے کیا ہوتا ہے کفارہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کا فیصلہ اس بارہ میں بہترین فیصلہ ہے۔ یہ ہے کہ اپنے شیخ کی نسبت یہ عقیدہ رکھئے کہ زندو بزرگوں میں میری کوشش ہے اس سے زیادہ مجھ نے نفع پہنچانے والا مجھ کو نہیں مل سکتا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے امام تھے مجتہد نے اور وہ شان تھی جس کو مولا نافرماتے ہیں۔

بینی اندر خود علوم انبیاء ہیں بے کتاب و بے معید و اوستا
ترجمہ: تو اپنے اندر بغیر کسی مددگار اور استاد کے علوم نبوت کا مشاہدہ کر لیگا۔

ملفوظ ۶۷۲: ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود لوگوں کا حضرت سے چھٹنا

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کبھی میں نہیں آتا یہاں پر قدم قدم پر قدم اور شرائط ہیں۔ ہر ہر بے عنوانی پر معاخذہ و محاسبہ ہے ڈانٹ ہے ڈپٹ ہے مگر لوگ ہیں ملتے نہیں فرمایا ایسی حالت میں اہل محبت اور اہل فہم ہی تھیں سکتے ہیں اور میرا مقصود ان سب چیزوں سے اور دوسروں کی راحت ہے اور جو کچھ کہتا سنتا ہوں اس کا منشاء محبت اور آنے والوں کی اصلاح۔

اگر یہ قیود اور شرائط اور داشت ذیث نہ ہوتی تو یہاں پر ایک ہجوم ہوتا خصوص اہل دنیا کا۔ کوئی تعویذ مانگتا کوئی کچھ کوئی کچھ۔ یہ ضروری ضروری کام خدا کے فضل سے ہو گئے ہیں۔ ہجوم کی بدولت ان میں سے ایک بھی نہ ہوتا اس لئے ضرورت تھی ایسے قیود کی۔ اور اس ہی وقت میں آنے والوں کی بھی بحمد اللہ خدمت ہوتی رہتی ہے۔

ملفوظ ۷۷: مشورے مانگنے والوں کو حضرت کا جواب

فرمایا! ایک خط آیا ہے اس میں تمام اپنے قصے جھگڑے بھر رکھے ہیں مجھ سے مشورہ چاہا ہے میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ میں کسی کو مشورہ نہیں دیا کرتا خط کے ختم پر لکھا ہے کہ اور کوئی بات قابل تحریر نہیں۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ بھی قابل تحریر نہ تھی۔

ملفوظ ۷۸: ایک صاحب کو اپنے اندر حسد کا شہر

فرمایا! کہ ایک خط آیا ہے لکھتے ہیں کہ اپنے اندر حسد پاتا ہوں۔ میں نے جواب لکھا کہ حسد کی حقیقت کیا سمجھتے ہو اور اس کے کیا آثار پاتے ہو۔ فرمایا کہ خط و کتابت میں ان کا وقت تو ضرور صرف ہو گا۔ مگر انشاء اللہ حقیقت سے واقف ہو جائیں گے کہیں حقیقت حسد کی بے خبری سے غیر حسد کو حسد نہ سمجھ رہے ہوں۔ اب جب اس کی حقیقت لکھیں گے معلوم ہو جائے گا۔ اس طرز سے مجھ کو بھی علاج میں سہولت ہو جاتی ہے۔

۶ رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم جمعہ

ملفوظ ۷۹: طبیب کے پاس خود جانا

ایک صاحب نے عرض کیا کہ شب کو حضرت کی کیسی طبیعت رہی اور کھانسی کا کیا حال رہا۔ فرمایا کھانسی ہی کی وجہ سے راحت نہیں ملی۔ حکیم صاحب کے پاس گیا تھا اب انہوں نے کچھ اور تجویز کیا ہے یہ بھی فرمایا کہ جب ضرورت پیش آتی ہے حکیم صاحب کے پاس خود جاتا ہوں ان کو نہیں بلاتا۔ ایک روز حکیم صاحب فرمائے بھی لگے کہ مجھ کو شرم معلوم ہوتی ہے میں ہی حاضر ہو جایا

کروں گا۔ میں نے کہا کہ نہیں شرم کی کیا بات ہے میرا نہ آتا اور آپ کو بلا نا عدل کے خلاف ہے محتاج کو چاہیے کہ وہ محتاج الیہ کے پاس جائے اور بحمد اللہ یہ سب با تین میری امور طبیعہ ہیں۔ مجھ کو کوئی اہتمام یا سوچ بچار کرنا نہیں پڑتا۔

میں رعایت کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ میرے جو ملازم تنخواہ دار ہیں ان کو بھی جب تنخواہ دیتا ہوں یا کبھی ان کی مالی خدمت کرتا ہوں تو روپیہ پیسہ کبھی ان کی طرف پھینکتا نہیں بلکہ سامنے رکھ دیتا ہوں یا یا تھہ میں دیتا ہوں جیسے ہدیہ دیتے ہیں۔ پھینکنے میں ان کی اہانت معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک تحقیر کی صورت ہے اور ملازم کو تحقیر اور ذلیل سمجھنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ تو کری ایک قسم کی تجارت ہے تجارت میں کبھی اعیان کا مقابلہ اعیان سے ہوتا ہے کبھی اعیان کا مقابلہ منافع سے ہوتا ہے اور منافع میں منافع بد نیہار فوج ہیں۔ جس کا حاصل ہے کہ تو کرنے اپنی جان پیش کی جو اس مال سے کہیں افضل و اعلیٰ ہے منافع بد نیہار کو پیش کرنا یہ زیادہ ایشارہ ہے۔ پس تجارت میں اچارات زیادہ افضل ہیں تو اس کے تحقیر کی کیا وجہ میں کبھی ان معمولات کو بحمد اللہ بینچہ کروچتا نہیں سب امور طبیعہ ہیں۔ خود بخود ہن میں آتے ہیں جتنا مقصود نہیں احسان کرنا مقصود نہیں اس لئے اس وقت کہتا بھی نہیں صرف اپنے دوستوں سے اسلئے ظاہر کر دیتا ہوں کہ یہ با تین کاتوں میں پڑتا ہے جائیں کیونکہ ان چیزوں کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے اس سے حقوق العباد کا خیال رکھیں اور عدل کو با تھے جانے نہ دیں کوئی غرض سنانے سے نہیں۔

ملفوظ ۱۸۰: خانقاہ کی ہربات نرالی ودل کش

ایک معاوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہاں پر تو ساری ہی با تین نرالی ہیں جیسی نماز خانقاہ میں ہوتی ہے ایسی نماز شاید ہی کہیں ہوتی ہو۔ دریافت فرمایا کہ یہ کیوں؟ عرض کیا کہ قریب قریب سب جگہ پر یہ حالت ہے کہ امام کو ذرا دیر ہو جائے فوراً غلی مجھ جاتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے یہاں پر یہ بات نہیں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جمہوریت نہیں شخصیت ہے یہ اس کی برکت ہے فرمایا کہ ہمارے بزرگ بھی اللہ کے فضل سے ہرے ہی حکیم تھے۔ ان کی

ہر ہر بات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں۔ یہاں پر تھاں بھون میں جو جگہ ممتاز ہے وہ حوش والی مسجد ہے وہاں پر بھائی برادری کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ محلہ بھی برادری کا ہے اثر کیلئے بھی جگہ مناسب تھی اور نفع کی بھی امید زائد تھی اس لئے کہ ان سے کسی بات میں کوئی تکلف ہی نہ ہوتا مگر اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ وہ بھی اپنا اثر ڈالنا چاہتے ہیں برادری برادری کا معاملہ ہے ہمارے بزرگوں نے رہنے کیلئے اس غریب جگہ کو پسند کیا اس ممتاز جگہ کو پسند نہیں کیا حکمت یہ ہی ہے کہ یہاں پر کوئی مزاحم نہیں اس محلہ میں زمیندار آباد نہیں فریب لوگ آباد ہیں یہاں زمینداری بزرگوں کی ہے یہاں پر محلہ کے غریب لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں یہاں پر بالکل آزادی ہے اس کا مصدقہ ہے

بہشت آشنا کے آزارے نباشد ☆ کے دباؤ کے کارے نہ باشد
ترجمہ: بہشت وہ ہے کہ جہاں کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ ہو اور کسی کو کسی سے کوئی کام نہ ہو۔

ملفوظ ۱۸۱: لوگوں کی روایات سے متاثر نہ ہونا

فرمایا! کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہاں پر کوئی روایت کسی شخص کی کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ یہ بات تو یہاں پر خاص ہے ورنہ قریب قریب اکثر بزرگوں کے یہاں سلسلہ شکایت کا کم و بیش رہتا ہے۔ فرمایا جی ہاں! نبھم اللہ میں ان باتوں کا خیال رکھتا ہوں عرض کیا کہ حضرت سنتہ ہی نہیں نیز حضرت کے اصول اور قواعد اس قسم کے ہیں کہ اس کے خلاف کی کوئی بہت ہی نہیں کر سکتا اگر ضوابط میں ذرا ذہیل دی جاتی یہاں پر بھی سلسلہ جاری ہو جاتا فرمایا کہ ذہیل کے متعلق ہے۔ حاجی عبدالرحیم بھائی مرحوم کے ملازم تھے ان کے متعلق میرے بڑے گھر میں سے ایک معاملہ میں مجھ سے شکایت کی۔ میں نے فوراً آدمی بھیج کر حاجی جی کو بلا یا اور دروازہ میں کھڑا کر کے کہا کہ تمہارے متعلق یہ روایت بیان کرتی ہیں اور تم نے دعویٰ کیا ہے الہذا ثبوت دو۔ ثبوت تمہارے ذمہ ہے شوت ندارو۔ کہنے لگیں کہ تو بتم تو ذرا سی دیر میں آدمی کو فضیحت کر دیتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں فضیحت نہیں کرتا فضیحت کرتا ہوں یہ سلسلہ روایات

اپھا نہیں معلوم ہوتا اس سے دل میں عداوتوں پیدا ہو جاتی ہیں اور جہاں یہ سلسلہ ہے وہاں ہر وقت ہر شخص کو یہ شبہ رہتا ہے کہ نہ معلوم میری طرف سے کسی نے کیا کہہ دیا ہو گا اور کہنے سے کیا خیالات پیدا ہو گئے ہوں گے اور یوں تو ہمارے حضرات سب ہی حکماء تھے مگر ہمارے ان بزرگوں میں سے دو بزرگوں میں خصوصیت کے ساتھ یہ صفت یعنی روایات سے متاثر نہ ہونا بہت ہی کامل تھی۔ ایک حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں اور ایک حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ میں مولانا تو سنتے ہی نہ تھے شروع میں ہی روکدیتے۔ اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کا عجیب معمول تھا کہ سب سن لیتے تھے دوسرے دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ حضرت پر بڑا اثر ہو رہا ہے اور جب بیان کرنے والا خاموش ہوا حضرت نے بے تکلف فرمادیا کہ یہ سب غلط ہے وہ شخص ایسا نہیں اور اس کہنے کا یہ مطلب تھا کہ چاہے واقع میں صحیح ہو مگر چونکہ شرعی شہادت نہیں اس لئے اس کے ساتھ کذب کا سامعامله کیا جائے یہی محمل ہے آیت کا۔ جو حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

فِإِذْلَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأَوْلَى كَعِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ.

(سو جس صورت میں یہ لوگ موافق قاعدہ کے گواہ نہیں لائے تو پس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹ ہیں ہیں) عند اللہ سے مراد ہے یہاں پر فی دین اللہ فی قانون اللہ یعنی شریعت کے قانون کی رو سے تم جھوٹ ہو تمہارا کہنا سب غلط ہے پس اس تقریر کے بعد یہ شبہ نہ رہا کہ محتمل الصدق کو جزماً کیے کاذب فرمادیتے تھے۔

حکیم محمد مصطفیٰ صاحب نے اس آیت سے ایک عجیب مسئلہ استنباط کیا ہے کہ حسن ظن کیلئے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ سوء ظن کے لئے دلیل کی ضرورت ہے۔

ملفوظ ۱۸۲: بڑوں کو حوصلہ ہوتا ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بڑوں کو حوصلہ ہوتا ہے وہ درپے آزاد نہیں ہوا کرتے اور نہ ضرر پہنچاتے ہیں جھوٹے ہی نقصان پہنچایا کرتے ہیں اس لئے واسرائے سے ڈرنے کی اتنی ضرورت نہیں جتنی کاشیبل سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔

ملفوظ ۱۸۳:

ظاہری تعظیم سے کیا ہوتا ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آجکل تو یہ حالت ہے کہ جہاں عموم نے تعظیم کرنی شروع کر دی بس بڑے ہو گئے۔ فرمایا اس ظاہری تعظیم سے کیا ہوتا ہے جبکہ لوگوں میں لوگوں کے وقعت نہ ہو۔ تعظیم تو بعض اوقات دفع ظلم کیا جی بھی کرنے لگتے ہیں ایسی تعظیم بھی ذات ہی کھلااتی ہے۔ اور اگر بظاہر تعظیم نہ ہو مگر دل میں وقعت ہو عظمت ہو یہ حقیقی تعظیم ہے۔ دیکھئے مخفظ ظاہری تعظیم کی حقیقت اس مثال سے سمجھی میں آجائے گی مثلاً خدا نہ کرے یہاں پر اس مجلس میں سانپ نکل آئے تو سب تعظیم کے لئے کھڑے ہو جائیں گے مگر اس کے ساتھ ہی جو تاکی بھی تلاش ہو گی۔ بس اس سے زیادہ وقعت نہیں ظاہری تعظیم کی۔

ملفوظ ۱۸۴:

گلستان بوستان جلیسی کتابوں کی برکت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت گلستان بوستان بھی عجیب کتابیں ہیں مگر اس زمانہ میں ان کی وہ قدر ہی نہیں رہی لوگوں نے انصاب ہی بدلتے۔ فرمایا کہ یہ کچھ بات ہے یہ اتنی بڑی کتابیں ہیں کہ بجائے بچپن میں پڑھنے کے ان کو بڑا ہو کر پڑھنے تب کچھ سمجھیں میں آسکتی ہیں مگر اس کا عکس ہو رہا ہے کہ جو زمانہ تاکہی کا ہوتا ہے اس وقت پڑھاتے ہیں تمیز بھی نہیں ہوتی کہ مطلب کتاب کا ہے کیا میری رائے یہ ہے کہ جیسے قرآن شریف بچپن میں بھی پڑھا جاتا ہے اور بڑے ہو کر بھی اسی طرح یہ کتابیں پڑھی جایا کریں۔

یعنی قرآن شریف کی بچپن میں تو مخفی عبارت پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور بڑے ہو کر اس کے معانی و مطالب کو پڑھتے ہیں اسی طرح ان کتابوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہئے کہ بچپن میں برکت کیلئے مخفی عبارت سرسری ترجمہ سے یاد کریں اور بڑے ہو کر معانی اور مطالب کو سمجھیں۔ ادب، انتیاد، تواضع، حیا، شرم یہ سب انہیں کتابوں کی برکت سے پیدا ہوتی ہے۔

اس نئی تعلیم نے ان چیزوں کا بلکہ علمی استعداد کا بھی ایسا نہ کیا ہے کہ لوگوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ علمی یا اخلاقی کمال ہی پیدا نہیں ہوتا بڑے ہو کر یا فتنہ ان با برکت کتابوں کی تعلیم پائے ہوئے طلباء کے سامنے گردہ ہوتے ہیں۔

۲ رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس بعد نماز جمعہ

ملفوظ ۱۸۵: اپنے اور دوسرے پر بوجھتہ ڈالنا

ایک صاحب نے استشفاء پیش کر کے عرض کیا کہ اگلے جمعہ کو اس کا جواب لے لیا جائے گا اس لئے کہ جلدی جواب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہ صحیح ہے مگر اگلے جمعہ تک یہ کاغذ امانت کس کے پاس رہے گا۔ کیونکہ کام کی کثرت کی وجہ سے مجھ پر اس کا بارہوتا ہے۔ عرض کیا کہ حضرت کی سہولت کیلئے ایسا عرض کیا گیا فرمایا یہ بھی صحیح ہے مگر جس وقت لکھ کر تیار ہو جائے آخر کس کو دوں تاکہ امانت کا بارہتہ رہے عرض کیا کہ حافظ صاحب کو دیدیں فرمایا کہ آپ یہی بات ان سے کہلوادیں کیا خبر ان کو قبول بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ آکر مجھ سے کہہ دیں۔ میں ان کو دیدیوں گا۔ حافظ صاحب نے آکر عرض کیا کہ حضرت جواب تحریر فرمائی کہ مجھ کو دیدیا جائے۔

فرمایاد کیجئے! میں اس قدر احتیاط کرتا ہوں کہ براہ راست ان سے کہنا نہیں چاہا۔ شاید میرے اثر سے عذر نہ کرتے انتظام ایسا ہوتا چاہئے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب حافظ صاحب نے ان کے کہنے سے بار اٹھایا اگر میں خود ان کے پرد کرتا تو اس وقت میری طرف سے سمجھا جاتا۔ اس صورت میں ان کا جی چاہتا یا نہ چاہتا قبول کرتے مجھ کو اتنا بھی کسی پر بار ڈالنا گوارا نہیں۔

حاصل انتظام کا یہ ہے کہ نہ اپنی طرف سے دوسرے پر بارہو اور نہ دوسرے کا اپنے اوپر بلا ضرورست بارہو۔ اس قدر تو میں رعایتیں کرتا ہوں اور پھر بھی سخت مشہور کیا جاتا ہوں۔

ملفوظ ۱۸۶: مسلسل کام کی برکت اور حضرت کا معمول

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کے یہاں مہمان بھی آتے ہیں۔ ڈاک کا کام بھی بڑا زبردست ہے اور بھی مختلف کام مختلف لوگوں کے ہوتے رہتے ہیں۔ اور گھر کے تمام معاملات کا بھی انتظام اور پھر اس قدر تصانیف!

فرمایا کہ یہ حق تعالیٰ ہی کا فضل ہے بات یہ ہے کہ مہمان بیچارے آتے ہیں مگر متبع ہو کر نہیں آتے اسلئے انتظام کا نہیں ہو جاتا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ میں اس وقت مشنوی کی شرح لکھ رہا تھا۔ وقت معمول پر میں نے مولانا کی آسائش اور راحت کا انتظام کر کے اجازت چاہی کہ میں تھوڑا سا لکھ آؤں فرمایا جی ضرور! آپ اپنا حرج نہ کریں۔ میں نے یہ کیا کہ تھوڑا سا کام کر کے فوراً حاضر ہو گیا۔ اگر تھوڑا تھوڑا کام بھی روزانہ ہوتا رہے تو ایک برکت ہوتی ہے مدد و ملت کی۔ اگر سلسلہ ثبوت جاتا ہے تو اس میں ایک قسم کی بے برکتی ہو جاتی ہے۔

ملفوظ ۱۸۷: خط کے جواب میں تاخیر نہ کرنا

فرمایا! کہ مجھ کو ڈاک کا بڑا اہتمام ہے کہ روز کے روز فارغ ہو جاؤں اس میں طرفین کو راحت ہوتی ہے اور ہر تو میں فارغ مجھے راحت اور ہر خط کا جواب پہنچ جائے اس کو راحت۔ انتظار کی تکلیف نہ ہو۔

آج ہی مولوی صاحب سہارن پور سے صرف اس سبب سے آئے کہ ان کے خط کے جواب میں ایک دن کی دیر ہو گئی تھی اس لئے خود آئے محض اس خیال سے کہ کھانی کی تکلیف تھی کہیں زیادہ تکلیف تو نہیں بڑھ گئی جو جواب نہیں بھیجا اور علاوہ اس کے وور دراز سے خطوط آتے ہیں جن میں نئی نئی ضروریات ہوتی ہیں اس لئے روزانہ ڈاک نہ نہادتا ہوں اپنی طرف سے اس کا انتظام رکھتا ہوں کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور انتظار کی تکلیف تو مشہور ہے۔

ملفوظ ۱۸۸: دوسروں کو آز اور کھنا، خاص مشورہ نہ دینا

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت قصیہ میں ایک عالم مدرس کی ضرورت ہے اگر حضرت مولوی صاحب سے فرمائیں اور وہ قبول فرمائیں تو اہل قصیہ کو امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ بہت نفع ہو گا۔ فرمایا کہ فرماتا تو بڑی چیز ہے میں تو ایسے معاملات میں رائے بھی کسی کو نہیں دیتا۔ بلکہ خود صاحب معاملہ کے مشورہ لینے پر بھی کہہ دیتا ہوں کہ مجھ کو آپ کے مصالح اور حالات کا کما حق، علم نہیں میں مشورہ سے مخذور ہوں آپ خود اپنے مصالح پر نظر کر کے جو اپنے لئے بہتر مناسب خیال کریں عمل کر لیں۔ ہاں دعا سے مجھ کو انکار نہیں۔ عاقیت اسی میں ہے میں کسی کے معاملات

میں دخل نہیں دیتا۔ ہر شخص کو آزادی ہے البتہ شریعت کے خلاف وہ کام نہ ہو پھر اجازت ہے۔ مولوی صاحب یہاں پر موجود ہیں ان سے خود تمام معاملات طے کر لیے جائیں۔ میری طرف سے بالکل آزادی ہے میرا معمول ہے کہ اگر دونوں طرف جائز بات ہو تو کسی جانب پر مجبور نہیں کرتا۔ بلکہ دونوں طرف آزادی دیتا ہوں حتیٰ کہ اگر کسی ایک شق میں میری بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے بھی اپنے مصالح پر ان کے مصالح کو ترجیح دیتا ہوں اور نہایت صفائی کے ساتھ اپنی اس تحریر کو ظاہر کر دیتا ہوں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اپنے بزرگوں کی دعا کی برکت سے میری کوئی بات الجھی ہوئی نہیں ہوتی ہر بات نہایت صاف ہوتی ہے اگر مخاطب ذرا بھی فہیم ہو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔

ملفوظ ۱۸۹: پرانی باتیں، پرانے لوگ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ بڑے آرام کی چیزیں ہیں پرانی۔ اس پر فرمایا کہ مثلاً یہ فرش ہے اس پر اگر دس کی جگہ گیارہ بارہ تیرہ بھی بیٹھ جائیں تب بھی تنگی نہیں ہوتی اگر کر سیاں ہوں تو ایک بھی زائد نہیں بیٹھ سکتا اسی طرح سب پرانی باتیں بزرگوں کی اور دنیا اور دین دونوں کی راحت کو جامع ہوتی ہیں آجکل کی باتیں لوگوں کی چکنی چپڑی تو ضرور ہوتی ہیں مگر ان میں نور نہیں ہوتا اور ان حضرات کے کلام میں ایسا نور ہوتا ہے گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آفتاب نکل آیا آخر مقبولین اور غیر مقبولین میں کوئی فرق تو ہونا ہی چاہئے مگر اس نور کے ادراک کے لئے بصیرت کی ضرورت ہے کیونکہ بعض اوقات ظاہر اباظل میں آب و تاب ہوتی ہے اور حق میں ظاہراً کم رونقی۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کبھی پیش اب صاف ہوتا ہے اور پانی بمقابلہ اس کے گدلا ہوتا ہے اسی طرح مقبولین اور غیر مقبولین کے اقوال و افعال میں جو فرق ہوتا ہے وہ صورت کا نہیں ہوتا بلکہ بعض مرتبہ صورۃ غیر مقبولین کا کلام اچھا معلوم ہوتا ہے الفاظ نہایت بڑے اور چست ہوتے ہیں یعنی جو کہ قوله فی الحیوة الدنیا ﴿ کیا آپ کو اس کی گفتگو جو شخص دنیاوی غرض سے ہوتی ہے مزیدار معلوم ہوتی ہے ﴾ اس کی دلیل ہے بلکہ ان میں فرق جو ہوتا ہے وہ حقیقت کا ہوتا ہے جیسے میں نے پیش اب اور پانی کی مثال بیان کی پیش اب ہے صاف مگر ہے ناپاک۔ پانی گدلا ہے مگر ہے پاک۔

شیخ محقق کی تعلیم کا طریقہ

ملفوظ ۱۹۰:

فرمایا! کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ مجھ میں عادت بدکاری کی ہے اس پر حضرت والا نے جواب میں تحریر فرمایا اگرچہ وہ ناچاہو تو کیا قدرت نہیں؟ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عادت کی وجہ سے کبھی ہمت نہیں ہوتی اس کے ترک کی گوقدرت ہوتی ہے۔

مقصود یہ تھا کہ ہمت کی تدبیر بتلا دی جائے۔ فرمایا کہ میں نے جو لکھا ہے دیکھوں اس کا کیا جواب دیتے ہیں اول ہی مرتبہ میں تدبیر نہیں بتاتا اس کی قوت عملی اور ارادہ کو معلوم کرتا ہوں اس کے بعد جب وہ ہمت کے بعد عاجز ہو جاتا ہے۔ تب تدبیر بتاتا ہوں اور اس تدبیر کی قدر بھی جب ہی ہوتی ہے کہ وہ ہمت کر کے مالیوں ہو جائے۔ ورنہ یوں تو ہر امر میں دو درجے ہیں۔ ایک عمل کا درجہ ہے اور ایک سہولت عمل کا۔ ہر شخص کا خود تو جی یہ ہی چاہتا ہے کہ سہولت کی تدبیر بتائی جائے۔ مگر شیخ کی طرف سے انتظار ہوتا ہے کہ اپنی کوشش ختم کر کے دکھلا دو جب عاجز ہو جاؤ گے۔ تب اہل تصرف تو اپنے تصرف سے اور اہل تدبیر اپنی تدبیر سے اس کا ازالہ انشاء اللہ کر دیں گے۔

میں نے ایک وعظ میں دلیل ہے یہ بتلا دیا ہے کہ رسول اور نائب رسول کا صرف یہ کام ہے کہ وہ یہ بتلا دیگا کہ یہ کام کرو اور اختیار سے کام لا اول ہی سے طالب کے تابع کیسے ہو جائیں۔ ہر کام طریقہ سے ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریض نے آکر طبیب سے مرض کو ظاہر کیا ساتھ کے ساتھ مرض کا ازالہ بھی ہو جانے یا لکھا۔ اگر مریض مرض کے ازالہ کی مدت بھی طبیب سے دریافت کریگا تو کان پکڑ کر مطب سے باہر نکلوادیا جائے گا۔ اسی طرح امراض روحانی کے علاج کو سمجھ لیجئے اور وہ جواب میں کہے کہ حضور وہ بچے تک۔

اسی طرح مصلح سے کام لینا چاہتے ہیں تو اب مصلح کیا ہوئے نوکر ہوئے مجھ کو تو اس سے بڑی غیرت آتی ہے کہ عوام کا اتباع کیا جائے ایسے اتباع کی مثال تو بازاری عورت اور شریف عنیف گھرستن کی ہی۔ بازاری عورت اپنے اغراض کی وجہ سے ہر قسم کی دلبوٹی کا انتظام

کریگی۔ بناؤ سنگار چکنی چڑی باتیں غرضیکہ دل بھانے کی سب ہی طریق اختیار کریگی اور شریف عفیف گھرستن ناک پر کمھی بھی نہیں بیٹھنے دے گی اس کی ایک شان ہوتی ہے اسی طرح شیخ مزدراور شیخ محقق میں فرق ہے۔

لفظ ۱۹۱: گھر میں پکار کر داخل ہونا چاہئے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ بعضے لوگ اپنے گھروں میں بے پکارے چلے جاتے ہیں بڑی گندی بات ہے نہ معلوم گھر کی عورتیں کس حالت میں ہیں یا کوئی محلہ کی غیر عورت گھر میں ہو اذن لیکر جب بلا یا جائے گھر میں داخل ہونا چاہئے۔

لفظ ۱۹۲: دوسرے کو کام پر مجبور نہ کرنا

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا! کہ اگر کوئی اپنے معاملہ میں مباح شق کو اختیار کرے میں اس کے ساتھ موافقت کر لیتا ہوں اس میں آدمی بہت ہلاکار ہتا ہے۔ میں بحمد اللہ کسی شق کو ترجیح دیکر کسی پر حکومت نہیں کرتا کوئی بات بھی میری اسی نہیں ہوتی جس سے دوسرے کو شبہ بھی ہو کہ یہ حکومت کی راہ سے کہہ رہا ہے اور اس کا خیال میں اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ نہ معلوم دوسرے کا جی چاہے کرنے کو یانہ چاہے تو نہ کسی بات کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور نہ کسی بات سے منع کرتا ہوں نہ معلوم کیا اثر ہو قلب پر گوارا ہو یانہ ہو۔ مباح کے درجہ تک بالکل آزادی ہے۔ مولوی صاحب کے جانے سے اول ولہہ میں خیال ہوا کہ جو کام ان کے پر دھھا اس کام کو کون کریگا مگر میں نے قوت سے اس خیال کی مقاومت کی اور یہ سمجھ لیا کہ هَمَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يَمْسِكَ فَلَا مُرْسِلٌ لَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ﴿اللَّهُ جو رحمت (بارش وغیرہ) لوگوں کیلئے کھول دے سو اس کا بند کر تیوں انہیں اور جس کو بند کرے سو اس کے بند کرنے کے بعد اس کا کوئی جاری کرنیوالا نہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بند کرنے کے بعد اس کا کوئی جاری کرنیوالا نہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ "هو العزیز الحکیم" میں یہ بتلادیا کہ وہ بڑے قادر ہیں جو کام بند ہواس کو جاری کر سکتے ہیں اور جاری کو بند کر سکتے ہیں اور اگر اس بند ہونے سے یہ وسوسہ ہو کہ اس سے تو دین میں نقصان ہوگا تو الحکیم میں فرمادیا کہ ہم حکیم بھی ہیں اگر بند ہی کر دیں تو اسی میں حکمت ہوگی۔

ملفوظ ۱۹۳: فرقہ واریت کا نقصان اور حضرت حاجی صاحبؒ کی نصیحت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ دیوبندیت، وہابیت، بریلویت کے اختلاف سے سخت نقصان مسلمانوں کو پہنچا۔ بدعتی خدا کو کیا بیچانتے ہو نگے جنہوں نے ہم لوگوں کو نہیں بیچانا اس لئے کیسی کیسی تھمیں لگا کیں مگر میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتا مجھ کو قیل و قال سے بڑی وحشت ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مجھ کو جو جس کے جی میں آتا ہے کہہ لیتا ہے اگر میں بھی کہتا تب حقیقت معلوم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسے ہی بزرگوں کی خدمت نصیب ہوئی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کسی سے الجھنا نہیں اگر کوئی تم سے خود الجھے تو وہ کرنا جو ایک نائی نے کیا تھا وہ قصہ یہ ہے کہ ایک نائی سے کسی شخص نے خط بنایا اس نے کہا کہ میرے سفید سفید بال چن دو اس نے ایک طرف سے استرا پھیرا اور بال سامنے رکھ دیجئے ہیں آپ خود چن لیں۔

فرمایا کہ کوئی الجھے تو سب رطب و یا بس اس کے سامنے رکھ کر الگ ہو جاؤ اور کام میں لگو۔

واقعی حضرت حکیم تھے کیسی عجیب بات فرمائی اب جب اپنے پر گزرتی ہے حضرت کے ارشاد کی قلب میں قدر ہوتی ہے کہ چند الفاظوں میں کتنی بات فرمائے۔ بات یہ ہے کہ اس قیل و قال اور رد و کد میں نفسانیت ضرور آ جاتی ہے۔ اور ایک تو باطل کارو ہوتا ہے نیک نیتی سے اور حدود کے اندر یہ تو ما موربہ ہے اور ایک ہوتا ہے محض جدال بد نیتی سے یہ ما مورب نہیں بلکہ اندیشہ ہے کہ اس پر مواخذہ ہو۔

ملفوظ ۱۹۴: طریق کی حقیقت سے بے خبری

فرمایا! کہ آ جکل طریق کی حقیقت سے عوام تو کیا خواص تک ناواقف ہیں اور اس بے خبری کے سبب ہزاروں غلطیوں میں ابتلاء ہو رہا ہے اور غلطی کا سبب اصل یہ ہے کہ اس کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں اور اگر کسی کو توجہ بھی ہوتی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور کام بن جائے۔ جیسے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص بہت عرصہ تک پڑا رہا اس درمیان میں سینکڑوں لوگ آئے اور صاحب نسبت ہو کر چلے گئے مگر یہ اسی خیال میں رہا کہ شیخ اپنے

تصرف سے کچھ دیدیں گے تو لوں گا میں خود کچھ نہ کروں گا۔ شیخ کو اس کی اطلاع ہوئی یا تو کسی کی اطلاع کرنے پر یا بذریعہ کشف انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تم خود ہی کرو گے تو کچھ ہو گا اور تصرف کا اثر نہ ضروری ہے نہ دیر پا ہے مرید کو وسوسہ ہونے لگا کہ شیخ صاحب تصرف نہیں ہیں اس لئے تاویلات کرتے ہیں شیخ کو اس کی بھی اطلاع ہوئی انہوں نے علمی جواب دینا چاہا اس شخص سے فرمایا کہ ایک مذکا پانی کا بھر کر خانقاہ کے دروازہ پر رکھو اور ایک پچکاری مول لا کر ہم کو دو چنانچہ ایسا کیا گیا۔ شیخ دروازہ پر پچکاری لے کر بیٹھ گئے جو شخص گزرتا پچکاری بھر کر اس پر پانی پھینکتے تھے۔

جس پر شیخ کی پچکاری کی ایک چھینٹ بھی پڑ گئی وہی اشہدُ آنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اشہدُ آنَّ مُحَمَّدًا أَعْبُدُهُ وَ رَسُولُهُ پڑھنے لگا۔ ایک ہی تاریخ میں اپنے تصرف سے شیخ نے ہزاروں کافروں کو مسلمان بنادیا۔ پھر اس شخص کو یا اک فرمایا کہ دیکھا شیخ کا تصرف مگر تجھ سے چکل ہی پسواوں گا یا تو پیسو اور نہیں تو منہ کالا کرو۔ تب اس شخص کی آنکھیں کھلیں اور اپنی اس حرکت پر ندامت ہوئی تو بہ کی اور کام میں لگ گئے۔ بغیر طلب کچھ نہیں ہوتا۔ طلب ضرور دیکھی جاتی ہے۔ پھر جب طلب ہے تو فرمائیں کیسی بعد طلب جب عاجز ہو جاتا ہے اس وقت رحم آتا ہے اور اس وقت عنایت سے کام بن جاتا ہے۔

یہ مضمون ایک مثال سے سمجھ میں آجائے گا مثلاً ایک بچے کو جس نے ابھی چلنے نہیں سکتا اس کو ایک پچاس قدم کے فاصلہ پر کھڑا کر کے باپ دور سے اسکی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے کہ بینا آؤ۔ حالانکہ باپ جانتا ہے کہ یہ ان پچاس قدم کو اس حالت میں جبکہ یہ چلنے بھی نہیں جانتا۔ پچاس برس میں بھی طبیعتیں کر سکتا مگر اس کی رغبت اور طلب کا امتحان مقصود ہے اس کے ہاتھ بڑھانے پر بچے کے اندر ایک حرکت پیدا ہوئی اور اس طرف بڑھا اور گر پڑا مجھ سے اس طلب اور رغبت پر باپ کا دل رہ نہ سکا دوڑ کر گود میں اٹھا لیا۔

اسی طرح حق تعالیٰ کا معاملہ بندے کے ساتھ ہے کہ جوان کی راہ پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے فھوائے لَنَهَدِّيْنَهُمْ سُبْلَنَا وَهُنَّا غُوش رحمت میں لے لیتے ہیں اور اس دشوار گز اور راہ کو آن واحد میں طے کر دیتے ہیں مگر یہ حرکت تو شروع کرے گو وہ حرکت قطع مسافت میں کافی نہیں کیونکہ

محبوب میں اور طالب میں جو مسافت ہے وہ محبوب ہی کے قطع کے ہو سکتی ہے محبت کے قطع کے قطع نہیں ہو سکتی مگر طلب شرط ہے ہم کو اپنا کام کرنا چاہیے یہ باتیں بدلوں کام کئے سمجھے میں نہیں آ سکتیں جیسے کھانا بدلوں کھائے اس کا ذائقہ معلوم نہیں ہو سکتا ذائقہ کا معلوم کرنا کھانے پر متوقف ہے جانے پر کفایت نہیں ہوتی۔ طلب پر فرماتے ہیں۔ *وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا نَهَدِيْنَاهُمْ سُبْلًا* (۱) اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے قرب و ثواب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھادیں گے۔ اور طلب نہ ہونے پر فرماتے ہیں: *أَنْلِزْ مُكْمُوْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كُرْهُوْنَ* (۲) تو میں کیا کروں مجبور ہوں کیا ہم اس دعویٰ یاد لیں کو تمہارے لگے مژہ دیں گے)

۱۳۵۰ھ مجلس خاص یوقت صبح یوم شنبہ

ملفوظ ۱۹۵: عبادت میں جی نہ لگنا

فرمایا! ایک خط آیا لکھا ہے کہ گزر شش دنوں میں سے خادم خدام کی حالت نہایت ناگفتہ ہے نماز میں جی لگتا ہے نہ ذکر میں نہ کلام مجید پڑھا جاتا ہے اور دنیا کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ بس ایک عجیب گول گول حالت ہو رہی ہے۔ میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کام تو جس طرح بن پڑے کرنا ضروری ہے خواہ ناقص ہی ہو تکمیل کا یہی طریقہ ہے اگر بدندوں اس لئے مشق کرنا چھوڑ دے کہ اچھا نہیں لکھا جاتا تو اس کو اچھا لکھنا بھی نہ آئے گا۔

اسی سلسلہ میں فرمایا کہ عمل ناقص کو بھی چھوڑنا نہیں چاہئے جیسے بنیاد کے مضبوط ہونے کا تو اہتمام کرتے ہیں مگر اس کے خوش نہا ہونے کے پیچھے نہیں پڑتے اس میں روزے وغیرہ بھروسیتے ہیں اور بعد میں اس پر بڑے بڑے محل اور کوٹھیاں تیار ہوتی ہیں اسی طرح عمل ناقص بنیاد ہے عمل کامل کی بنیاد کے کمال اور نقصان پر نظر نہ کی جائے جو کچھ اور جس طرح ہو سکے کرتا رہے اصول کے موافق ہو چاہے اس میں نقصان ہی ہو جیسے نماز گو ناقص ہی ہو مگر ہو خود میں وہ ہو جاتی ہے بلکہ ایسی عبادت پر اجر زیادہ ہوتا ہے جس میں جی نہ لگے کیونکہ وہ مجاہد ہے۔

یہ طریق بہت بھی نازک ہے مخصوصاً میں پڑھ لینے سے کام نہیں چل سکتا فہم کامل اور

ذوق سلیم کی ضرورت ہے اور یہ اس کو عطا ہوتا ہے جس پر حق تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں۔

قوت ایمانی کے کر شے ملفوظ ۱۹۲:

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت دین کے اندر بھی ہمت اور قوت کی ضرورت ہے؟ فرمایا بڑی ضرورت ہے مگر چند ہی روز تعب ہوتا ہے پھر سہولت ہو جاتی ہے اور سہولت کے بعد بھی اجر اس ہی مشقت کی حالت کا ملتا رہتا ہے پھر قوت کی بھی قسمیں ہیں اس تقسیم قوت پر یاد آیا کہ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جو فضیلت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہے اس فضیلت کے اسباب میں سے ایک سبب قوت بھی ہے چنانچہ وہ قوت اس طرح ظاہر ہوئی کہ باوجود اس کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان قوت دینیہ کی ظاہر ہے مگر جس وقت مانعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور نصوص و جوب زکوٰۃ میں تاویل کی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان (مانعین زکوٰۃ) سے جہاد کی تیاری کی یہ ایسا وقت تھا کہ ادھر تو حضور ﷺ کی وفات کو زیادہ زمانہ نگز را تھا ادھر تمام اشکرا اسلامی دوسرے مقامات پر جہاد کیلئے گئے ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس ارادہ سے تمام صحابہ میں پہلی پڑگئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے بھی اس کے خلاف تھی کہ یہ وقت ان لوگوں سے جہاد کا نہیں مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مدینہ سب خالی ہو جائے اور کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے تو بھی میں اکیلا جہاؤ کروں گا۔ اور زکوٰۃ بدلوں وصول کئے نہیں رہ سکتا۔ جو چیز حضور کے زمانہ میں جاری تھی اس کو بند نہیں کرنے دوں گا۔

یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی رائے بدل گئی یہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قوت قلبی کا اندازہ ہو سکتا ہے مصالح کی بھی پرواہ نہیں کی اور زکوٰۃ وصول کی۔ سب ڈھنیا پڑ گئے اور اس ہمت سے تمام عرب پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رعب اور ہیبت چھاگلنی لہ ایک دم سے سب کام شروع کر دیئے اور اشکروں کو چاروں طرف منتشر کر دیا معلوم ہوتا ہے ان کے پاس مقامی فوجی قوت بہت زیادہ ہے ورنہ کوئی بے وقوف سے یہ وقوف بھی اپنی قوت کو منتشر نہیں کر سکتا تو اس سے رعب چھاگلیا۔

قوت کی ایک اور حکایت ہے! علاء بن حضری ایک صحابی ہیں جس وقت اسلامی شکر ۔ رجھرین کو روانہ ہوئے ہیں درمیان میں سمندر حائل تھا کنارے پر پہنچ کر سب نے رائے دی کہ کشتیوں کا انتظام کیا جائے انہوں نے فرمایا کہ خلیفہ رسول اللہ ﷺ نے تاکید فرمائی تھی کہ کہیں نہ ہرنا نہیں میں نہ ہر نہیں سکتا بھی جاؤں گا اور حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ! آپ نے مویٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستہ دیا تھا ہم نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے غلام ہیں ہم کو بھی سمندر میں راستہ دی دیجئے یہ کہہ کر سمندر میں گھوڑا ذال دیا پھر تو سب ساتھ ہو لئے اور صاف سمندر سے پار ہو گئے دیکھنے کے قابل بات یہ ہے کہ اس پر اطمینان کس قدر تھا خطرہ تک اس کے خلاف کا قلب پر نہیں گزرا۔ کیا ٹھکانہ ہے قوت ایمان یہ کا کون ان حضرات کی ریس کر سکتا ہے۔ آجکل باقی بھارتے پھرتے ہیں۔ پہلے ان جیسا ایمان تو اپنے اندر پیدا کر لیں تب اس کا یہ ہوا کہ بہت چھاگٹی تمام بھریں پر کہ یہ آدمی ہیں یا فرشتے۔ قوت وہ چیز ہے۔

ملفوظ ۱۹: پہلے کام شروع کرو پھر سہولت ہو گی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ یہ مرض عام ہو گیا ہے چاہتے یہ ہیں کہ سہولت پہلے ہو اس کے بعد کام شروع کریں۔ شرائع کی خاصیت یہ ہے کہ پہلے کام شروع کریں اس کے بعد سہولت ہو گی لوگوں نے اس کا عکس کر رکھا ہے بڑی چیز اس طریق میں شیخ پر اعتماد ہے بدلوں اس کے کام چل نہیں سکتا پھر سہولت کا انتظا کیسا۔

ملفوظ ۱۹۸: تمام مجاہدات و اشغال کا مقصود

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تمام مجاہدات و ریاضات و مرائب و اشغال سے مقصود یہ ہے کہ توجہ الی اللہ میں قوت ہو جائے اور اس کیلئے جو کچھ شغل وغیرہ شیخ تعلیم کرتا ہے یہ سب طریق طبی کی طرح ہے جو محض مذاہب کا درجہ رکھتا ہے مقصود کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح قلب کا جاری ہو جانا جو مشہور ہے وہ بھی کوئی چیز نہیں بلکہ اہل تجربہ نے اس

سے بھی منع کیا ہے کہ محض قلب سے ذکر کا خیال رکھا جائے اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر زبان سے جاری رکھو خواہ قلب بھی حاضر نہ ہو کیونکہ قلب سے ذکر کا خیال رکھنا اس کا دوام مشکل ہے اور دیر پا بھی نہ ہوگا۔ زبان سے ذکر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ کوئی وقت بھی ذکر سے خالی نہ جائیگا اور قلب چونکہ ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا اس لئے اس میں ذہول ہونا بعید نہیں پس زبان سے بھی ذکر جاری رکھنا احוט و اسلم ہے۔

ملفوظ ۱۹۹: آج کل کے تعلیم یافتہ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ آج کل کے جدید تعلیم یافتہ انگریزی خواں اپنے کو بڑا ہی قابل سمجھے ہیں مگر انہیں خاک بھی قابلیت نہیں ہوتی۔ اکثر سفر میں اتفاق ہوا ان لوگوں سے گفتگو کا۔ تجربہ سے معلوم ہوا کہ چند الفاظ ہیں جو ان لوگوں کو یاد ہیں باقی خاک نہیں آتا جاتا۔

میں جس زمانہ میں سفر کرتا تھا ایک مقام پر بلا یا گیا تھا وہاں پر وعظ بھی ہوا تھا وعظ کے قبل ایک صاحب جنسلیں صورت آئئے اور کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ علی گڑھ کانج کے لوگوں سے نفرت رکھتے ہیں میں نے سوچا اگر کہتا ہوں کہ نفرت ہے تو ان کی دل آزاری ہو گی اور اگر نہیں کہتا تو چاپلوسی ہے جو واقع کے خلاف ہے اس لئے کہ بعض وجوہ سے نفرت تو ہے ہی۔ اللہ نے دل میں جواب ڈال دیا۔ میں نے کہا کہ علی گڑھ والوں کی ذات سے تو نفرت نہیں مگر افعال سے نفرت ہے کہنے لگے کہ وہ کیا افعال ہیں؟ میں نے کہا ہر قابل کے افعال جدا ہیں کہنے لگے مثلاً میرے کیا افعال ہیں۔ میں نے کہا کہ مجمع میں ظاہر کرتا مناسب نہیں۔ نیز ابھی نہ مجھ کو یہ اطمینان کہ آپ نیک نیتی سے پوچھ رہے ہیں نہ آپ کو یہ اطمینان ہو سکتا ہے کہ یہ خیر خواہی سے کہہ رہا ہے اس لئے اچھی صورت یہ ہے کہ آپ چند روز میرے پاس خاموشی سے رہیے۔ جب جانبین ایک دوسرے سے مطہر ہو جائیں گے اس وقت بتانا مفید ہو سکتا ہے پھر کچھ نہیں بو لے سمجھ گئے۔ یہ جواب ایسا ہوا کہ نہ وہ مجھ کو متعصب کہہ سکتے تھے اور نہ چاپلوسی بھی جا سکتی تھی۔ میں ایسے موقع پر اس کا بھی خیال رکھتا ہوں۔ کہ مخاطب کی توذلت نہ ہو اور حقیقت واضح ہو جائے۔

اسی سلسلہ میں فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سہارن پور کے سفر کے قصد سے قصہ کے اشیش پر پہنچا اسی گاڑی سے ایک طالب علم جو دہلی سے آئے تھے اترے مجھ سے ملے اور کہنے لگے کہ میں تو آپ ہی سے ملنے کو آیا تھا میں نے کہا کہ میں تو اس وقت سہارن پور جا رہا ہوں میری واپسی تک تم تھانہ بھون ٹھہر و۔ اور اگر جی چاہے بشرطیکہ کسی مصلحت کے خلاف نہ ہو تو سہارن پور چلیے میری طرف سے اجازت ہے۔ دونوں شتوں پر عمل آزادی سے کر سکتے ہو اپنی مصلحت دیکھ لجھے وہ بولے کہ میں سہارن پور ہی چلتا ہوں میں نے کہا کہ نکٹ لے لو۔ انہوں نے کوشش بھی کی مگر گاڑی چھوٹے والی تھی نکٹ نہ مل سکا۔ میں نے کہا گاڑ سے کہہ کر سوار ہو جاؤ اشیش ناوتہ پر پہنچ کر میں نے ان سے کہا کہ یہاں تک کا کرایہ دیکھ رہا ہے لے لو اور یہاں سے سہارن پور تک نکٹ لے لو وہ گئے نکٹ مل گیا آکر کہنے لگے کہ سہارن پور تک کا تو نکٹ مل گیا مگر تھانہ بھون سے ناوتہ تک کے نکٹ کیلئے گاڑ نے کہا کہ ہم معاف کرتے ہیں۔ میں نے کہا رہا ان کی ملک نہیں ان کی حیثیت نوکری ہے انکو کسی کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے یہ معافی معتبر نہیں کرایہ ادا کرنا واجب ہے اور میں نے ان کو ادا کرنے کا طریقہ بتایا کہ تھانہ بھون سے ناوتہ تک کا نکٹ لے کر چاک کر دیا جائے یہ صورت سہل بھی ہے اور مالک کے قبضہ میں بھی پہنچ جائے گا اسی ڈبہ میں چند آریے بھی سوار تھے کہیں اور پر سے آر ہے تھے ان میں ایک انگریزی دال اور ٹپکھرا ر تھا اس نے جو یہ بات سنی کہنے لگا کہ میں اپنی ایک کمزوری بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب میں نے یہ سنا کہ ان کو معافی دیدی اور نکٹ کے دام نہیں لئے تو میں خوش ہوا کہ ایک غریب آدمی کا بھلا ہوا پیسے بچے مگر تمہاری تقریر سے معلوم ہوا کہ میری یہ خوشی بے ایمانی کی خوشی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کی خوبی کی بات ہے کہ آپ نے محسوس فرمایا پھر میں اپنے ہمراہیوں سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگا تو وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ معلوم نہیں ان لوگوں کی معمولی باتیں میں دل کو اتنی کشش کیوں ہوتی ہے ایک نے جواب دیا کہ یہ ان کے سچے ہونے کی علامت ہے سچ میں خاصیت ہے کہ اس طرف کشش ہوتی ہے۔ اب اس ٹپکھرا ر آریہ کا۔ اور گفتگو کرنے کو جی چاہا مجھ سے کہنے لگا کہ

اگر اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا ضرور پوچھے معلوم ہو گا عرض کر دوں گا
نہ معلوم ہو گا اعلیٰ علمی ظاہر کر دوں گا۔ اس نے سوال کیا کہ مثلاً دو شخص بین انہوں نے ایک نیک کام کیا
ایک ہی نیت ہے ایک ہی کام ہے اس کام کا ایک ہی نفع ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک فاعل مسلم
ہے ایک غیر مسلم ہے تو کیا ان دونوں کو اجر و ثواب برابر ہو گا یا نہیں؟ میں سمجھ گیا کہ اس سوال سے
مقصود اس کا یہ ہے کہ جواب تو یہی ملے گا کہ مسلم کو اجر و ثواب ہو گا اور غیر مسلم کونہ ہو گا۔ اس جواب
پر اس کی گفتگو کی گنجائش تھی کہ یہ حکم توبہ التعصب ہے حالانکہ اس کا جواب ظاہر تھا کہ اذا فات
الشرط فات المشروط۔ مگر میں نے اتنی بھی گنجائش نہیں دی دوسرے طرز پر جواب دیا چنانچہ
میں نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ ایسے شاستہ اور مہذب اور داشمند ہو کر ایسی بات پوچھتے ہیں
جس کا جواب آپ کو معلوم ہے کہنے لگا کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کا جواب مجھے معلوم ہے؟

میں نے کہا کہ اس کے مقدمات آپ کے ذہن میں پہلے سے ہیں اور مقدمات کیلئے
مطلوب الزم ہے جب مقدمات کا علم ہے تو نتیجہ کا بھی علم ہے کہنے لگا یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس
کے مقدمات میرے ذہن میں پہلے سے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ابھی بتاتا ہوں سنیے! آپ
کو معلوم ہے کہ مذاہب مختلف سب توحیق نہیں ہو سکتے ضرور ایک ہی حق ہو گا اور باقی سب باطل یہ
معلوم ہے آپ کو؟ کہا کہ جی معلوم ہے۔ میں نے کہا کہ ایک مقدمہ تو یہ ہوا اب یہ بتلائیے کہ
صاحب حق مثل مطبع سلطنت کے ہے اور صاحب باطل مثل باغی سلطنت کے۔ یہ آپ کو معلوم ہے
کہنے لگا کہ ہاں۔ میں نے کہا ایک مقدمہ یہ ہوا آگے سنئے کہ ایک شخص مطبع سلطنت ہے اور ایک
باغی سلطنت اور وہ باغی سلطنت ایک بڑا ذاکر ہے جو بڑا مہرفن ہے انگریزی کی اعلیٰ درجہ کی قابلیت
ہے بیدار مغز ہے دنیا میں اس کا ثانی نہیں مگر باوجود ان سب کمالات کے اس میں ایک ایسی بات
ہے کہ اسکے یہ سب کمالات گرد ہیں اور وہ باغی ہونا ہے کہ سلطنت سے بغاوت کرتا ہے اس پر
گورنمنٹ اس کو پھانسی کا حکم دیتی ہے اس وقت اگر کوئی کہے کہ ہائے بڑا ظلم ہے محض بغاوت کے
ازام میں پھانسی کا حکم دیتی ہے حالانکہ یہ شخص ایسا تھا، ویسا تھا، تو کیا عقلاً کے نزدیک یہ اعتراض

صحیح ہو سکتا ہے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ بس اسی طرح آپ یہاں بھی مجھی دیکھئے۔ یہ آپ کے ذہن میں پہلے سے تھا یا نہیں کہنے لگا۔ ہاں میں نے کہا بس ایسی حالت میں سوال کرنا استفادہ یا افادہ کے لیے نہیں ہو سکتا بلکہ حصل اس سوال کا صرف یہ لکھا ہے کہ میں اپنی زبان سے آپ کو کافر کہوں۔ اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ واقعی مشا میرا یہی تھا کہ ایسی زبان سے کافرنما چاہتا تھا۔ ایسی زبان سے کافرنما میرے لئے لذت کا باعث ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی خوبی ہے مگر میرے لئے نہایت بد نیابت ہے۔ میری اسلامی تہذیب مانع ہے کہ میں بلا ضرورت آپ کو کافر کہوں۔ بلا ضرورت کی قید اس لئے لگائی کہ کافر تو ہم کہتے ہی ہیں مگر میں ہوئے تسبیح پڑھا کریں یہ بھی نہیں وہ شخص لے جدمتائز ہوا۔

پوچھنے لگا کہ آپ کامکان کہاں ہے میں نے کہا کہ ایک گاؤں ہے تھا نہ بھون کہنے لگا کہ میری بد قسمی کہ آپ سے ملاقات نصیب نہ ہوئی میں تو تھا نہ بھون سماج میں جایا کرتا ہوں لیکن پھر دینے کیلئے اب کبھی حاضری ہو گی تو ضرور نیاز حاصل کروں گا۔ میں نے کہا کہ ضرور آئیے آپ کا گھر ہے پھر آیا گیا تو ہے نہیں۔

اہل طاہر کو تقلید سے عار ملفوظ ۲۰۰:

فرمایا! کہ اکثر اہل طاہر ایک بہت بڑی دولت سے محروم ہیں کہ وہ اس طریق باطن کی حقیقت ہی سے بے خبر ہیں اور اس محرومی کا سبب اکثری انکا تکبر ہے یہ مرض بھی کم بخت روح کے لئے سم قاتل ہے ہر شخص ان میں کا مجتہد بنتا ہوا ہے جس کا نشانہ وہی کبر ہے یعنی اپنے کو بڑا بھتنا یہی وجہ ہے کہ ان کو تقلید سے عار ہے جس کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ جہلاء تک اجتہاد کرنے لگے چنانچہ ایک دوست روایت کرتے ہیں کہ ایک غیر مقلد صاحب نماز میں بحالات امامت کھڑے ہوئے جھوما کرتے تھے جب نماز سے فارغ ہو چکے تو ایک صاحب نے جو لکھے پڑھے تھے پوچھا کہ نماز میں یہ حرکت کیسی؟ کہا کہ حدیث شریف میں آیا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو آج تک بھی ایسی حدیث نہ پڑھی نہ دیکھی نہ سنی۔ جس کا یہ مطلب ہو کہ ملکے نماز پڑھواؤ ہم بھی دیکھیں وہ کون

سی حدیث ہے اور کس کتاب میں ہے ایک حدیث کی مترجم کتاب لاکر و کھائی اس میں حدیث تھی اذا ام احد کم فلیخفہ او ترجمہ تھا کہ جب امامت کرے تو بلکل نماز پڑھے آپ نے لفظ بلکل بمعنی خفیف کو بلکل بمعنی حرکت پڑھا اور بلنا شروع کر دیا یہ حقیقت تھی ان کے اجتہاد کی۔

فرمایا کہ حضرات فقہاء رضی اللہ عنہم کے حق تعالیٰ درجات بلند فرمائیں انہوں نے ہمارے ایمانوں کو سنبھال لیا اور نہ چودھویں صدی کے یہ مجتہد ہیں جن کے اجتہاد کی یہ حقیقت اور کیفیت ہے۔

ملفوظ ۲۰۱: لحاظ کرنے والے کو مزید دبانے کا مرض

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ آجکل تو اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ جو لحاظ کرتا ہے اور دیتا ہے اس کو اور دیتا جاتا ہے یہ بات نہیں رہی کہ جو اپنا لحاظ کرے اس کا لحاظ کرنا چاہیے چھوٹوں میں بڑوں میں یہ مرض عام ہو گیا ہے کہ جو کوئی لحاظ کرے ادب کرے اسی کو پہنچتے ہیں۔

ملفوظ ۲۰۲: آجکل کے اخلاق کے معنی کیا ہیں؟

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آجکل تو اخلاق کے معنی عرف میں یہ ہو گئے ہیں کہ بات زم ہو چاہے معاملات کیسے ہی سخت اور مضر ہوں نرم بولنے کا اخلاق سمجھتے ہیں جو اس متعارف اخلاق کے عامل ہیں نیک نام مشہور ہیں میرے اندر یہ متعارف اخلاق اور رسمی باتیں ہیں نہیں مجھ کو بدنام کر رکھا ہے کہ سخت مزاج ہے اب میں علی سبیل التزل کہتا ہوں کہ اچھے میں سخت مزاج ہی کیوں آتے ہو میرے پاس۔ میں بلا نے تھوڑا ہی جاتا ہوں خوب کہا ہے ہاں وہ نہیں وفا پرست جاؤ وہ بے وفا کی جس کو ہو جان ودل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں

ملفوظ ۲۰۳: غیر مقلدین میں بدگمانی کا مرض

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ غیر مقلدین میں بدگمانی کا مرض بہت زیادہ ہے دوسروں کو حدیث کا مخالف ہی سمجھتے ہیں۔ اور اپنے کو عامل بالحدیث۔ ان کے عمل

بالمحدث کی حقیقت مجھ کو تو ایک خواب میں زمانہ طالب علمی میں بتا دی گئی تھی گو خواب جنت شرعیہ نہیں لیکن مؤمن کیلئے بشرات میں سے ضرور ہے جبکہ شریعت کے خلاف نہ ہو بالخصوص جبکہ شریعت سے متاید ہو۔

میں نے یہ دیکھا کہ مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی کے مکان پر ایک مجتمع ہے اس کو چھاچ تفہیم ہو رہی ہے ایک شخص میرے پاس بھی لا یا مگر میں نے لینے سے انکار کر دیا۔

حدیث میں دودھ کی تعبیر علم اور دین آئی ہے پس اس میں ان کے مسلک صورت تو دین کی ہے مگر اس میں روح اور حقیقت دین کی نہیں جیسے چھاچ میں سے مکھن نکال لیا جاتا ہے مگر صورت دودھ کی ہوتی ہے۔

ملفوظ ۲۰۷: اب ہر شخص مجتہد ہے

فرمایا! کہ اجتہاد تو آج کل اس قدر ستا ہو گیا ہے کہ ہر شخص مجتہد ہے جسے دیکھوڑیزہ ایٹ کی مسجد بنائے الگ بیٹھا ہے اب اجتہاد کیلئے علم کی بھی ضرورت نہیں رہی ایسی حالت ہو رہی ہے جیسے بخوبی میں ایک فارسی داں نے ایک عالم کا رد لکھا تھا کسی نے کہا کہ آپ تو عالم نہیں عربی نہیں پڑھی آپ نے کیسے ایک عالم کا رد لکھا کہنے لگے کہ ہم فارسی جانتے ہیں اور فارسی جانے والا سب چیز جانتا ہے ایک نہایت غریب آدمی مگر ہیں وہ بھی اس کوں رہا تھا۔ وہ گھر پہنچا اور چار پائی کا ایک ڈھانچہ لیا اور ایک بانوں کی لندی لی ان کے مکان کے دروازہ پر پہنچ کر آواز دی۔ قاضی صاحب قاضی صاحب! وہ مکان سے نکل کر آئے۔ کہتا ہے کہ حضرت میں غریب آدمی ہوں مجھے خود تو نہیں نہیں آتا پیسہ پاس نہیں جو مزدوری دیکر بتوالوں یہ میری چار پائی ہے اس کو اللہ کے واسطے بن دیجئے۔

قاضی صاحب یہ سن کر بہم ہوئے اور کہا یہ کیا نامعقول حرکت ہے ہم کیا جائیں چار پائی بننا۔ کہا کہ حضرت میں نے سنا تھا کہ فارسی پڑھا ہوا شخص ہر چیز جانتا ہے۔

قاضی صاحب کو اپنی حقیقت معلوم ہو گئی اور سمجھ گئے کہ یہ اس کا جواب ہے اس پر فرمایا کہ شباب! اس شخص نے بڑی ہمت کی۔ غریب آدمی اور اتنی بڑی ہمت! بعض لوگ بڑے ہی

باہمت ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ دین کے سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں جیسے ان قاضی صاحب نے
محض فارسی کے بولنے پر ایک عالم کا رد لکھنے کی ہمت کی تھی۔

۱۳۵۰ھ میں بعد نماز ظہر یوم شنبہ رمضان المبارک کے مجلس

ملفوظ ۲۰۵: ایک صاحب کا سلیقہ کا خط

فرمایا! کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ احکام شریعت میں کچھ جانتا ہوں
اور جس قدر جانتا ہوں حتیٰ الامکان اس پر عمل بھی کرتا ہوں مگر وہ چیز نہیں جانتا جو بزرگوں سے
ملا کرتی ہے وہ چیز حضرت سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اس کے حصول کا طریقہ، فرمایا کہ یہ اگر اپنی ہی
ہائکتے رہتے تو چکر ہی میں رہتے اب صاف لکھا اور سلیقہ سے لکھا میں اب انشاء اللہ راہ بتلوں گا۔
لوگ مجھ کو وہی کہتے ہیں اگر اس طرح پر کھو دکر یہ نہ کروں تو مجھ کو کس طرح اطمینان ہو کہ جس چیز کو
یہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں اس کی حقیقت ہے کیا؟ میں تو اس طرح کام لیتا ہوں جیسے
بچے کی مثال کہ اس سے ہر ہر حرف الگ الگ پوچھا جاتا ہے اس ہی سے بچے نکلوانے جاتے ہیں
میں بھی اسی طرح طالب کو سبق پڑھاتا ہوں اور مطالہ کرتا ہوں جب وہ خود عاجز ہو جاتا ہے۔ اور
تمیز کے ساتھ اپنا بجز ظاہر کر کے پوچھتا ہے تب بتلاتا ہوں۔ قاعدہ سے سب کام ہو جاتے ہیں بے
قاعده کوئی کام نہیں ہو سکتا یہ ہیں وہ چیزیں جن پر مجھ کو بدنام کیا جا رہا ہے۔

خیر کریں بدنام۔ اصول صحیحہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا میرا تو اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ
نفع ہے کہ بدفهموں سے نجات ملتی۔

ملفوظ ۲۰۶: بخطی کا جواب

فرمایا! کہ پہلے ایک صاحب کا خط آیا تھا نہایت بحدے خط کا لکھا ہوا تھا۔ میں نے
جواب میں لکھ دیا تھا کہ میں اب تک یہ سمجھتا تھا کہ میں انگریزی نہیں پہچانتا۔ مگر آج معلوم ہوا کہ
بعض اردو بھی نہیں پہچانتا آج ان کا پھر خط آیا ہے صاف لکھا ہوا ہے۔ عجب ایسی باتوں کا بے فکری
ہے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں کہ ہماری اس بات سے دوسرا کو اذیت ہوگی۔

فرمایا کہ اگر یہ صاحب طالب ہیں دو چار مرتبہ کی خط و کتابت میں سیدھے ہو جائیں گے۔

ملفوظ ۲۰۷: حضرت کا بعض حالات میں خط و کتابت کا خرچ برداشت کرنا
ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بہت سے طالب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے
پاس خرچ نہیں ہوتا تو وہ اس قدر خط و کتابت کو کس طرح برداشت کریں کہ اس کا بھی علاج ہے
میں اطلاع کر دیتا ہوں کہ اگر خرچ پاس نہ ہو مجھ سے خرچ منگا لو اور یہ میں اس وقت لکھتا ہوں جب
وہ ظاہر کرے کہ میرے پاس خرچ نہیں۔ مگر میرے پاس جو خط آئے وہ ضابطہ اور قاعدے سے
آئے اگر کارڈ کے مناسب مضمون ہو جیسے دریافت خیریت و درخواست دعا تو کارڈ بھیج دیں اور
اگر لفافہ کا مضمون ہو جیسے کسی حکم شرعی کا سوال یا اصلاح کے متعلق استفسار لفافہ بھیجیں اور ایسا ہو بھی
ہے کہ ایک شخص نے خط بھیجا میں نے لکھا کہ جواب کیلئے کارڈ کافی نہیں اس نے لکھا کہ لفافہ کے لئے
دام نہیں۔ میں نے لکھا کہ دام ہم سے منگا لو اس نے لکھا بھیج دو۔ میں نے ایک روپیہ بھیج دیا اور لکھ دیا
کہ جب یہ ختم ہو جائے پھر لکھ دینا میں اور بھیج دو نگاہ اور یہ بھی معمول ہے کہ ایک روپیہ سے زائد ایک
مرتبہ میں نہیں بھیجا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عذر کا ایک جواب قلب میں پیدا فرمادیا ہے۔

ملفوظ ۲۰۸: مسلمانوں کو اپنی دولت کی خبر نہیں

فرمایا! کہ میرے جو قواعد اور ضوابط ہیں ان کو اپنی اور دوسروں کی راحت رسانی کے
واسطے میں نے وضع کئے ہیں اور ایسے اصول اور ضوابط سب اسلام کے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ
انگریزوں سے سیکھے ہیں بالکل غلط ہے بلکہ خود انگریزوں نے اسلام سے سیکھے ہیں ہمیں خبر نہیں کہ
ہمارے گھر میں کیا دولت ہے اس جہل کی کوئی انتہا ہے اتنی خبر نہیں اپنی دولت کو دوسروں کی سمجھتے
ہیں اور یہی کیا جس قدر غیر مسلم اقوام ہیں سب وحشی تھیں تو ارتخ اٹھا کر دیکھو پڑتے چل جائیں گا۔ یہ
سب اسلام کی خوبیاں ہیں جو دوسری قوموں نے اختیار کر لی ہیں۔ اور ایسے اصول صحیح سے ہر شخص
متفق ہو سکتا ہے راحت اٹھا سکتا ہے اس میں مسلم اور غیر مسلم کی قید نہیں۔

میں حیدر آباد دکن گیا تھا۔ تقریباً چودہ روز قیام رہا تھا وہاں پر ایک معزز دوست نے

نکال کی سیر کرائی تھی وہاں پر ایک انگریز دکھلانے والا تھا جب وہ تمام مقامات دکھاچ کا اور میں رخصت ہونے لگا میں نے اس انگریز سے کہا کہ آپ کے اخلاق سے بہت جی خوش ہوا آپ کے اخلاق تو مسلمانوں جیسے ہیں میرے اس کہنے کا اس انگریز پر بہت زیادہ اثر ہوا اور بہت خوش ہوا کہ ایک مذہبی شخص نے میری تعریف کی۔ میں نے انہیں یہ ظاہر کر دیا کہ یہ تمہارے گھر کی چیز نہیں کبھی اس پر تازکرو یہ مسلمانوں کے گھر کی چیز ہے جو تم نے اختیار کر لی ہے۔ وہ دوست صاحب جو میرے ہمراہ تھے اور بڑے عہدے پر ممتاز ہیں وہ باہر آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے عجیب بات فرمائی بہت ہی جی خوش ہوا بالکل نئے طرز سے تعریف کی کہ اس کی تعریف بھی ہو گئی اور مسلمانوں کو ترجیح بھی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں نے واقعہ بیان کیا حقیقت یہی ہے حضرت اگر ہمیں اپنے گھر کی خبر ہوتی معلوم ہو کہ کیا کیا دولت گھر میں دفن ہے اور کتنا بڑا اخزانہ ہے مگر پھر بھی یہ حالت ہے مسلمانوں کی

یک سید پر نا ترا بر فرق سر ☆ تو ہمیں جوئی لب ناں در بدر
 تا بر انوئی میاں قعرا ب ☆ وز عطش وز جوع کشتنی خراب
 یعنی سر پر روئیوں کاٹو کر اے گھنٹوں تک پانی ہے نہایت پا کیزہ اور اظیف اور دوسروں
 سے بھیک مانگتے پھرتے ہیں کہ روٹی دیدو پانی دیدو اپنے گھر کی خبر نہیں اس میں سب کچھ ہے ان
 کے پاس کیا چیز نہیں مگر در بدر پھرتے ہیں کہ جرمن سے یہ لے لو اور جاپان سے یہ اور امریکہ سے وہ
 لے لو۔ ارے کیا کھا ہے ان کے پاس انہوں نے تو خود تمہارے ہی گھر سے لیا ہے اور ہم تو الحمد لله
 اب بھی مال دار ہیں مگر خبر نہیں ہم کو کہ وہ دولت حق تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے جو دوسروں کو نصیب
 نہیں اور یہ تو ظاہری دولت ہے باقی جو اصل دولت ہے اس میں تو مسلمانوں کا کوئی بھی شریک نہیں
 وہ ایمان ہے اور ایمانی اخلاق۔

ملفوظ ۲۰۹: مختلف مسائل جمع کرنے پر حضرت کاظیف جواب

فرمایا! کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے اس میں کچھ حالات باطنی کے متعلق پوچھا ہے کہ

کچھ مسائل فقہی پوچھنے ہیں اور میں بنا بر مصالح خاصہ مختلف مضامین کو ایک ہی خط میں جمع کرنے سے منع کیا کرتا ہوں تو میں جواب میں گویہ لکھتا تھا کہ جس خط میں احوال باطنی ہوں اس میں مسائل مت پوچھا کرو مگر میں نے اس کو احکام کے ساتھ سوء ادب سمجھ کر یہ لکھا ہے کہ جس میں مسائل پوچھنے ہوں اس میں دوسری بات نہ لکھتا چاہئے اصل میں تو جمع کرنے سے منع کرنا ہے مگر چونکہ مسائل اہم اور بڑی چیز ہیں ان کے متعلق اس طرح لکھنا کہ احوال باطنی کے ساتھ مسائل نہ پوچھا کرو۔ ایک قسم کا سوء ادب ہے۔ محمد اللہ میرے یہاں ہر چیز اپنے اپنے مراتب اور حدود پر رہتی ہے۔

ملفوظ ۲۱: **مجمل سوال کی تنتیح**

فرمایا! کہ ایک شخص کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ تہجد کے وقت چار تسبیح پڑھنے کا کیا حکم ہے میں نے جواب میں لکھا ہے کہ حدیث کا یا علماء کا یا مشائخ کا کس کا حکم؟ فرمایا کہ سوال کا طریقہ بتایا ہے اور سوال کو تھیک کرایا ہے تاکہ جواب میں سہولت ہو۔

ملفوظ ۲۲: **علماء کے احترام کی حفاظت**

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ مجھ کو اس کا تحمل نہیں کہ ایک بے علم جاہل کسی عالم پر اعتراض کرے یا اس کی اہانت کرے۔ مگر ایک قصہ ہے وہاں پر ایک جلسہ ہوا تھا علماء کے احترام کیلئے جلسہ گاہ کو سجا یا گیا بلیون پر کپڑا منڈھا گیا پنڈال بنایا گیا۔

بعض علماء دیوبند یہ حالت دیکھ کر وہاں سے واپس ہو گئے اتفاق سے اسی زمانہ میں مدرسہ دیوبند میں لاوس صاحب لفڑت گورنر آئے تھے وہاں ان کیلئے اسی قسم کا تکلف کیا گیا تھا۔

اس پر ایک صاحب نے میرے سامنے اعتراض کیا کہ اپنے لئے مولوی سب کچھ جائز کر لیتے ہیں اور دوسروں کیلئے ناجائز۔ میں نے کہا کہ اکرام ضیف کا اس کے مذاق کے موافق کیا جاتا ہے۔ سو وہاں ضیف تھا ایک دنیادار اس کا احترام بھی تھا اور یہاں ضیف تھے علماء، یہاں ان کا یہ احترام نہ تھا۔ تم کو بالکل فہم نہیں تم دونوں کو ایک ہی بات سمجھتے ہو تو وہوں میں بڑا فرق ہے۔

اس جواب کا نشانہ زیادہ تر یہ تھا کہ عوام کو علماء پر اعتراض کرنے کی جرأت نہ ہو۔ جن صاحب نے اعتراض کیا تھا ان سے یہ میری گفتگو تھی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میں اس کا قرار کرتا ہوں کہ یہ میں نے اس نیت سے جواب نہیں دیا ہے کہ یہ اہتمام اچھا ہے متفق میں بھی ہوں تمہارے ساتھ۔ مگر نیت سے قطع نظر دیکھنا یہ ہے کہ جو جد میں نے بیان کی وہ صحیح ہے یا نہیں۔ کہنے لگے کہ جیسا ہے شک وجہ تو بالکل صحیح ہے۔

میں نے کہا کہ اصل نشانہ اس جواب کا یہ ہے کہ علماء کا اعتقاد عوام کے قلب سے نہ نکلے کیونکہ اس اعتقاد کا کم ہو جانا بڑی خطرناک بات ہے اگر عوام کا عقیدہ علماء سے خراب ہو گیا تو پھر عوام کیلئے کوئی راہ نہیں گمراہ ہو جائیں گے میں تو کہا کرتا ہوں کہ چاہے عالم بعمل ہی کیوں نہ ہو۔ مگر فتویٰ تو جب دیگا صحیح ہی وے گا۔

ملفوظ ۲۱۲: قیمتی اشیاء کے استعمال سے احتراز

فرمایا! کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں جوتا بھیجننا چاہتا ہوں جس کی قیمت دس روپیہ ہے اس پر فرمایا کہ دس روپیہ کی قیمت کا جوتا پہن کر ہمیشہ کے واسطے دماغ سڑ جائے گا اور اس میں ایک راز اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیسے طلبہ کو زیادہ فاخرہ لباس نہیں پہنانا چاہئے۔ اور نہ شان و شوکت سے رہنا چاہیے۔ غریبوں کی طرح رہنا مناسب ہے اس لئے کہ ان کو سابقہ زیادہ تر غرباء ہی سے پڑتا ہے اور ایسی صورت میں رہنے سے ان پر ایک قسم کا رعب اور ہیبت ہو گی وہ استفادہ نہ کر سکیں گے اس لئے میں اس کا بھی خیال رکھتا ہوں ہاں یہ بھی نہ ہونا چاہئے کہ بالکل زدہ حالت میں رہیں جس سے کوئی صورت سوال خیال کرے اگر خداوے تو او سط درجہ میں اہل علم کو رہنا چاہئے خیر الامور اوس طبقہ کا عامل بن کر رہنا چاہئے۔

ملفوظ ۲۱۳: حضرت کی زندگی اور وفات سے متعلق دو خواب

فرمایا! کہ ایک خط آیا ہے لکھا ہے کہ ۲ رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ بر ذ شنبہ یوقت عشا۔ ایک شخص نے مجھ سے حضور کی نسبت کہا کہ رحلت فرمائے اس وقت سے طبیعت پریشان ہے۔

حدرنخ و صدمہ ہے خدا کرے یہ خبر جھوٹ ہو اور حضور کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے قائم رکھیں۔ میں نے جواب لکھ دیا ہے کہ ابھی تو ارادہ نہیں۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ارادہ سے کیا ہوتا ہے فرمایا یہ میں نے کب کہا ہے کہ ارادہ موثر ہے اللہ ہی کے قبضہ میں ہے مگر جی یوں چاہتا ہے کہ ضروری ضروری کام سب ہو جائیں۔ اس پر ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے لئے بڑی خوشخبری ہے یعنی ارادہ نہ ہونا فرمایا کہ یہ تو ایک شاعری ہے۔ عرض کیا کہ شاعری ہو یا کچھ بھی ہو خوش خبری سے خالی نہیں۔ ایک اور مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک طالب علم نے مدرسہ دیوبند میں ایک خواب دیکھا اس میں حضور ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوئے ان طالب علم نے حضور اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ حضور حضرت تھانوی کی کس قدر حیات ہے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ان سے ایک اور خاص کام لینا ہے اس وقت تک حیات ہے۔

احقر جامع کہتا ہے کہ یہ خواب سن کر حضرت والا پر ایک خاص اثر ہوا اور کچھ دریتک حضرت والا پر سکوت کا عالم رہا اس وقت کی کیفیت کا لطف اہل مجلس ہی سمجھ سکتے ہیں۔

ملفوظات: ۲۱۳ اعتكاف اور رجح کا مرض

فرمایا! کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں اعتکاف کیا کرتا ہوں اور اب مرض ہو گیا ہے رجح کا۔ ایسی صورت میں مسجد میں بیٹھنا یا رہنا اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ اعتکاف نہ چھوڑ و اگرچہ ہو ادارہ ہو۔ اس پر ایک مولوی صاحب نے قبضہ آمیز لجھ میں عرض کیا کہ حضرت نہ معلوم وہ کیا سمجھیں گے فرمایا اس سے مراد مسجد کی کھڑکیاں بھی تو ہو سکتی ہیں جو کھلی ہوئی ہوں ان سے ہوا آئیں گے اور اعتکاف ہو گا۔

فرمایا کہ اس ہوا پر ایک حکایت یاد آئی۔ یہاں پر ایک حافظ صاحب تھے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے انہوں نے ایک قاعدہ مقرر کیا تھا اور وہ اس وجہ سے کہ لڑکے وہیں پر بیٹھنے بیٹھنے بدبو پھیلاتے رہتے تھے حافظ صاحب نے پریشان ہو کر حکم دیا کہ باہر جا کر ایسا کرو۔ اب اس کیلئے ضرورت ہوئی اصطلاح کی کہ کیا کہہ کر اجازت لیا کریں؟

حافظ صاحب نے یہ تجویز فرمایا کہ یہ کہہ کر اجازت لیا کرو کہ چڑیا چھوڑ آؤں بس بچوں کو ایک بات ہاتھ آگئی ہر وقت کا ان کیلئے شغل ہو گیا ایک ادھر سے اٹھتا ہے حافظ جی! چڑیا چھوڑ آؤں ایک ادھر سے اٹھتا ہے کہ حافظ جی چڑیا چھوڑ آؤں۔ حافظ جی بے چارے دق آگئے تب کہا کہ اب بیہلیں چھوڑ دیا کرو۔

ملفوظ ۲۱۵: تعویذوں کی فرمائش سے گھبراہٹ

فرمایا! کہ جن خطوط میں تعویذوں کی فرمائش ہوتی ہے ان سے میرا جی گھبراتا ہے ایک صاحب کا خط آیا ہے جس میں ایک ہی قسم کے دس بارہ تعویذوں کی ایک دم فرمائش ہے۔ وابیات لوگوں کو خالی بیٹھنے بیٹھنے ایسی ہی سوجھتی ہے اگر اس طرح تعویذ لکھنے جایا کریں تو ایک محلہ قائم کرنے کی ضرورت ہے باقاعدہ ایک دفتر ہواں میں غشی رہیں تاکہ ان لوگوں کا یہ کام ہو مجھے اتنی فرصت کہاں ایک تعویذ لکھ کر لکھ دوں گا کہ اور جتنی ضرورت ہو۔ آپ خود کسی سے نقل کر لیں۔

ملفوظ ۲۱۶: ایک صاحب سے قیام تھانہ بھون کی وجہ کی دریافت

خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فلاں مقام سے جو صاحب آئے ہوئے ہیں میرے واسطے سے حضرت کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں فرمایا کہ صبح انہوں نے بہت دق کیا جوبات پوچھی گئی ایک کا بھی سیدھا جواب نہ ملا۔ ان سے پوچھنے چاہتے کیا ہیں۔ عرض کیا کہ رہنا چاہتے ہیں فرمایا کہ رہیں میرا کیا حرج ہے مگر رہنا بھی تو کسی نفع کیلئے ہی ہو گا۔ یہ بتا دیں وہ کیا نفع ہے مجھے بھی تو اطمینان ہو کہ ایک شخص اتنی دور سے بال بچوں کو چھوڑ کر روپیہ اور وقت صرف کر کے آیا ہے اس کا مقصود ہے کیا۔ کیا مجھ کو اتنا بھی حق نہیں کہ میں یہاں پر ان کے قیام کی وجہ معلوم کر لوں۔ ان صاحب نے عرض کیا کہ دین کا نفع مقصود ہے فرمایا یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ دین کا کیا نفع سوچا ہے۔ عرض کیا کہ محبت میں خاموش بیٹھنے رہنا اور نیک باتیں سننا فرمایا کہ اگر میں باتیں نہ کروں تو پھر کیا ہو گا۔ عرض کیا میں خاموش بیٹھنے رہنے کو بھی دین کا نفع سمجھتا ہوں۔ فرمایا کہ اتنا دق کر کے یہ ذرا سی بات بتلانی اچھا رہے! اگر صبح ہی اتنی بات بتا دیتے تو کون سا قاضی گلہ کرتا

پچھے نہیں۔ رسمیں ہی خراب ہو گئیں اور اس کا سبب بے فکری اور غفلت ہے اس کا بالکل اہتمام ہی نہیں کہ ہم سے کسی کوازیت نہ پہنچے سخت تکلیف پہنچاتے ہیں اور پیروں کو تو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تو بے حس ہوتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ بت ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فانی فی اللہ ہیں انہیں کیا خبر کچھ ہوا کرے کیا الغو خیالات ہیں۔

ملفوظ ۲۱۷: کام خود کرنا آسان کرانا مشکل

ایک مولوی صاحب نے مھماں و عظ پر کچھ سرخیاں قائم کیں تھیں وہ حضرت والا کو دکھلا کر مشورہ چاہتے تھے اس پر فرمایا کہ پھر آپ ہی کا کیا آرام ملا۔ جب ہربات میں مجھ کو شریک غالب کیا جاتا ہے میں نے اپنی حالت کو دیکھا ہے کہ کام خود کرنا تو آسان اور کرانا کام بہت مشکل ہے۔ یہ میری کچھ طبعی بات ہے اور ہمیشہ سے ہے۔

ملفوظ ۲۱۸: ترجمہ ترجمہ نہ معلوم ہو؟

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ ایک شخص کہتے تھے کہ ایسا ترجمہ ہو کہ ترجمہ سانہ معلوم ہو۔ میں نے کہا کہ کیوں کیا گناہ ہے اس کی تو ایسی مثال ہے کہ ابا کو ایسے کپڑے پہناتا کہ ابا سے نہ معلوم ہوں۔

۸ رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم یکشنبہ

ملفوظ ۲۱۹: ہر عمل پر آمادہ ہو جانا شرط اول ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا! کہ یہ طریق بہت ہی نازک ہے اس میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی شان اپنے کمالات سب کو فنا کر دے اور مصلح کی ہربات اور ہر تعلیم پر عمل کرنے کیلئے اپنے کو آمادہ کر لے اس راہ کیلئے پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا بن جائے فرماتے ہیں۔

در رہ منزل لیلی کہ خطرہ است بجال ☆ شرط اول قدم آلت کہ مجنون باشی

﴿عشق لیلی﴾ کے راستہ جہاں جان کیلئے بہت سے خطرات ہیں۔ اول شرط یہ ہے کہ

مجنوں بن جاؤ۔

حتیٰ کہ جو تیار کھانے کو تیار ہو جائے اور جو جو تیار کھانے کو تیار ہو گیا اس نے گویا جو تیار کھا ہی لیں اور اس کی اصلاح ہو، ہی گئی آمادہ ہوتا ہی تو مشکل ہے اس لئے کہ آمادگی وہی معتبر ہے جو خلوص دل سے ہو اور خلوص دل سے آمادہ وہی ہوتا ہے جو اپنی شان نہیں رکھتا اور یہی اصل چیز ہے کہ اپنے کو منادے فنا کر دے ورنہ مجھ سے جو تیار کھانے سے کیا ہوتا ہے۔

تواضع کے ساتھ تکبر کا اعلان ملفوظ: ۲۲۰

فرمایا! کہ ایک مولوی صاحب کی یہ کوشش ہے کہ ندوہ میں ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے جو اپنے اخلاق سے وہاں کے طلباء کی اصلاح کر سکے۔ مجھ سے بھی انہوں نے ذکر کیا۔ میں نے ایک مولوی صاحب کا نام لیا کہ وہ مناسب ہیں انہوں نے کہا کہ متکبروں کی وہاں کی نہیں متکبر تو وہاں پر بھی بہت ہیں وہاں ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ متکبر نہ ہو۔

پھر فرمایا کہ متواضع بھی ایسا ہو کہ سب کے متکبروں کو توڑ کر نیچا دکھلا دے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ جب اس کو یہ خیال ہو گا کہ میں دوسروں کے متکبر کو توڑ سکتا ہوں کیا یہ تکبر نہ ہو گا فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہو گا گو بظاہر صورتاً تکبر معلوم ہو مگر حقیقتاً تکبر نہیں ایسا تکبر اور تواضع دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ کوئی اس کا دعویٰ کرے کہ میں تکبر کا اعلان کر سکتا ہوں تو یہ تکبر تھوڑا اسی ہے۔

پھر فرمایا کہ تکبر کا مرض ایسا حام ہوا ہے کہ انگریزی مدارس تو پہلے ہی سے بدنام ہیں اور بدنام کیا واقعہ ہے کہ ان میں بکثرت متکبر ہوتے ہیں مگر آجکل عربی مدارس میں بھی یہ بلا موجود ہے متکبرین بھرے ہیں الاما شاء اللہ۔

وجہ یہ کہ بدؤں خاص انتظام کے اصلاح غیر ممکن ہے چاہے عربی مدارس ہوں یا انگریزی اور انتظام نہ ان میں ہے نہ ان میں ہے۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر کوئی علی گزہ میں پڑھے اور طبعی تواضع اس میں

ہوتے کیا وہ باقی رہ سکتی ہے۔ فرمایا کہ نہ رہنا کیا معنی اگر طبعی تواضع بھی نہ ہو وہ بھی کسی کامل کی صحبت سے پیدا ہو سکتی ہے گواں درجہ کی طبعی ہوتی ہے صحبت اگر کسی کامل کی میسر آجائے بڑے کام کی چیز ہے بڑی دولت ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں

یک زمانہ صحبت با اولیاء ہے بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
﴿اولیاء اللہ کی تھوڑی دری کی صحبت سو سالہ اس طاعت سے جو بے ریا ہو بہتر ہے﴾۔

ملفوظ ۲۲۱: شیخ کی خدمت میں ایک خاص مدت تک رہنا

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں اہل طریق کے لئے ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہوں کہ ہر کام سہولت سے ہو جائے حتیٰ کہ بڑے بڑے مقاصد سہولت سے حاصل ہو جاتے ہیں اور یہ موقوف ہے صحبت پر مرید کو شیخ کی خدمت میں ایک مدت خاص تک رہنا ضروری ہے۔ اس سے مقصود میں خاص سہولت ہو جاتی ہے۔

ربا یہ کہ کس قدر مدت میں کام ہو جاتا ہے اس کا تعین مشکل ہے یہ مناسبت پر موقوف ہے اگر اہل استعداد ہوتا ہے بہت جلد کام ہو جاتا ہے۔

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کل پنٹالیس روز رہے اس کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم دے چکے جو کچھ دینا تھا۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت کا یہ فرمانا حضرت کا کہ ہم دے چکے جو کچھ دینا تھا سمجھ میں نہ آیا کہ کیا دیا یا مگر پندرہ برس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ دینا تھا پھر اس پر حضرت مولانا گنگوہی نے حراما فرمایا کہ اگر ہم جانتے کہ یہ چیز ہے تو اتنی محنت کیوں کرتے۔ اس پر حضرت والا نے بھی مزاحا فرمایا کہ مل جانے پر فرماتے تھے ورنہ پندرہ برس تو معلوم ہی ہونے میں لگ گئے۔

ملفوظ ۲۲۲: اس طریق میں مناسبت بڑی چیز ہے

فرمایا! کہ اس طریق میں مصلح کیسا تھا مناسبت ہوتا بڑی چیز ہے بدلوں مناسبت کے طالب کو نفع نہیں ہو سکتا۔ بھی وجہ ہے کہ میں عدم مناسبت کی بناء پر طالب کو مشورہ دیتا ہوں کہ مجھے

سے تم کو نفع نہ پہنچے کا اگر تم چاہو تو کسی دوسرے مصالح کا نام بتلا دوں۔

ملفوظ ۲۲۳: ممکن ہے کہ شیخ کے پیر سے مناسبت نہ ہو

فرمایا! کہ جب حضرت حاجی صاحب نے حضرت مولانا گنگوہی کو بیعت کی اجازت دی مولانا نے اسی وقت عذر فرمایا مگر حضرت نے اصرار سے فرمایا مولانا گنگوہ پہنچے تو ایک بی بی نے مرید ہونے کی درخواست کی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار فرمادیا۔

اتفاق سے حضرت حاجی صاحب گنگوہ تشریف لائے اس وقت حاجی صاحب سے اس بی بی نے شکایت کی۔ حضرت نے مولانا سے فرمایا کہ اس کو بیعت کرو مولانا نے عرض کیا کہ حضرت اب تو آپ تشریف رکھتے ہیں آپ ہی کر لیجئے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحیث جواب دیا جس میں ایک مسئلہ بھی بیان فرمادیا کہ اگر اس کو مجھ سے عقیدہ نہ ہو تم سے ہی ہو پھر فرمایا ہمارے سامنے مرید کرو پھر اس کو مرید کیا مولانا سے ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اس میں مسئلہ کیا ہوا فرمایا مسئلہ یہ ہوا کہ اگر پیر کا بھی پیر ہو اور اس کی طرف میلان نہ ہو (یعنی مناسبت نہ ہو) تو اس سے نفع نہ ہوگا۔

ملفوظ ۲۲۴: یاجوج ماجوج کا حال

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یاجوج ماجوج کی غذا کیا ہے فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا (حضرت کتاب میں بہت دیکھتے تھے اس لئے باتیں زیادہ معلوم تھیں) کہ غذا یاجوج ماجوج کے لشکر کی ایک سانپ ہے جو آسمان کی جانب سے روزانہ گرتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ سکون کافی ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ یاجوج ماجوج کو تبلیغ ہو چکی ہے اس لئے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رات بھر اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور کھودتے ہیں جو ان کے درمیان حائل ہے جس وقت آئے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ انشاء اللہ کل اس کو ختم کر دیں گے انشاء اللہ کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کا نام معلوم ہے اور تبلیغ ہو چکی ہے یہ نئی بات معلوم ہوئی پہلے سے معلوم نہ تھی۔

ملفوظ ۲۲۵:

آئینہ میں تصویر نظر نہیں آتی

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شیشہ میں بھی تصویر ہوتی ہے اس کو دیکھنا کیوں جائز ہے فرمایا میں اس سوال کو سمجھا نہیں شیشہ میں کیسی تصویر ہوتی ہے عرض کیا کہ جب شیشہ انسان دیکھتا ہے تو اس کی تصویر اس میں نظر آتی ہے فرمایا اس میں تصویر کہاں ہوتی ہے غلط ہے اس کی تو صورت یہ ہے کہ یہ آپ کی نگاہ کی شعاع جو اس پر پڑتی ہے وہ شعاع واپس ہو کر چہرہ پر پڑتی ہے تو یہ چہرہ نظر آتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں مری (دکھائی دینے والی چیز) یہ خود ہی ہوتا ہے۔

عرض کیا کہ آج حضرت کے فرمانے سے سمجھ میں آیا بہت عرصہ سے یہ شبہ دل میں تھا فرمایا کہ احکام میں دخل دینا عوام کو اسی واسطے جائز نہیں نہ معلوم کیا گڑ بڑ کریں غرض اس کو دوسرا تصاویر پر قیاس نہیں کر سکتے۔

رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم یکشنبہ

ملفوظ ۲۲۶:

آرام کے وقت دوسرے کو تکلیف دینا

فرمایا! کہ آج ایک صاحب عین آرام کے وقت میرے پاس آئے جس سے مجھ کو اذیت پہنچی۔ اوقات راحت میں کسی کے پاس پہنچ جانا بہت ہی برآ ہے ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت خلاف ادب بھی تو ہے فرمایا سب ہی کچھ ہے مگر لوگوں کو ان باتوں کا مطلق خیال نہیں۔ ان معاملات کو دین کی فہرست ہی سے نکال دیا ہے۔

اسی سلسلہ میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب حضرت یہاں مقیم تھے ایک شخص ایسے وقت آتا کہ وہ وقت حضرت کے قیلولہ کا ہوتا اور وہی اس کے آنے کا ہوتا دو چار روز کے بعد حضرت حافظ ضامن صاحبؒ نے اس شخص کی خوب خبری اور خوب بھی ڈانٹا کہ یہ کیا وابحیات ہے۔ رات بھر تو یہوی کے بغل میں پڑے سوتے ہو اور دوسروں کے آرام کے وقت میں مغلی ہوتے ہو تم کیا جانو! درویشوں کی قدر! بے چارے رات بھر تو جا گیں دن میں اگر وقت ملتا ہے تو آپ آ کر دتے ہیں۔ خبردار! اگر ایسے وقت میں میں نے تم کو یہاں دیکھا تاگیں

تو رُؤْلُوں گا۔ ایسے بے رحم اور ظالموں کا یہی علاج ہے مگر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ مجسمہ اخلاق تھے کوئی آگیا ب پیٹھے ہیں۔

ملفوظ ۲۲۷: کتاب دیکھ کر وعظ کہنے کا معمول

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وعظ سننے کو جی چاہتا ہے فرمایا کہ اب ہت نہیں رہی مسلسل بولنے سے طبیعت گہرا تی ہے اور نہ اب ربط عبارت پر قدرت رہی اور بلا ربط مفہومون کا لطف ہی کیا ہو گا اسی وجہ سے چند روز تک وعظ کی یہ صورت اختیار کی تھی کہ کتاب دیکھ کر بیان کر دیا کروں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ اب دماغ اس کا بھی متحمل نہیں اس لئے اب تو جو کچھ مجلس میں بیٹھ کر بولتا رہتا ہوں یہی بہت کچھ ہے۔

فرمایا کہ کتاب دیکھ کر وعظ کہنے کا معمول مولانا محمد احراق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سنا ہے کہ وہ کتاب سے وعظ فرمایا کرتے تھے اس صورت سے وعظ کہنے سے دماغ پر تعجب نہیں ہوتا۔

ملفوظ ۲۲۸: بیٹھ کر وعظ کہنا

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے میری اس شکایت پر کہ کھڑے ہو کر وعظ کہنے میں تعجب ہوتا ہے بیٹھ کر وعظ کہنے کو فرمایا تھا۔ اس تدبیر پر عمل کرنے سے بڑا فرق معلوم ہوا فرمایا جی ہاں راحت کی تدبیر سے توراحت پہنچتی ہی ہے۔

ملفوظ ۲۲۹: حضرت اور امور تکوینیہ سے عدم مناسبت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ سنا ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کمک معظمه میں جب کوئی پوچھتا کہ میں مدینہ منورہ سلطانی راستے سے جاؤں یا دوسرے راستے سے۔ حضرت کے جو جی میں آتا فرمادیتے کہ فلاں راستے سے جاؤ اس راستے سے جانے میں جانے والا مامون و محفوظ رہتا۔

ای طرح حضرت کے قلب میں ایسے امور میں جوبات آیا کرے فرمادیا کریں فرمایا کہ آتا ہی نہیں عرض کیا اجی حضرت آتا نہیں فرمایا کہ میں عرض کرتا ہوں مجھ کو امور تکوینیہ کے مصالح

سے مناسبت ہی نہیں قلب کی یہ کیفیت ہے کہ جب تک اللہ و رسول کا ذکر رہتا ہے طبیعت خوش رہتی ہے اور جہاں دنیوی قصہ شروع ہوئے مجھے وحشت شروع ہوئی۔ اس کی وجہ بھی آج ہی قلب میں آئی وہ وجہ یہ ہے کہ میں ایک مجدوب کی دعا سے پیدا ہوا ہوں یہ سبب ہے اس حالت کا۔ اس سے پہلے میرے قلب میں یہ وجہ بھی نہیں آئی اور آج بھی قلب میں احتمال آئی ہے احتمال ہی بیان کرتا ہوں کہ شاید یہ وجہ ہو میری اس کیفیت کی اور شاید یہی وجہ ہو کہ مجھ کو بکھیروں سے الجھن ہوتی ہے جی چاہتا ہے کہ ہربات صاف ہو خود بھی اس کا اہتمام رکھتا ہوں اور دوسروں سے بھی یہی چاہتا ہوں مگر لوگوں کو اس کی عادت ہی نہیں۔ ہربات کے الجھانے ہی میں مزا آتا ہے یہی وجہ ہے لوگوں سے لڑائی کی اور بدنامی کی کہ سخت ہے یہ سخت ہے کہ بات صاف کو معاملہ صاف رکھوتا کہ نہ تم کو تکلیف ہو اور نہ دوسرے کو یہ حاصل ہے میری تعلیم کا۔ لوگ اس طریق کے عادی نہیں رہے گویا اس پر قادر نہیں اور میں اسکے عکس پر قادر نہیں۔ میں بھی مجبور ہوں۔

پھر مزاحا فرمایا کہ جب معدہ ضعیف ہوتا ہے مختلف چیزوں کی پختگی نہیں اور جب معدہ قوی ہوا لا بلا سب ہضم۔ لوگ قوی المعدہ ہیں اور میں ضعیف المعدہ۔

ملفوظ ۲۳۰: ابن عربی کے نزدیک شیخ کے صفات

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ ایک رسالہ میں ایک ایسا جامع مضمون لکھا کہ اگر وہ ذہن میں آجائے تو پھر سارے رسالہ کی ضرورت ہی نہ رہے۔

کہتے ہیں کہ شیخ میں دین ہونا چاہیے انبیاء کا سا۔ اور سیاست یعنی دارو گیر تھا سبہ معاقبہ سلاطین کا سا۔ تجویز اطباء کی کہ وہ ہر شخص کا جدا اعلان جدا جدا تجویز سے کرتا ہے ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شیخ میں انبیاء کا سادیں کیسے ہو سکتا ہے فرمایا یہ مراد نہیں کہ ان کے برادر ہو بلکہ مطلب اخلاص میں تشبیہ ہو یعنی اعمال میں غوائل دنیا اور نفس کی خواہشوں کی آمیزش نہ ہو۔ یہ مراد ہے جس میں یہ باتیں ہوں وہ شیخ ہو سکتا ہے۔

ملفوظ ۲۳۱: حضرت حاجی صاحب کی وجہ سے اتحاد

ایک سلسلہ نفتوں میں فرمایا! کہ مولوی صاحب ذرا بدعت کی طرف مائل تھے اور ہمارے بزرگوں کی نسبت کہا کرتے تھے کہ ان وہابیوں میں اتحاد بہت ہے پھر مزاہ اس کی وجہ میں کہتے کہ یہ سب اس بڑھ کی برکت ہے اس سے مراد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔

ملفوظ ۲۳۲: اہل خانقاہ کو ایک دوسرے سے محبت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہاں کے قانون میں داخل ہے کہ کوئی کس سے زیادہ نہ ملنے کوئی کسی کے جگہ میں جائے اپنے کام میں لگا رہے۔ مگر اس پر بھی جب یہ حضرات دوسری جگہ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں رشت اخوت کوٹ کر بھرا گیا ہے۔ فرمایا کہ مجھے تو یہ معلوم نہیں آج ہی سناء وہ بھی شقر اوی سے۔ حضرت! میں تو ایک چیز کا اہتمام کرتا ہوں یعنی اللہ سے تعلق کا اور اس کا کہ اس کے بعد ضعیف سے ضعیف سبب بھی مرفع کر دیا جائے اور دین کو قلوب میں رانخ کر دیا جائے اسی کی کوشش کرتا ہوں پھر اللہ تو واحد ہیں جب سب ان کو مانیں گے تو متعدد خود ہی رہیں گے۔

ملفوظ ۲۳۳: دُنیاوی معاملات میں لوگوں کو مشورہ نہ دینے کی وجہ

فرمایا! کہ ایک شخص کا خط آیا ہے اپنی تجارت کے قصے جھکھے لکھ کر لکھا ہے کہ میں اب کیا کروں۔ میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ اب یہ کرنا چاہئے کہ مجھ سے ایسی بات نہ پوچھ چاہیے۔ ہاں! دعا کرتا ہوں۔

فرمایا کہ ایک اور صاحب نے اسی طرح لکھا تھا کہ بعض لوگ مجھ کو مشورہ دیتے ہیں کہ بانوں کی دکان کرلو کوئی کہتا ہے کہ داؤں کی دکان کرلو مجھ کو کیا کرنا چاہئے۔ میں نے لکھ دیا کہ میرا باپ نہ کھٹ بنا تھا نہ پنساری! مجھے ان چیزوں میں تجربہ نہیں۔ کسی تجربہ کار سے معلوم کر کے عمل کرو۔ میرے دو کام ہیں ایک دعا کرالو۔ چاہے وہ دنیا ہی کیلئے سبی وہ بھی عبادت ہے دوسرے الہ کا نام پوچھا لو۔

فرمایا کہ اتنا تو یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو تجربہ نہیں مگر پھر بھی ایسی بات پوچھنے کی کیا وجہ۔ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں سے اس لئے پوچھ کر کرنا چاہئے کہ ان کے دل میں وہی آئے گی جو ہونے والی ہے اس بناء پر ایسی باتیں ایسے لوگوں سے پوچھی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ غلو ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس مشورہ کا نشانہ عقائد کی خرابی ہے میں اس جہل سے بھی لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں کہ وہو کے میں نہ رہیں اور بعض حضرات جن کا مجھ سے بے تکلفی کا اعلق ہے ان سے معلوم ہوا کہ عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہی عقیدہ ہمارا بھی ہے کہ وہی ہو جاتا ہے فرمایا اعتقد میں بھی درجات ہیں اور بناء جدا جدا ہیں۔ عوام کے اعتقد کی نوعیت تو بہت ہی خراب ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ خلاف ہو ہی نہیں سکتا بخلاف اہل علم کے ان کا اعتقد اس درجہ کا نہیں ہو سکتا۔

۹ رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس یعد نماز ظہر یوم دوشنبہ

ملفوظ ۲۳۴: بغیر فکر اصلاح کے شیخ کے پاس قیام بیکار ہے ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ کسی کے پاس نرے رہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک انسان کو اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر نہ ہو۔

حضرت کی بیعت کا واقعہ ملفوظ ۲۳۵:

فرمایا! میں نے طالب علمی کے زمانہ میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی درخواست کی فرمایا جب تک کتابیں پوری نہ ہو جائیں اس وقت تک اس کو شیطانی و سوسہ خیال کر د۔ واقعی یہ حضرات حکیم تھے کیسی عجیب بات فرمائی اس وقت تو یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ مجھ کو خیال ہوا کہ حضرت نے ثال دیا ہے میں نے بذریعہ عریفہ حضرت حاجی صاحبؒ کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ حضرت مولانا سے جو کہ اسی سال حج کو تشریف لے جائے تھے فرمادیں کہ مجھ کو بیعت فرمائیں اور تمادش یہ کیا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت ان کے ہی ہاتھ

حضرت کی خدمت میں پہنچائی (زیادہ یادبھی ہے) حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا اور وہ جواب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا کہ ہم نے تم کو بیعت کر اور یہ بھی لکھا تھا کہ بعد فراغ علم اگر شغل کرنا چاہو گے تو مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کرنا اور آخر میں لکھا تھا کہ علمی مشغله کو بھی ترک نہ کرنا۔

ملفوظ ۲۳۶: حضرت گنگوہیؒ اور حضرت تھانویؒ

فرمایا! کہ ایک مرتبہ میں گنگوہ حاضر ہوا۔ جس وقت حضرت مولانا کی خدمت میں پہنچا۔ اس وقت حضرت پنگ پر لیٹے ہوئے آرام فرمائے تھے مجھ کو دیکھ کر پنگ سے نیچے اتر کر بینہ گے میں نے عرض کیا کہ حضرت اب میں وطن میں مقیم ہوں اس لئے جلدی جلدی حاضری کی نوبت آئے گی حضرت میرے لئے تکلف نہ فرمائیں ورنہ حاضری میں تکلف ہو گا (یہ روایت بالمعنی ہے فرمایا لیٹے طبیعت گھبرا گئی تھی اس لئے بینہ گیا مگر اس کے بعد پھر جب کبھی جانا ہوا۔

حضرت نے تکلف نہیں فرمایا۔ میں نے بھی ہمیشہ اس کا خیال رکھا کہ پاؤں کی طرف کبھی نہیں بیٹھا اس خیال سے کہ شاید حضرت کو گرانی ہو۔

اس سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ حضرت گنگوہی فرمایا کرتے تھے کہ میرے یہاں دور نگہ ہیں کبھی حضرت حاجی صاحبؒ کا اور کبھی حضرت حافظ ضا من صاحبؒ کا۔ کبھی اس کا ظہور ہوتا ہے اور کبھی اس کا۔

ملفوظ ۲۳۷: حضرت گنگوہیؒ سے طبعی مناسبت

فرمایا! کہ میں جب گنگوہ حاضر ہوتا تو حضرت نہایت ہی شفقت کا برداشت فرماتے میں حضرت کو پیر سمجھتا رہا مگر حضرت سمجھتے رہے پیر سمجھا اور مجھ کو حضرت گنگوہیؒ سے ایک طبعی شغف ہے اور حضرات سے بھی محمد اللہ عقیدت ہے مگر استدلالی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ضروری غیر استدلالی مجھ کو حضرت کے مذاق پر شبہ ہی نہیں ہوا۔

ملفوظ ۲۳۷: حضرت حاجی صاحبؒ کے یہاں ظاہری محاسبہ نہ تھا

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ظاہری محاسبہ نہ تھا مگر برکت اتنی زبردست تھی کہ محاسبہ میں وہ کام نہیں بن سکتا تو حضرت کے یہاں بلا محاسبہ ہی بن جاتا تھا یہ محض حضرت کی برکت تھی۔

ملفوظ ۲۳۹: حضرت اور محاسبہ

فرمایا! کہ میں نے جلوگوں کے زعم میں ایک نئی بات جاری کی ہے جو اپنے بزرگوں میں اس درجہ نہ تھی اور وہ محاسبہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بغیر اس کے کام چلتا دشوار تھا اس کی تفہیم یہ ہے کہ حدود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مقرر اور قائم کی جو نہ خسرو اقدس ﷺ کے عہد میں تھی نہ حضرت صدیقؓ کے عہد میں۔ اگر حضرت عمرؓ پر کوئی بھی اعتراض کرے جو مجھ پر کیا جاتا ہے کہ وہ کام کرتا ہے جو بزرگوں نے نہیں کیا تو جو جواب اس کا حضرت عمرؓ کی طرف سے ہو گا وہ اس عمر کی یعنی میری طرف سے بھی خیال کر لیا جائے وہ جواب یہی ہے کہ ان حضرات کے زمانہ میں ضرورت نہ تھی اب ضرورت ہے تعزیر کی روک ٹوک کی سیاست کی۔

ملفوظ ۲۴۰: غیر مقلدی کا انجام سرکشی اور گستاخی

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فقہاء رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو سب بحثکرنے پھرتے وہ حضرات تمام دین کو مدون فرمائیا واقعی اندھیر ہوتا یہ غیر مقلد بڑے مدھی ہیں اجتہاد کے۔ ہر شخص ان میں کا اپنے کو مجتہد خیال کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس کے موازنہ کی آسان صورت یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے تم بھی استنباط کرو۔ ان مسائل کو جو فقہاء کی کتابوں میں تم نے نہ دیکھے ہوں اور پھر فقہاء کے استنباط کئے ہوئے انہی مسائل سے موازنہ کرو۔ معلوم ہو جائیگا کہ کیا فرق ہے کام کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کام کس طرح ہوتا ہے فرمایا کہ یہ غیر مقلدی نہایت خطرناک چیز ہے اس کا انجام سرکشی اور بزرگوں کی شان میں گستاخی یہ اس کا اولین قدم ہے۔

اسی سلسلہ میں فرمایا کہ ایک شخص دہلی آیا تھا اس وقت دہلی میں گورنمنٹ نے جامع مسجد میں وعظ کرنے کی ممانعت کروئی تھی بہت جھگڑے فساد ہو چکے تھے۔ اس شخص کی کوشش سے وعظ کی بندش ثوٹ گئی اس نے خود وعظ کہتا شروع کیا اس کا عقیدہ تھا کہ نماز تو فرض ہے مگر وقت شرط نہیں میں نے بھی اس کا وعظ سننا تھا بڑا پکا اور کثر غیر مقلد تھا وعظ میں کہا تھا:

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَاغْشِنَا هُمْ لَا يُصْرُونَ.

اور ترجمہ یہ کیا تھا کہ کردی ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار یعنی صرف کی اور چیچے ایک دیوار یعنی نحو کی۔ اور چھالیا ہم نے ان کو یعنی منطق سے پس ہو گئے وہ انہی ہے یعنی ان علوم میں پڑ کر حقیقت سے بے خبر ہو گئے۔ غرضیکہ صرف نحو و منطق کو بدعت کہتا تھا مگر ایک جماعت اس کے ساتھ اور اس کی ہم عقیدہ ہو گئی تھی یہ حالت ہے عوام کی ان پر بھروسہ کر کے کسی کام کو کرنا سخت نادانی اور غفلت کی بات ہے ان کے نہ عقائد کا اعتبار نہ ان کی محبت کا اعتبار نہ مخالفت کا اعتبار۔ جو جی میں آیا کر لیا جس کے چاہے معتقد ہو گئے۔

دہلی جیسی جگہ کہ وہ اہل علم کا گھر ہے بڑے بڑے علماء بزرگان دین کا مرکز رہا ہے مگر جماعت کا پھر بھی بازار گرم اور کھلا ہوا ہے کیا اعتبار کیا جائے کسی کا۔ وقت پر حقیقت کھلتی ہے جب کوئی کام آکر پڑتا ہے یا ایسا کوئی راہزہن پر دین کا ڈاکو گراہ کرنے کھڑا ہو جاتا ہے ہزاروا برساتی مینڈک کی طرح نکل کر ساتھ ہو لیتے ہیں۔

ملفوظ ۲۳۱: مجدوب اور مجنوں میں امتیاز

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مجدوب اور مجنوں میں آجکل امتیاز مشکل ہو گیا۔ فرمایا بالکل صحیح ہے کوئی مجدوب ہوتا ہے کوئی مجنوں ہوتا ہے اہل ادراک کو پیچان ہوتی ہے اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ بزرگوں سے سنا ہے کہ دیوبند میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدوب بین کی جماعت کے سردار تھے جس کی تائید بھی ایک واقعہ سے ہوتی ہے کہ ایک ولایتی مجدوب دیوبند میں وارد ہوئے اور پختہ کی مسجد میں ٹھہرے مگر ٹھہرے

حضرت مولانا سے اجازت لی۔

پھر فرمایا کہ ہم لوگ طالب علم ان مجدوب سے بعض کفار کیلئے بددعا کرایا کرتے تھے مگر وہ بھی جواب نہ دیتے صرف یہ کہہ دیتے کہ خیر باشد خیر باشد پھر وہ مر گئے۔

بعد میں اپنے بعض بزرگوں سے معلوم ہوا کہ وہ بعض کفار کے طرفدار تھے اس طرفداری پر فرمایا کہ مجدوبین کی مثال ملائکہ کی ہے کہ وہ کفار کی بھی تربیت کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ وہ گواں عالم کے اعتبار سے بے سمجھ ہوتے ہیں مگر ان کو اس سمجھ کی ضرورت نہیں دوسرا سمجھ کی ضرورت ہے وہ ان میں ہوتی ہے اور میں نے جوان عالم کے اعتبار سے سمجھ کی نظری کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس جماعت میں عقل نہیں ہوتی گو جواں درست ہوں جسے گھوڑے میں مثلاً عقل نہیں ہوتی مگر جواں ہوتے ہیں۔ یا پچھے کی مثال بلوغ سے پہلے کہ اس وقت عقل نہیں ہوتی مگر جواں ہوتے ہیں تو سلامت جواں مجدوبیت کے منافی نہیں۔ نہ اس سلامت جواں پر نمازوں غیرہ کے فرض ہونے کا مدار ہوتا ہے اس کی فرضیت کیلئے عقل شرط ہے پس مجنوں اسی طرح مجدوب عقل نہ ہونے کی وجہ سے احکام شرع کا مکلف نہیں ہوتا یا تی ان دونوں جماعتوں میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی نازک مقام ہے کہ ہر مجدوب اور مجنوں میں فرق کر لیا جائے مگر اس کا ظنی معیار یہ ہے کہ اس مجدوب کے زمانہ کے صلحاء اقویاء کا جو بر تاؤ اس کے متعلق ہو وہ معتر ہے۔

عوام کا خیال اس بارہ میں معتبر نہیں۔ یعنی اس زمانہ کے مشائخ جو اس کی مساتھ بر تاؤ کریں احترام کایا اعراض کا وہی دوسروں کو کرتا چاہئے اپنی رائے سے عوام کچھ نہ کریں پھر اسی سلسلہ میں فرمایا کہ اول تو اس جماعت سے کوئی امید نہیں لفظ کی نہیں رکھنا چاہئے حتیٰ الامکان ان لوگوں سے الگ ہی رہنا مناسب ہے کیونکہ ان کو عقل تو ہوتی نہیں اس لئے ان سے اندیشہ ضروری کا غالب ہوتا ہے۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجدوب کیے

ہو جاتے ہیں فرمایا کہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ کوئی وارد ایسا قوی ہوتا ہے جس سے عقل مسلوب ہو جاتی ہے اور یہ سب مجاہدہ ہی کی برکت ہے کہ یہ درجہ نصیب ہو جاتا ہے پہلے سے کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ کرتے کیا تھے اسی وارد سے پیالہ جھلک گیا تب سب نے دیکھ لیا یہ حقیقت ہے مجد و بیت کی اور یہی مجد و بیت ہیں جن کے پرد کارخانہ تکونیتی ہے اور اس کے انتظام کے ذمہ دار ہیں۔ باقی جواہل ارشاد ہیں وہ نائب رسول ہیں وارثان پیغمبر ہیں۔ ان کی شان کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ اصل چیز اللہ رسول کی اطاعت ہے باقی کشف و کرامات وغیرہ یہ چیزیں کوئی کمال نہیں ایسے عجائب الہ باطل سے بھی صادر ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ امر یکہ یا جرم میں ایک شخص کی یہ یوں کا انتقال ہوا وہ اس کو بہت چاہتا تھا اس لئے اس کو خیال ہوا کہ دفن سے پہلے اس کا فوٹو لے لیا جائے تاکہ دل بہلانے کا مشغله باقی رہے اس نے فوٹو لیا بجائے ایک فوٹو کے پانچ فوٹو آگئے ایک تو اس کی یہ یوں کا تھا اور چار اور تھے پھر ان چار میں دو کو تو پہچانا وہ بھی مردہ تھے اور دو کو نہیں پہچانا۔ انہوں نے اس سے یہ تحقیق کی ہے کہ اور رو سیں وہاں موجود تھیں ان کا فوٹو آگیا ہے مگر نہایت عجیب بات ہے کہ غیر مردی کا فوٹو آگیا۔ دیکھئے! یہ چیزیں اہل باطل بھی کر لیتے ہیں اس لئے اہل حق نے کہا ہے کہ اطاعت اللہ و رسول کی ہی اصل چیز ہے۔

۰۰۵۰ میں مجلس بعد نماز ظہر یوم سہ شنبہ

ملفوظ ۲۳۲: حضرت کی زندگی میں حضرت کی کتابوں کا پھیل جانا ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک شخص نے غیر جوابی خط لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ خدا کا خوف کرو۔ اس قدر دین فروش مت بنو اتنا تو روپیہ کمایا کتابیں چھاپ چھاپ کر۔ اور پھر بھی قناعت نہیں وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ کتابوں کی آمد فی اس کو ملتی ہے ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! یہ بہت دن کی بات ہے یا بھی کی فرمایا بہت دن کی ہے اور اگر بھی کی ہوتی تب بھی کون سا گناہ کا کام تھا۔

پھر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس قدر دین کا کام ہو گیا اگر میں تجارت کرتا کوئی گناہ کا کام نہ تھا مگر اس مشغله میں تو اس قدر رسائل نہ ہوتے۔ پھر بطور شکر فرمایا کہ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کسی کا کلام اس کی حیات میں اس قدر شائع ہوا ہو۔

ملفوظ ۲۳۳: مسلمانوں کے دوزخ میں جائیکی صورت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت دوزخ کفار بھی جائیں گے اور اعمال بد کی وجہ سے مسلمان بھی۔ تو فرق کیا ہو گا مسلم اور کافر کے عذاب میں۔ فرمایا کہنے کی توبات نہیں مگر آپ نے سوال کیا ہے اس لئے کہنی پڑی۔ مومنین کے بارہ میں مسلم کی حدیث ہے اما تهم اللہ امانتہ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہنم میں مسلمانوں کو عذاب کا احساس نہ ہو گا لیکن کفار کے برابر نہیں ہو گا اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کلو رافارم سنگھا آپریشن کیا جاتا ہے پھر آپریشن کی بھی دو قسمیں ہیں ایک سخت اور ایک ہلکا۔ بعض دفعہ بہت ہی ہلکا آپریشن ہوتا ہے اس لئے ہلکا کلو رافارم کافی ہوتا ہے یہی صورت مسلمانوں کے ساتھ دوزخ میں پیش آئی گی عرض کیا گیا کہ حضرت کے حضرت جہنم میں نہ جائیں گے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ کفار جہنم میں تعذیب کے لئے جہنم میں جائیں گے اسلئے ان کو عذاب کا احساس شدید ہو گا اور مسلمان محض تہذیب کیلئے جہنم میں جائیں گے ان کو عذاب کا احساس اس قدر نہ ہو گا جہنم مسلمانوں کے لئے مثل حمام کے ہے وہ اس میں پاک صاف کئے جائیں گے گو تکلیف حمام کے تیز پانی سے بھی ہوتی ہے تیرا فرق یہ ہے کہ مسلمانوں سے وعدہ انتظام عذاب کا ہے یہ وعدہ عذاب کا زیادہ احساس نہ ہونے دیگا۔ اس کو اس مثال سے سمجھ لجھے گا۔ جیسے میعادی قیدی کا ایک وقت آرام کا ہوتا ہے اور ایک وقت کام کا۔ یہ دونوں حالتوں قید ہی میں ہوتی ہیں تو ایک وقت ہلکا ہوا اور ایک وقت بھاری اس سے بھی آگے توسعہ کرتا ہوں۔ ایک وقت قید ہی کی حالت میں سونے کا ہوتا ہے جس میں کچھ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں اور کیا مجھ پر عذاب ہے ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہوتا پھر ایک وقت رہائی کا ہوتا ہے کہ وہ قید خانہ کی کلفت کو کم کر دیتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جی ڈرتا ہے جی چاہتا نہیں ایسی باتیں کہنے کو محض اس خیال سے کہ کہیں لوگ جری نہ ہو جائیں مگر جب حدیث میں ہے کیا اخفا کیا جائے۔ غرض یہ گھڑت نہیں ہے بلکہ نصوص میں ہے اور وہ بھی مسلم میں جواحیں الکتاب ہے۔

ملفوظ ۲۲۴: آجکل کے لیڈر اور شہرت مال کا نشہ

فرمایا! کہ آجکل جو مقتداء اور پیشواؤں کیلاتے ہیں چاہے وہ مذہبی ہوں یعنی علماء یا درویش یا سیاسی ہوں لیڈر شب و روز اکثر ان کو یہ فکر ہے کہ شہرت ہو مال حاصل ہو بعضاً یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا مالدار اتنا ہی بڑا عاقل۔ حالانکہ یہ خیال ان کا غلط ہے۔ البتہ ایسا شخص آکل تو ہو گا مگر عاقل ہوتا ضرور نہیں۔ ہر وقت اکل کی فکر ہے عقل کی ایک بات بھی نہیں۔ بلکہ اس بے عقل ہونے کے متعلق خود مالداروں کا اقرار ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس سور و پیسہ ہوں تو اس کو ایک بوتل کا نشہ ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ نشہ میں عقل نہیں رہتی۔ اگر کسی کے پاس ایک ہزار روپیہ ہے تو اس کو دس بوتلوں کا نشہ ہو اپنے عقل کا وہاں کیا کام۔ دین کی باتوں کیلئے تو موذن اور ملا ہی کی ماننی چاہئے۔ ان کی ہی رائے معتبر ہے۔

ملفوظ ۲۲۵: اعمال حسنہ کے اندر ابتداء میں نیت کر لینا کافی ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ افعال اختیار یہ میں صرف ابتداء میں ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس فعل میں اگر امتداد ہو تو ہر جزو پر نیت کی حاجت نہیں ہوتی البتہ تضاد (یعنی اس کے خلاف) کی نیت نہ ہونا شرط ہے۔ جیسے کوئی شخص بازار جانا چاہے تو اول قدم پر تو قصد کرنا پڑے گا پھر چاہے کتاب دیکھتے ہوئے یا باتیں کرتے ہوئے چلے جاؤ ہر قدم پر قصد کی ضرورت نہیں۔

دوسری مثال سے سمجھ لیجئے کوئی ستار بخارہا ہے اول مرتبہ تو قصد کی ضرورت ہے پھر خود بخود انگلیاں چلتی رہتی ہیں بلکہ اگر ہر قرع پر مستقل قصد کیا جائے تو خوش نمائی کے ساتھ بجانے میں کامیابی بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح گفتگو ہے اگر ہر فقرہ پر ارادہ کرے تو فرمائیے کہ گفتگو میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز کامیابی نہیں ہو سکتی۔ پس اسی طرح اعمال حسنہ میں اگر ہر جزو

پر نیت مستقل نہ ہو تو وہم میں نہ پڑنا چاہئے۔

ملفوظ ۲۲۶: ملکات رذیلہ اپنی ذات میں مذموم نہیں

فرمایا! کہ ملکات رذیلہ اپنی ذات میں مذموم نہیں ہوتے مثلاً شہوت ہے کیا وہ اپنی ذات میں مذموم ہے ہرگز نہیں مولانا نے اس ہی مضمون کو فرمایا ہے۔

شہوت دنیا مثال لکھن ست ہے کہ ازو حمام تقویٰ روشن سنت
ترجمہ: شہوت دنیا مثل بھٹی کے ہے کہ اس سے تقویٰ کا حمام گرم ہوتا ہے۔

بلکہ جس شخص کی شہوت قویٰ ہے اس کے مقاومت سے زیادہ نور پیدا ہوتا ہے اور جس کی قوت شہوت کمزور ہے اس کی مقاومت سے وہ نور نہیں پیدا ہوتا تو مدار قرب خداوندی کا افعال اختیار یہ ہوئے جہاں اختیار کا زیادہ استعمال کیا گیا وہاں قرب زیادہ ہوا پھر فرمایا یہاں پر ایک شب ہو سکتا ہے وہ یہ کہ نبوت بھی تو افعال اختیار یہ میں سے نہیں حالانکہ اس پر جو قرب ہوتا ہے وہ کسی فعل اختیاری پر بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ ازالہ اس شب کا یہ ہے کہ میں جو قرب کا مدار افعال اختیار یہ کو کہتا ہوں مراد مطلق قرب نہیں بلکہ خاص وہ قرب ہے جو مامور بالتحصیل ہے اور نبوت سے جو قرب ہوتا ہے وہ مامور بالتحصیل نہیں وہ قرب موہوب ہے اس کا مدار شخص موحوب ہوتا ہے اختیار اور اکتساب نہیں۔

حاصل یہ کہ نبوت بھی موحوب۔ اس پر جو قرب ہے وہ بھی موحوب۔ نہ نبوت افعال اختیار یہ میں سے نہ اس کا قرب مسبب افعال اختیار یہ سے ہے اب محمد اللہ اس کی حقیقت سمجھو میں آگئی ہوگی۔ بعض فلاسفہ کا خیال ہے کہ ہم اعمال کے ذریعہ سے انبیاء سے بڑھ سکتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ جو چیز موحوب ہے وہ کسب سے حاصل نہیں ہو سکتی فرمایا اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص عمدہ لباس اور اچھا زیور پہن کر یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں ہیں سے زیادہ خوبصورت ہوں اس کا یہ دعویٰ غلط ہو گا اس لئے کہ خداد احسن کا مقابلہ ان خارجی چیزوں سے نہیں ہو سکتا اگرچہ کتنا ہی سنگار اور بناو کیا جائے خوب فرماتے ہیں۔

دلفر بیان نباتی ہے زیور مستند ☆ دلبر ماست کہ باحسن خداداد آمد
 ﴿محبوبان مجازی سب بنا و سنگار کے محتاج ہیں۔ ہمارا محبوب وہ ہے جس کو حسن خداداد
 حاصل ہے ۴﴾۔

زشق ناتمام ماجمال یا مستغنى ست ☆ بآب درنگ و غال و خط چ حاجت روئے زیبارا
 ﴿حسن یار کو ہمارے عشق ناتمام کی کوئی ضرورت نہیں۔ حسین چہرہ کو بنا و سنگار کی
 ضرورت ہی کیا ہے ۴﴾۔

اگر اعمال اور کسب پر اس کا انحصار ہوتا تو میں پوچھتا ہوں کہ انبیاء نے کون سائل کیا تھا
 جس کے صد میں نبوت ملی اس قسم کے غلو ہوئے جہلاء کو۔

ا) رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم چهارشنبہ

ملفوظ ۲۲۷: ایک صاحب کو پیشین گوئیں کا مرض

فرمایا! کہ ایک صاحب کو پیشین گوئیں کا بہت مرض ہے ان کے متعلق ایک صاحب
 کا خط آیا ہے اور دریافت کیا ہے کہ فلاں صاحب نے آپ کے متعلق جو پیشین گوئی کی تھی وہ کیا ہے
 اور پوری ہوئی یا نہیں؟ حضرت والانے جواب میں تحریر فرمایا کہ تجرب ہے پیشین گوئی تو کریں فلاں
 صاحب اور دریافت فرمائیں مجھ سے انہیں سے پوچھیئے۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کے مدرسہ دیوبند کی سرپرستی سے استعفی
 دینے کی خبر تھی اس کی ان صاحب نے پیشین گوئی کی تھی۔ غالباً یہ وہ ہے حضرت والانے مزاح فرمایا
 کہ جب استعفی کے بعد خبر دی یہ تو پسیں گوئی ہوئی پیشین گوئی تو نہ ہوئی۔

ملفوظ ۲۲۸: حضرت گنگوہیؒ اور احمد رضا خاں

فرمایا! کہ امیر شاہ خان صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ مولوی محمد بھی صاحب مرحوم سے
 حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی احمد رضا خاں صاحب کے رسائل آیا کرتے

ہیں کہیں سے ناؤ تو کوئی حق بات اگر اس میں ہو گی تو مان لیں گے مولوی بھی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ان میں تو گالیاں ہی گالیاں ہیں فرمایا کہ دور کی گالیاں لگانہیں کرتیں سناؤ تو مولوی صاحب نے عرض کیا کہ میں تو نہیں سن سکتا خاموش ہو گئے۔

اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ رے بے نفسی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کہ ایسے مخالف اور مقابل سے حق بات قبول کرنے میں بھی استذکاف (عار) نہیں بلکہ اس کا اہتمام فرمایا۔

ملفوظ ۲۳۹: خشوع کے حاصل کرنے کا طریقہ

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت خشوع کیے حاصل ہو۔ فرمایا کہ خشوع کی حقیقت شرعیہ اس کی حقیقت لغویہ ہی کی ایک فرد ہے یعنی یہ ایک لغت ہے جس کے معنی ہیں سکون۔ پس قلب کے سکون کو خشوع کہتے ہیں اور سکون قلب مقابل ہے قلب کی حرکت کے۔ اور یہ حرکت قلب کی وہی ہے جس کو منطقی حرکت فکر یہ کہتے ہیں۔ پس اس حرکت کا مقابل یہ ہے کہ فکر میں حرکت نہ ہو بلکہ سکون ہو یعنی افکار میں حرکت نہ کرے یہ نہایت مناسب عنوان ہے اس عنوان سے مسئلہ کا اختیاری ہوتا ظاہر ہوتا ہے آگے افکار میں حرکت نہ کرنا کا طریقہ قابل تحقیق رہ گیا۔

سو وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک محمود شے کی طرف متوجہ ہو جائے اس سے دوسری حرکات غیر محمودہ بند ہو جائیں گی۔ یہ تجربہ ہے اس سے یکسوئی ہو جاتی ہے پھر یہ کہ وہ شے کیا ہے سواس کے طرق متعدد ہیں مثلاً یہ سوچ لے کہ خانہ کعبہ سامنے ہے۔ یا اگر الفاظ کی طرف توجہ آسان ہو یہ کر لے۔ یا معانی کی طرف توجہ کرے یا اگر ذات بحث (یعنی حق تعالیٰ کی ذات) کی طرف توجہ ہو سکے تو سب سے اولی ہے۔ اب سوال یہ رہا کہ جس چیز کی طرف بھی توجہ کرتا ہو تو جس کو درجہ کی رکھے جس سے خطرات نہ آؤں سواس کے متعلق تجربہ سے معلوم ہوا کہ زیادہ سُخ و کاؤ (کھود و کرید) کرنا موجب ثقل ہے معتدل توجہ کافی ہے۔ جس کا درجہ ایک مثال سے بیان کرتا ہوں اور وہ بالکل الدین یسر (دین آسان ہے) کے مطابق ہے باقی اس سے زائد عمر (تلگی میں پڑتا) ہے۔ سو عمر

کے لئے حدیث میں لن تھصوا فرمایا ہے یعنی اس پر عادۃ قدرت نہیں ہے وہ مثال یہ ہے کہ ایک کپا حافظ ہے اس کو استاد کا حکم ہوا کہ انفلوں میں قرآن شریف سناویہ حافظانے کے وقت یقیناً بے تو جبکی سے تو ہرگز نہ پڑھے گا کیونکہ یاد نہیں سوچ کر پڑھے گا۔ لیکن اس درجہ کی سوچ بھی نہ ہوگی کہ دوسری شے کا بالکل تصور ہی نہ آئے بلکہ یہ توجہ اوسط درجہ کی ہوگی کہ نہ غفلت ہوگی اور نہ ایسی کاوش کہ اس کا غیر بالکل ہی ذہن میں نہ آئے بس اسکی توجہ عبادت میں تحقیق خشوع کے لئے کافی ہے اگر اسی درجہ خشوع کا انتظام و اہتمام ہو جائے تو بس مامور بادا ہو گیا اور نہ حدیث من شاق شاق اللہ علیہ ہے جو شخص اپنے اوپر مشقت ذاتیہ اللہ تعالیٰ اس کو مشقت میں بتلا فرمادیتے ہیں کہ کام حداق ہو گا اب اگر اس درجہ کے ساتھ دوسرے وساوس متحضر بھی ہو جائیں تو مضر نہیں لیکن غیر مامور بکاریہ اسکا احتضار اس نے نہیں کیا یہ اس کا فعل نہیں لہذا یہ اس کا مکلف بھی نہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے آنکھ سے کسی خاص لفظ کو قصد ادا کیجیں تو اس کے ساتھ اس کے ماحول پر بھی ضرور نظر جاتی ہے مگر چونکہ یہ نظر قصد انہیں اس لئے یہی کہیں گے کہ فلاں لفظ خاص دیکھا۔ ماحول کو خود نہیں دیکھا۔ بلکہ نظر آگیا تو جیسے یہ انتشار شعاع بصر میں ہوتا ہے اسی طرح بصیرت میں بھی ہوتا ہے کہ قصد تو ایک خاص چیز کی طرف ہے مگر بلا قصد دوسری چیز پر نگاہ جا پڑی۔

ایک مرتبہ اس مضمون کو میں نے امر وہ کے وعظ میں بہت بسط سے بیان کیا تھا لوگ بہت متفق ہو رہے تھے۔ سو علم تو اس مسئلہ کا کافی طور پر ہو گیا آگے عمل کی ضرورت ہے۔ بہت سے سالک اس میں بتلا ہیں کہ مدیر معلوم ہے اور عمل نہیں کرتے۔ اس معلوم ہو جانے ہی کو گویا حصول مقصود سمجھتے ہیں حتیٰ کہ بہت سے مشائخ اس بلا میں بتلا ہیں کہ مدیر جانتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے مگر ہم اسی مدیر کو لے کر کیا چو لہے میں ڈالیں جب عمل ہی نہیں۔

ملفوظ ۲۵: فاتحہ خلف الامام نہ جہری میں نہ سری میں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ بعض علماء غیر حفیہ نے لکھا ہے کہ صلوٰۃ جہری میں مقتدی کا فاتحہ پڑھنا حماقت ہے لیکن سری میں پڑھنا چاہئے کیونکہ سکوت شرعاً عبادت نہیں۔ فرمایا کہ ہم کو

یہ تسلیم نہیں کیونکہ یہ سکوت مأمور بہ ہے اور احتشال مأمور بہ عبادت ہے نیز یہ ایسا سکوت نہیں جو عمل نہ ہو بلکہ کف عن الکلام (کلام سے رکنا) ہے اور کف عمل ہے پس اس کے عبادت ہونے میں کچھ غبار نہیں جیسے کف عن المناہی عبادت ہے (گناہوں سے روکنا)۔

ملفوظ ۲۵۱: مسمریزم کے چند کر شے

فرمایا! کہ چیزوں میں جو مٹھائی وغیرہ پر چڑھتی ہیں اگر سانس روک کر وہ شے رکھی جائے تو اس پر چیزوں میں چڑھتیں میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے یہ عمل بھی مسمریزم کی ایک قسم ہے ایسے اعمال میں اصل فاعل عامل کی قوت خیالیہ ہے اور خیال کی قوت مسلم ہے میں نے بالا واسطہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ ایک شخص کو یہ خیال ہوتا تھا کہ شیر آیا اور کمر پر پنجہ مار گیا۔ اس کے اس خیال سے پنجہ کا نشان کر پر ہو جاتا تھا اور اس سے خون گرتا تھا مسمریزم کی حقیقت یہی ہے باقی ارواح کا آنا وغیرہ سب فضول دعویٰ ہیں یہ سب صرف خیال کی کر شہ کاریاں ہیں۔

ایک مرتبہ کاپور میں مسمریزم کے جانے والے آئے انہوں نے میرے سامنے بعض افعال میز کے ذریعے دکھائے اول جلسہ میں تو میں کچھ نہیں سمجھا وسرے جلسے میں ایک دلیل سے سمجھے میں آگیا کہ یہ ارواح کا تصرف نہیں ہجھن خیال کے افعال ہیں۔ پھر تیرے جلسہ میں بطور دلیل ازای کے میں نے خود زبان سے یہ کہا کہ اگر میز کے اندر روح آتی ہے تو ایک بار پایہ اٹھ جائے اور اگر روح نہ آتی ہو تو دوبارہ اٹھ جائے سو دوبارہ پایہ اٹھا تب میں نے دیکھنے والوں سے کہا کہ دیکھو انہی کے قاعدہ سے ارواح کا آنا باظل ثابت ہوا۔ یہ سب خیالی باتیں ہیں۔

ملفوظ ۲۵۲: امام صاحبؒ کی تکفیر مسلم میں احتیاط اور ذہانت

فرمایا! کہ امام صاحب کی مجلس میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ کوئی کافر جہنم میں نہ جائیگا اس کا کیا حکم ہے امام صاحب نے شاگردوں سے فرمایا کہ جواب دو۔ سب نے عرض کیا کہ یہ شخص کافر ہے اور نصوص کا مکذب ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تاویل کر عرض

کیا کہ ناممکن ہے فرمایا یہ تاویل ہے کہ جہنم میں جانے کے وقت کوئی شخص اس وقت کا فرنہ ہو گا یعنی انغوی کافر بلکہ مومن انغوی ہو گا گوشہ ری کافر ہو کیونکہ اس وقت حقائق کا انکشاف اس پر ہو جائے گا تو کسی امر واقعی کا اس وقت منکر نہ ہو گا **هَذِهِ جَهَنَّمُ الِّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ** (یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھلاتے تھے) بلکہ بعض جہنم کے انکشافات کافر کو زائد ہو گئے مومن کو نہیں ہوں گے جو کہ برق خاطف (چکنے والی بجلی) کی طرح گزر گیا۔ کیا مٹھکانہ ہے امام صاحب کی ذہانت کا اور احتیاط کا۔

ملفوظ ۳۵۴: کرامت استدرج میں فرق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر کسی خارق (کرامت) کے بعد قلب میں زیادت **أَعْلَقَ اللَّهُ مَحْسُونَ** ہوتی تو وہ کرامت ہے اور اگر اس میں زیادت محسوس نہ ہو تو ناقابل اعتماء (تجہ) ہے اور یہ جو آجکل مختصر کشف و کرامت کی بناء پر پیر دل کو مرید اسی پر اندکا مصدقہ بناتے ہیں اور لوگوں کو پھساتے ہیں بالکل ہی وابیات بات ہے۔

اسی سلسلہ میں ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بدودی نفاذ نام معتقد تھا اس نے ایک بار کھلا کر بھیجا کہ لڑائی میں میرے گولی لگ گئی ہے تکلیف ہے دعا کیجئے نکل جائے اس کا بیان ہے کہ دوسرے دن حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور زخم میں انگلی ڈال کر گولی نکال لی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا کہ مجھے پتہ بھی نہیں نیز بعض اوقات خارق استدرج (ڈھیل) ہوتا ہے اور استدرج کے بعد نفس میں تکبر ہوتا ہے لہس ایسے اشتباہ کی حالت میں اگر کوئی چیز راحت اور آرام کی ہے تو وہ ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے اور گناہی اور اپنے کوفتا کر دینا اور منادینا اس ہی میں اطف ہے بدؤں اس کے چین مانا مشکل ہے مولانا فرماتے ہیں

یقین کنجے بے دو بے دام نیست ☆ جن بخلوت گاہ حق آرام نیست

اور کرامت واستدرج میں ایک ظاہر فرق یہ ہے کہ صاحب کرامت متصف بالایمان والعباد وغیرہ ہو گا۔ اور صاحب استدرج افعال منکرہ میں بدلنا ہو گا اور پہلا فرق جو نہ کور ہوا اکسار و تکبر وغیرہ کا وہ اثر کے اعتبار سے ہے۔

ملفوظ ۲۵۳: حضرت شاہ ولی اللہ کا قول شق القمر کے بارے میں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ شق قمر کا مجزہ علامات قیامت سے ہے اس میں وقوع کا انکار نہیں بلکہ مجزہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے طلوع شمس من المغرب۔ حضرت ﷺ کا مجزہ نہیں بلکہ علامات قیامت ہے ایسے ہی شق القمر بھی مجزہ نہیں بلکہ علامات قرب قیامت سے ہے جیسے آیت میں اقتراپ ساعت کے اقتراں سے مفہوم بھی ہوتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر۔ ترجمہ: قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔

ملفوظ ۲۵۴: خلف فی الوعید بھی ممتنع ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا! کہ کذب اخبار میں ہوتا ہے انشاًت میں نہیں ہوتا اور وعید انشا ہے اگر صیغہ اخبار کا بھی ہو وہ محض صورۃ ہے معنی انشاء ہی میں داخل ہے اسی سے بعض لوگوں نے کہہ دیا اور خلافاً جبکہ خلف فی الوعید وقوعاً بھی جائز ہے اور اس پر جو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ قول بوقوع الکذب ہے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ کذب اخبار میں ہوتا ہے اور وعید صورتاً اخبار ہے ورنہ حقیقت میں انشاء ہے مگر جمہور کے لئے قاضی شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ **يَسْتَعِجُّلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ**۔ "یہ لوگ آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنا وعدہ خلاف نہ کریگا"۔ یہاں وعدہ سے مراد یقیناً وعید ہے بقریہ ذکر العذاب تو قرآن کی نص سے خلف فی الوعید کا ممتنع ہونا معلوم ہو گیا۔

۱۲ رمضان المبارک ۱۴۵۰ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم پنجشنبہ

ملفوظ ۲۵۶: رخصتوں پر عمل

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کوکھانی کی بڑی تکلیف ہے اور رمضان شریف میں یہ اس قسم کی تکلیف ہے جیسے کھانی زکام وغیرہ ذرا دری سے اچھی ہوتی ہے اور وجہ یہ بیان کی کہ روزہ کے سبب وقت لے وقت کھانے ملنے کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہی ہے اس پر فرمایا: ان

الله يحب أن يوتي رخصه : كما يحب ان يؤتي عز ائمه

ترجمہ: اللہ تعالیٰ جس طرح اصل اعمال کی بجا آوری کو محبوب رکھتے ہیں اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی رعایت شرع میں میں دے گئی ہو اس پر عمل کرنے کو بھی محبوب رکھتے ہیں۔

جامع صغیر میں یہ روایت ہے اس روایت سے افظار کی بھی ہمت ہو گئی کہ اگر طبیب شرعی فتویٰ دیدے تو میں افظار کر دوں اس لئے مجھ کو تکلیف سے تنگی نہیں۔

ملفوظ ۲۵: ساع اور اس کے نفسانی اثرات کی تحقیق

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آداب ساع میں لکھا ہے کہ مجلس میں کوئی شخص دوسرا نماق کا نہ ہو ورنہ قلب میں تنگی اور اس سے وجد و حال میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہر شخص کے سامنے بولنے کو میرا دل نہیں کھلتا۔ اب لوگوں نے ساع کو تماشا بنا لیا ہے حتیٰ کہ ہبہ و لعب تک نوبت پہنچ گئی۔

ایک مرتبہ بریلی میں ایک عرس کے موقع پر کلکشہ اور پرنسپنڈٹ کو مجلس ساع میں بلا یا گیا۔ پرنسپنڈٹ نے کلکشہ سے کہا کہ میرے بدن میں تو سنتا ہٹ معلوم ہوتی ہے کہ کلکشہ نے بھی کہا میری بھی بھی حالت ہے آخر دونوں انٹھ کر چلے گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو انگریزوں بھی اثر ہوا۔ میں نے سن کر کہا کہ یہ نفسانی اثر ہے اس میں مومن کی بھی تخصیص نہیں چنا تجھے ساتھ بھی میں کا اثر ہوتا ہے یہ تو چیز ہی ایسی ہے آخر شارع کی کوئی تو حکمت ہے کہ ایسی چیزوں ممانعت فرمائی گئی وہ حکمت بھی اثر نفسانی ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے ایک حکایت بیان کی تھی کہ ایک باغ والے نے باغ میں سیٹی بجائی ہرنی وحشی اس آواز سے اس طرح مدھوٹ ہو کر پاس آ کھڑی ہوئی اسکے بعد بطور لطیفہ کے فرمایا کہ اثر ساع کیلئے غزال ہونا بھی کافی کافی ہونے کی ضرورت نہیں۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حدیث قرآن شریف سن کر جو کیفیت پیدا ہو کیسی ہے فرمایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ حدود کے اندر ہے یا باہر۔

لوگ ایسی باتوں میں یا ایسے معاملات میں بوجہ پے خبری کے حقیقت کو نہیں پہنچتے اس باب کو دیکھتے ہیں آثار کو نہیں دیکھتے۔ اس باب کا ذکر نہیں۔ بلکہ دیکھنا آثار کا ہے جیسے اگر کوئی مجلد اور ضخیم قرآن شریف سے کسی کو بلاک کر دے کیا یہ جائز ہو جائیگا۔ اب اگر قرآن شریف سن کر نفسانی کیفیت پیدا ہو تو وہ محمود نہ ہوگی۔

مثلاً کسی امر دے قرآن شریف نا اس کی آواز یا صورت سے قلب میں ایک کیفیت پیدا ہوئی تو یہاں اس باب کو نہ دیکھیں گے آثار کو دیکھیں گے اور ظاہر ہے کہ وہ کیفیت یقیناً نفسانی ہوگی۔ ایسے ہی سامع کو سمجھ لیا جائے اس کی بھی حدود ہیں ہر شخص کو جائز نہیں جیسا کہ آج کل ہر کس دن کس کو اس میں ابتلاء ہے شیخ شیرازی اسی فرق کو کہتے ہیں کہ

سامع اے برادر بگویم کہ چیست ☆ مگر مستحق را بدائم کہ کیست
 (اے بھائی سامع کا حکم تو میں تم کو بتاؤں کہ کیا ہے مگر (پہلے) سننے والے کو معلوم کروں کہ کون ہے۔ ۱۲)

مولانا جامی فرماتے ہیں

زندہ دلال مردہ تنال رارواست ☆ مردہ دلال زندہ تنال راخطاً است

﴿جن کے دل (بوجہ تعلق مع اللہ کے) زندہ ہوں اور بدن مردہ ہوں ان کے لئے (سامع) جائز ہے اور جن کے دل مردہ اور تن زندہ ہوں ان کو سنا غلطی ہے۔ ۱۲﴾

سلطان نظام الدین قدس سرہ اس کیلئے چار شرائط بتاتے ہیں۔ سامع، مسمع، مسموع، آله سامع۔ فرماتے ہیں۔

سامع ازاں دل باشد ازاں ہوئی و شہوت نباشد ☆ مسمع مرد تمام باشد زن و کوک نباشد

مسمع مضمون ہرل نباشد ☆ آله سامع چنگ و رباب درمیان نباشد

سننے والا اہل باطن ہو۔ اہل ہوئی نفسانی والا شہوت نہ ہو۔ سننے والا پورا مرد ہو عورت یا بے ریش لڑکا نہ ہو۔ سننے کی چیز کوئی بے ہودہ مضمون نہ ہو۔ آله سامع باجے گا جس نہ ہوں گے۔

میں ایک بارا پنے ایک صاحب سماع بزرگ کو تلاش کرنے سلطان جی کے عرس میں قبل وقت عرس حاضر ہوا۔ میں اس وقت کا نپور میں تھا ان سے ملنے والی آیا تھا۔ میں سمجھا کہ وہ عرس میں ملیں گے مگر اس وقت تک عرس میں آئے نہ تھے۔ میں قریب نماز ظہر کے لوٹا کہ پھر شہر میں مل اونگا وہاں چشتی ہی چشتی جمع تھے انہوں نے مجھ کو گھیرا کہ چشتی ہو کر سماع شروع ہونے کے وقت کہاں چلے۔ میں نے کہا کہ اگر میں شریک ہو جاؤں گا تو حضرت سلطان جی خفا ہو جائیں گے اور میں نے اوپر کا ملفوظ سلطان جی کا پڑھ دیا اور کہا کہ مجھ میں یہ شرائط نہیں سب نے کہا کہ تم تو اس کے اہل ہو مگر ہم اہل نہیں۔ ایسی تبلیغ ہم کو آج تک کسی نے نہیں کی تھی۔

ملفوظ ۲۵۸: پکی بانڈی کا سنورنا مشکل ہے

فرمایا! کہ اگر پہلا مرتبی بعدی ہو تو اول تو اس سے نکلتا مشکل اور اگر کسی صورت سے نکل بھی جائے تو اکثر اس کا اثر نہیں جاتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ پکی بانڈی اگر بگڑ جائے اس کا سنورنا مشکل ہے اور از سرنو پکانا آسان ولن يصلح العطار ما افسدہ الدهر۔

ملفوظ ۲۵۹: تین کتابیں الیلی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تین کتابیں الیلی ہیں، قرآن شریف، بخاری شریف، متنوی شریف ان کا کوئی ایسا ضابط نہیں جس سے یہ قابو میں آجائیں الیلی کے سبھی معنی ہیں۔

۱۳ رمضان المبارک ۱۳۵۴ھ مجلس بعد نماز جمعہ

ملفوظ ۲۶۰: صرف ذات باری کا تصور

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ذات بخت (خاص ذات حق تعالیٰ) کا تصور کیسے ہو سکتا ہے۔ فرمایا جب مثلاً اللہ سمیع کہتے ہیں تو محول کے اثبات کے لئے کچھ نہ کچھ تصور موضوع کا ہوتا ہی نہ ہے بس اتنی مقدار مراقبہ کے لئے کافی ہے۔

ملفوظ ۲۶۱: عین ہونے کے معنی

عین اصطلاح صوفیاء میں وہ چیز ہے کہ کسی شے کے تابع اس طرح ہو کہ بدؤں اس شے کے نہ پایا جائے پس تابع کو اس معنی کر عین متبع کہیں گے اس لئے یوں تو کہیں گے کہ خلق عین حق ہے یوں نہ کہیں گے کہ حق عین خلق ہے الاجوز۔ شیخ اکبر نے فرمایا کہ ہوا نت کہنا جائز ہے انت ہو کہنا جائز نہیں کیونکہ ہوشکل اول میں موضوع ہے اور محمول تابع ہوتا ہے اور صورت ثانیہ میں بالعکس عام لوگوں کے قلوب میں اصطلاحات منطق کی ہوتی ہیں اور تصوف میں بھی وہی معنی لے کر قائل کی تکفیر کرنے لگتے ہیں حالانکہ عوام الناس خود عین اس معنی میں بولتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ تم تو اپنے ہی ہو کوئی غیر نہیں ہو تو غیریت کی نشی میں عینیت کا اثبات ظاہر ہے بس اسی طرح صوفیاء کہتے ہیں پھر ان سے کیوں وحشت ہے۔

ملفوظ ۲۶۲: حضرت حاجی اور علوم طریق کا اظہار

فرمایا! کہ حضرت حاجی صاحب اپنے زمانہ میں جنة اللہ فی الارض تھے جو علوم صد یوں سے مخفی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے ظاہر فرمادیے ان کی سب سے بڑی دولت طریق تربیت تھا کوئی آدمی ایسا نہ دیکھا کہ جس نے حضرت سے اپنی حالت بیان کی ہو اور اس کی پریشانی زائل نہ ہو گئی ہو۔

ملفوظ ۲۶۳: وسوسہ کیا ہے؟

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وسوسہ کیا شے ہے فرمایا کہ جو امر منکر بلا اختیار قلب پر وارد ہو جائے میں اسی کو وسوسہ سمجھتا ہوں مگر چونکہ بلا اختیار ہے اس لئے مضر نہیں۔

ملفوظ ۲۶۴: بزرگوں کے خطوط میں اشعار خلاف ادب

فرمایا! بزرگوں کو جو خطوط لکھتے جائیں ان میں اشعار کا لکھتا۔ میں خلاف ادب سمجھتا ہوں۔ ہاں بطور جوش نکل جائے تو دوسری بات ہے قصد ایسا کرنے کا حاصل یہ ہے کہ ان کو اشعار

سے متاثر کر کے کام نکالنا چاہتا ہے نیز اپنی لیاقت کا اظہار ہے طالب کا کوئی فعل معلم کے ساتھ ایسا نہ ہونا چاہئے۔

حضرت اور توجہ اصطلاحی ملفوظ ۲۶۵:

فرمایا! کہ میں پہلے جب حضرت کی خدمت میں نیازیا آیا تھا اہل طریق کی دیکھاویکھی توجہ بھی دیا کرتا تھا۔ شاہ اطف الرسل صاحب وغیرہ توجہ میں بیشتر تھے اور ان پر بہت سے مخفیات مکشف بھی ہوتے تھے لیکن میں کوراہی رضا تھا۔

تفسیر اور تصوف سے زیادہ مناسبت ملفوظ ۲۶۶:

فرمایا! کہ فقہ اور حدیث سے مجھے مناسبت کم ہے اور گویا فسیر سے بھی پوری تو نہیں لیکن فقہ اور حدیث کی نسبت زائد ہے اور محمد اللہ تصوف سے اور زائد مناسبت ہے۔

حقوق شیخ کا آسان خلاصہ ملفوظ ۲۶۷:

فرمایا! کہ جب مجھے جیسا کم علم آدمی سب آسان طریقے جانتا ہے تو سمجھ لو کہ تصوف کس قدر بہل ہے چنانچہ حقوق اشیخ کا آسان خلاصہ یہ ہے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔

حضرت اور مجدد وقت ملفوظ ۲۶۸:

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مجدد وقت ہیں فرمایا کہ چونکہ نبی کی بھی کوئی دلیل نہیں اس لئے اس کا احتمال مجھ کو بھی ہے مگر اس سے زائد جرم نہ کرنا چاہیے بخض ظن ہے اور یقینی تعین تو کسی مجدد کا بھی نہیں ہوا (الحمد لله حمدًا كثیراً مباركًا فيه على هذا الاحتمال۔ ۱۲ جامع)

قطب الکوین، قطب الارشاد اور قطب الاقطاب ملفوظ ۲۶۹:

فرمایا! کہ قطب الکوین کو اپنی قطبیت کا علم ضروری ہے مگر قطب الارشاد کو ضروری نہیں۔ ابدال وغیرہ بھی تکوینیات سے متعلق ہیں۔ قطب الارشاد میں تعدد ضروری نہیں قطب الکوین متعدد ہوتے ہیں مگر قطب الاقطاب تمام عالم میں ایک ہوتا ہے اس کا نام غوث ہے اہل

کشف ان کو پہنچانے میں قطب اللہ وین داعما (بیش) اور قطب الارشاد احیانا (کبھی کبھی)
متعدد بھی ہوتے ہیں۔

ای سلسلہ میں فرمایا زمانہ تحریک خلافت میں خانقاہ کے پاس دراصل سے گول کے نیچے
میرے مکان کے سامنے ایک ندیک مجدوب رہا کرتے تھے۔ میں تمہتا تھا کہ شاید من جناب اللہ حفاظت
کیلئے مقرر ہیں ایسے مجازیب بدلتے بھی رہتے ہیں جیسے سرکاری حکام گورنمنٹ کے بدلتے رہتے ہیں۔

ملفوظ ۲۷: انبیاء کی معصیت طاعت ہوتی ہے

فرمایا! کہ میرا ذوق ہے کہ انبیاء سے معصیت صادر ہیں ہوتی بلکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے
طاعت ہی ہے گوخفی سی اور عصی و غوی وغیرہ جو صینے مستعمل ہیں وہ باعتبار شق کے ہیں کہ وہ شق
مقابل صادر سے افضل ہے نہ یہ کہ یہ معصیت ہے اور تعبیر بالمعصیت محض صورۃ ہے (یہ حضرت
حامی صاحبؒ کی تحقیق ہے)۔

ملفوظ ۲۸: معاصری کے مدارک کا طریقہ

فرمایا! کہ معاصری ماضیہ کے لئے مدارک کے استغفار کر لے اور آئندہ کے لئے نفس پر
جرمائی مقرر کر لے خواہ بدنی ہو یا مالی ہو حضرت ﷺ نے اس حدیث میں من قال تعالیٰ اقا
مرک فلیتصدق (جو شخص کسی سے کہے کہ آؤ جو اکھیلیں تو اس کہنے والے کو چاہئے کہ کچھ صدقہ کر
دے۔) اس کی لم پر نظر فرمائی ہے مقامہ کی وجہ حب مال ہے احمدیق سے محبت مال کی نکل جائیگی۔

ملفوظ ۲۹: سلف کی عظمت سے دین قائم ہے

فرمایا! کہ اہل علم کے کام کی ایک بات بتلاتا ہوں کہ دین پر عمل کرنے کا مدار سلف
صالحین کی عظمت پر ہے اس لئے حتی الامکان ان پر اعتراض و تنقیص کی آجوج نہ آنے دینا چاہئے۔

ملفوظ ۳۰: بعض اوقات ماضی پر افسوس حجاب ہو جاتا ہے

فرمایا! کہ یہ طریق بہت ہی نازک ہے اس لئے رہبر کامل کی ضرورت ہے بعض اوقات

ماضی پر افسوس کرنا بھی حباب مستقبل کا ہو جاتا ہے کہ اس تاسف میں غلو کے ساتھ مشغول ہو کر آئندہ کے لئے معطل ہو جاتا ہے۔

۱۲ رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم شنبہ

ملفوظ ۲۷: ایک مولوی صاحب کی مفصل حالت اور حضرت کی تشخیص

ایک مولوی صاحب نے اپنی حالت بیان کی جس کے چار اجزاء تھے۔ نمبر ۱: یہ کہ نماز میں اب یہاں رہ کر حضرت کی برکت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذات بخت بے کیف کے سامنے موجود ہوں اور نہایت عاجزی سے قصور کی معافی کی خواستگاری کر رہا ہوں مگر یہ کیفیت مستقر نہیں ہوتی جاتی رہتی ہے اور بعض اركان میں بالکل خطرات مستبوی ہو جاتے ہیں۔ بعض اركان میں کسی خاص خیال محمود پر دل لگاتا ہوں بعض دفعہ ارکانی ادعیہ (نماز کے اركان میں جو دعا میں پڑھی جاتی ہیں) کے معنی کی طرف خیال ہوتا ہے بعض دفعہ نہ معلوم کہاں چلا جاتا ہوں یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ نماز میں ہوں یا نہیں ایک حالت پر استقرار کیسے ہو۔

حضرت والا نے جواب میں فرمایا یہ تقلبات سفر (مختلف حالات) ہیں اور ثابت منزل (ایک حالت پر قرار ہو جانا) ہے منزل پر رسانی سفر ہی سے ہوتی ہے اور کوئی طریق نہیں یوں ہی چلنے دیجئے انشاء اللہ تعالیٰ ایک روز ثابت بھی عطا ہو جائے گا جس کی کوئی مدت متعین نہیں ہو سکتی جب تک حاصل نہ ہو اس کی طلب و قصد بھی قرب و قبول میں بجائے حصول ہی کے ہے۔

نمبر ۲: یہ پختہ عبید کر لیا ہے کہ خدا چاہے کوئی گناہ نہ کرو نگاہ اور اگر ہوا تو نفس کو خوب سزا دینی چاہئے مگر وہ سزا بھی میں نہیں آتی۔ جس سے یہ امارہ مطمئنہ ہو جائے۔ (جواب) میں فرمایا ہر ایک نفس کی سزا جدا ہے جیسے حضرات فقہاء نے شریف کی تعریف اور لکھی ہے مثلاً محکمہ قضاء میں بلا کر قدرے سزا ملت کر دینا بس آپ کے نفس کیلئے یہی سزا کافی ہے مگر نفس غیر شریف کے لئے دوسرا ہی ہے۔

نمبر ۳: فکر یہ ہے جب یہاں سے جا کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاؤں گا تو یہ یادداشت کیسے رہے گی۔ اس کی کیا تدبیر ہے۔ (جواب) میں فرمایا میرے معروضات زبانی یا مکاتب کا تبت کو خبیط

کر کے پاس رکھنا اور گاہ گاہ مطالعہ کر لینا انشاء اللہ ایک بڑی حد تک کافی ہو گا۔ نمبر ۳: دو تین روز سے تقریباً ہر وقت یہ حالت رہتی ہے کہ قلب جیسے غلکیں وحزین ہو بلکہ جیسے کسی غم میں برداشت کرنے کے بعد حالت ہوتی ہے زیادہ توضیح سے اس کو بیان نہیں کر سکتا البتہ عجب تاثر کی کیفیت ہے مجھ کو یہ بھی امتیاز نہیں کہ یہ تکلیف دہ ہے یا لذت بخش۔ یہ حالت کسی وقت زائد ہوتی ہے کسی وقت کم۔ کچھ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہ حالت جزوی واقعات سے ہو جیسے لڑکے کا یہار ہو جانا وغیرہ واللہ اعلم با صواب۔ (جواب) میں فرمایا اس باب کی تشخیص وہاں ضروری ہے جہاں مضرت ہوتا کہ سبب کو مرتفع کیا جائے اور اس سے کوئی مضرت نہیں اس لئے تشخیص اس باب بھی ضروری نہیں ایسے حالات سب کو پیش آتے ہیں اور خود بخود مخصوص ہو جاتے ہیں بالکل بے فکر رہتے ہیں۔

ملفوظ ۲۷۵: ایک نظر میں کامیابی کی توقع

فرمایا! کہ اس طریق میں اصل شے طلب ہے بقدر طلب جو مناسب ہو گا ملے گا اور جہاں ایک نظر میں کامیابی ہوئی ہے وہاں بھی مجاہدہ کی بدولت ہوئی ہے بہت سے مجاہدات اس نظر سے مقدم رہے ہیں یہ مسئلہ بلکہ تمام فنِ تصوف بہت صاف ہے جہاں نے غلط قواعد مشہور کئے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں چنانچہ ایک نظر میں کامیابی کی توقع میں بیشتر ہتھیں رہتے ہیں۔

ملفوظ ۲۷۶: حضرت کی تسلی کا اثر

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ اتفاقاً ایک صاحب کے خط کے جواب میں جن پر فوجداری کا مقدمہ تھا محض تو کل پر میرے قلم سے نکل گیا کہ انشاء اللہ کچھ نہ ہو گا وہ اتفاقاً اس مقدمہ سے بری ہو گئے وہ سمجھئے کہ مجھ کو پتہ چل گیا تھا حالانکہ مجھ کو علم بھی نہ تھا۔ می پراندراہی کو کہتے ہیں۔

ملفوظ ۲۷۷: احیاء العلوم کے باب الخوف کا مطالعہ نہ کریں

فرمایا! کہ میں اپنے احباب کو مشورہ دیتا ہوں کہ کتاب احیاء العلوم کے باب الخوف کا دیکھیں امام پر ہمیت غالب ہے اس لئے عنوانات سخت ہیں جن کا تخلی نہیں ہوتا مثلاً لکھا ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے اے داؤد! مجھ سے ایسے ذریعے کہ درندہ نے ڈرتے ہیں اس پر امام علیہ

الرحمۃ نے لکھا ہے کہ درندہ مجرم ہی کوئی بھاڑتا۔ یہاں پر ظاہر میں شبہ ہوتا ہے کہ تعذیب بلا وجہ ہو سکتی ہے حالانکہ مطلب یہ ہے جیسے درندہ سے کہ غیر مجرم بھی ڈرتا ہے کہ وہ حض عظمت کا خوف ہے اسی طرح حق تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے خواہ کوئی جرم نہ کیا ہو تو وجہ تشبیہ صرف یہ ہے نہ یہ کہ حق تعالیٰ غیر مجرم کو بھی عذاب دیتے ہیں امام علیہ الرحمۃ کی عبارت ناکافی ہے غلبہ حال کی وجہ سے۔

ملفوظ ۲۷۸: حضرت کی سختیاں آسانی کا پیش خیمه

فرمایا! کہ میری سختیاں آسان راستہ پر لانے کیلئے ہیں پس یہ یسر کیلئے عمر ہے۔ جیسے چمٹ کے کنارے پر بچہ آئے جس سے اندیشہ نیچے گرنے کا ہو تو گھر والے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھمیشیں گے اور وہ ایک تھپڑ بھی ماریں گے اس موقع پر زمی سے وعظ نہ کہیں گے کہ صاحب زادہ ایسے موقع پر نہیں آیا کرتے گر جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے ادھر آ جاؤ اگر یہ وعظ شروع کر دیا تو اتنی دیر میں تو وہ گر کر مر بھی جائے گا۔

۱۵ ارمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم یک شنبہ

ملفوظ ۲۷۹: لطیف کھانا زیادہ سرڑتا ہے

فرمایا! کہ یہ مشنوی میں مولانا کے اشعار میں
ظالم آں قوے کہ چشماس دوختند ☆ ازجن ہا عاملے را سوختند
نکتہ ہاچوں تیغ پولا دست تیز ☆ چوں نداری تو پر واپس گریز
خلاصہ یہ ہے کہ جیسے صحیح تصوف نے بہت سے لوگوں کے ایمان کی بھیکیل کر دی اسی
طرح ناابلوں کے ہاتھوں اسی سے بہت سے لوگوں کا ایمان بھی غارت ہو گیا۔ دیکھئے طعام لطیف
جب خراب ہوتا ہے تو عام طعام سے زیادہ خراب ہوتا ہے اور جلد بھی ہوتا ہے۔

ملفوظ ۲۸۰: مناسب عنوان اختیار کرنا ضروری ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ایک اہل دل فرماتے ہیں۔

دروں سینہ من زخم بے نشاں زده ☆ بھیر تم کہ عجب تیر بے گمان زده
﴿میرے دل میں تو نے ایک ایسا زخم لگایا ہے کہ جس کا کوئی نشان نظر نہیں آتا لہذا
جیران ہوں کہ کیسا تیر مارا ہے جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔﴾

بعض صفات مثلاً نظر بد بوسہ وغیرہ کے اپنے آثار کے لفاظ سے کبائر سے بھی زیادہ محضر ہو
جاتے ہیں اور معاصی میں گوتقاوت ہے مگر اہل علم کو چاہئے کہ عوام کیلئے یہ عنوان اختیار نہ کیا کریں
کہ شراب میں گناہ کم ہے قتل سے بلکہ یہ عنوان ہونا چاہئے کہ قتل میں شراب اوشی سے بھی زیادہ گناہ
ہے۔ یہ نہ کہنا چاہئے کہ پیشاب ناپاکی میں کم ہے پا خانہ سے بلکہ یہ کہے کہ پیشاب شدید ہے گندگی
میں اور پا خانہ اشد ہے۔ عنوانات کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ مصلح اور مبلغ کو بڑے فہم کی ضرورت ہے۔

ملفوظ ۲۸۱: بلکہ مسلمان، مسلمان نہ رہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہندو ہندو نہ رہے پہلے ہندو بہت
ڈرتے تھے مگر میں کہتا ہوں کہ یہ وجہ نہیں وجہ یہ ہے کہ مسلمان مسلمان نہ رہے اگر مسلمان مسلمان
ہو جائیں تو سب ہی پانی بھرتے نظر آئیں۔

ملفوظ ۲۸۲: حضرت کی تسبیح

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کے پاس جو اس وقت تسبیح ہے یہ حضرت
 حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عطا فرمائی ہوئی ہے فرمایا کہ یہ وہ تسبیح نہیں یہ تسبیح امیر عبد الرحمن خان
والی کابل نے اپنے کماں دران چیف کو دی تھی۔ انہوں نے محمد خان صاحب خور جوی کو دی۔ محمد خان
صاحب میرے پیر بھائی تھے انہوں نے مجھ کو دی یہ سُنگ مقصود کی تسبیح ہے۔

ملفوظ ۲۸۳: جبہ شریف کی رسمیں

فرمایا! بعض جگہ اس کی رسم ہے کہ جبہ شریف آنحضرت ﷺ کے ہمراہ لوگ ننگے سرا در
پا برہنہ پھرتے ہیں اس سے عوام کے عقائد بگڑ جانے اور غلو کا اندر یہ ہے ورنہ وہ اپنی ذات میں
ایسی بزرگ محترم چیز ہے کہ سر کے بل چلنا بھی کم ہے مگر ایسی باتیں انتظام شریعت کے خلاف ہیں
لہذا جتنا ب ضروری ہے۔

۵ ارمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم یکشنبہ

ملفوظ ۲۸۴: سجدہ تعظیمی کی حرمت، غلبہ حال کے وقت کا عمل

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بعض صوفیہ سجدہ تعظیمی کے جواز کے قالل میں جمہور فقہاء حرام کرتے ہیں۔ اصل اس کی یہ ہے کہ بعض صوفیہ مجتہد ہیں اگر (کسی کو ان کا) اجتہاد تسلیم نہ ہو تو کم از کم ان کا یہ خیال ضرور ہے کہ ہم مجتہد ہیں جیسے سلطان جی۔ عرض کیا کہ اگر صوفیہ کو کوئی مجتہد سمجھے تو کیا وہ خدا کے یہاں معدود ہو گا۔ فرمایا ہاں اگر ان کے پاس سامان اجتہاد موجود ہو۔ جیسے سلطان جی کہ وہ عالم بھی ہیں اور اصل تو یہ ہے کہ ہم حسن ظن کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مجتہد تھے۔ اسی سلسلہ میں کسی نے عرض کیا کہ کیا سالک پر بھی غلبہ حال ہوتا ہے یہ تو جذب کی حالت ہے فرمایا کہ سالک پر جو غلبہ حال ہوتا ہے وہ خاص حالت میں ہوتا ہے اور احیاناً ہوتا ہے عرض کیا گیا کہ اگر روتا آئے تو روئے یا ضبط کر لے فرمایا اکثر حضرات ضبط کو کہتے ہیں لیکن چشتی کہتے ہیں کہ خوب رو دہرگز نہ رکو۔ یہ داردات اخیاف (مہماں) بھی ہیں۔ کس کی قسم کہ روتا آئے۔ نقشبندی کہتے ہیں کہ ضبط کرنا چاہیے کہ انکا اصل مشرب اخفاء ہے۔ حضرت جامی فرماتے ہیں

نقشبندیہ عجب قافلہ سالا راندہ ☆ کہ برند از رہ پنهان بحرم قافلہ را

﴿نقشبندیہ حضرات بھی عجب قافلہ سالار ہیں کہ پوشیدہ راستہ سے قافلہ کو حرم تک پہنچادیتے ہیں﴾
حضرت والا نے بطور لطیفہ کے فرمایا کہ ایک نقشبندی نے چشتی سے کہا کہ ہم نے نہ
ہے کہ تم ذکر جھر کرتے ہو۔ چشتی نے کہا کہ ہم نے نہ ہے کہ تم ذکر خفی کرتے ہو یعنی خفی بھی پوشیدہ
نہ رہا چنانچہ ہم نے سن لیا اس انتہار سے ذکر خفی اور ذکر جھر دونوں برابر ہو گئے۔

ملفوظ ۲۸۵: ایک عجیب شعر

انیست کہ خون خوردہ دل بردا ہے را ☆ بسم اللہ اگرتاب نظر ہست کے را

﴿یہی ہے جس نے کسی کا (یعنی میرا) خون پی لیا ہے اور دل اڑالیا ہے اگر کسی کو تاب نظارہ ہے تو ذرا اس کی طرف دیکھ کر دیکھو۔ (اس کا گویا ترجمہ موسن خان مرخوم نے بھی خوب کیا ہے کہتے ہیں اے ناصحو! آہی گیا وہ فتنہ ایام۔ اوہ تم کو تو کہتے تھے بھلا اب تم ہی دل کو تھام لو)﴾۔
میں اس شعر کو فذلک الذی لمعتنی فیہ کی تفسیر میں پڑھا کرتا ہوں۔

ملفوظ ۲۸۶: ظہور اور حلول میں فرق

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ظہور و حلول میں کیا فرق ہے فرمایا جیسے صورت کا عکس کہ آئینہ میں اس کا ظہور ہے نہ کہ حلول باطل انسانی (انسان کا سایہ) کہ انسان کا ایک ظہور ہے انسان اس میں حلول کئے ہوئے نہیں۔ صوفیہ کی ایسی مثالوں سے نادانوں کو شب حلول کا ہو جاتا ہے۔ اسی لئے مولا نا اس سے تبریز فرماتے ہیں کہ وہ اس مثال سے بھی بالاتر ہے۔

اے بروں از دہم و قال و قل من ☆ خاک بر فرق من و تمثیل من

بندہ نشکنید ز تصویر خوشت ☆ ہر دست گوید کہ جانم مضرشت

﴿(حضرت مولا تارویٰ) اور پرے بعض تمثیلات سے حق تعالیٰ کی بعض شانوں کو بیان فرمائے ہیں مگر چونکہ مثالوں سے پوری حقیقت کا انکشاف نہیں ہو سکتا اس لئے فرماتے ہیں) کہ اے (مراد حق تعالیٰ) وہ ذات جو میرے وہم و مگان اور قل و قال سے بالاتر ہے (صرف مثالوں سے تیری معرفت کرنا ممکن نہیں لہذا) مجھ پر اور میری تمثیلات خاک میں ملا دینے کے قابل ہیں۔ (مگر چونکہ) بندہ کو آپ کی تصویر خوش کو دیکھے بغیر صبر نہیں آتا) اور ہر دم اپنی جان آپ پر قربان کرتا چاہتا ہے (تو تقریب فہم کیلئے کچھ مثالیں عرض کی ہیں)﴾۔

ملفوظ ۲۸۷: یہ بے پردگی کے حامی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب نے خوب کہا کہ جتنے لوگ بے پردگی کے حامی ہیں سب میں دو چیزیں مشترک ہیں بے حیائی اور عیاشی۔ واقعی ایسے ہی لوگ بے پردگی کے حامی بننے ہوئے ہیں۔ جن کو دین سے بے تعلقی ہے لیکن اگر ان میں دین نہیں تو بھی آخر غیرت بھی تو کوئی چیز ہے۔

ملفوظ ۲۸۸: صحبت کا بدل

ایک صاحب نے حضرت والا سے بذریعہ خط بیعت کی درخواست کی تھی۔ دو چار دفعہ کی مکاتبت کے بعد حضرت والا نے تحریر فرمایا کہ کیا کچھ دن آپ میرے پاس خاموشی سے رہ سکتے ہیں۔ اگر نہیں رہ سکتے تو فرمائیں میں اس کا بدل لکھوں۔ انہوں نے عذر لکھا اور بدل پوچھا حضرت والا نے جواب میں تحریر فرمایا کہ احقر کی کتابیں کثرت سے دیکھنا اور کوئی کام بدوں پوچھنے کرنا۔

ملفوظ ۲۸۹: شورش عشقی کا پیش آنا

فرمایا! کہ شورش عشقی کو محض اس شب سے فتا کرنا نہ چاہئے کہ شاید اس کے کوائف اور احوال کا تحمل نہ ہو سکے لیکن اگر عدم تحمل پیش آئے تو اس وقت شیخ سے اور اگر شیخ قریب نہ ہو تو خود اپنی تحقیق سے اس کی تعدیل کی تدبیر کی جائے۔

ملفوظ ۲۹۰: شریعت و طریقت کے جامع کے لئے مشکل ہے

فرمایا! کہ ظاہری علماء کو کوئی مشکل نہیں کہ ظاہر دلائل پر فتوی دیں اور کہہ دیں کہ ہمیں حال کی خبر نہیں۔ مشکل جامع میں الحقيقة والطریقت کو ہے جس کی یہ حالت ہے کہ ہر پہلو اور رعایت کرنا اس پر ضروری ہے حتیٰ کہ بعض لوگوں نے ایسے اشکالات سے تنگ آ کر یہاں تک کہ دیا ہے گرچہ ایسا کہنا سخت سوء ادب ہے۔

القاہ فی الیم مكتوفا و قال له ﴿ۚ ایا ک ایا ک ان تبتل بالماء
﴿ہب اتحہ پیر باندھ کر دریا میں ڈال کر کہا جاتا ہے کہ خبردار! پانی کی کنی بھی نہ لگنے پائے
و رمیان قعر دریا تختہ بندم کر دی ﴾ ۶ بازی کوئی کہ دامن ترکمن ہوشیار باش
اور یہ تنگی عدم تحقیق کے سبب ہے ورنہ سب حقائق اپنے حدود پر ہیں۔

۱۶ رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ بعد نماز ظہر یوم دوشنبہ

ملفوظ ۲۹۱: علم غیب سے متعلق ایک سوال کا جواب

فرمایا! کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے کہ حضرت ﷺ کو جو مغیبات کثیرہ کا علم حاصل

ہے اس کے اعتبار سے عالم الغیب کہنا صحیح ہے یا نہیں اور کچھ تقویۃ الایمان کی عبارتیں نقل کیں تھیں
حضرت والا نے جواب میں تحریر فرمایا السلام علیکم! جواب ہر سوال کا ہے اور سلیس اور
نیس ہے لیکن میرا معمول اس باب میں یہ ہے کہ سائل کی نسبت جب تک دوامر کا اطمینان نہ
ہو جائے سکوت کرتا ہوں وہ دو امر یہ ہیں ایک سائل کی استعداد علمی تاکہ جواب کے رایگان جانے
کا احتمال نہ رہے دوسرا امر سائل کی نیت کہ بجز تحقیق کے اس کا کوئی مقصود نہیں چونکہ آپ کے متعلق
دونوں امر کے معلوم ہونے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے لہذا جواب سے معافی کا طالب ہوں۔

ملفوظ ۲۹۲:

خواب اور تعبیر

فرمایا! کہ مجھ کو تعبیر خواب سے بالکل مناسب نہیں نیز اس لئے دل جسمی بھی نہیں کہ
خواب واقعات کا اثر ہے نہ یہ کہ واقعات خواب کا اثر ہوں۔ خواب حقیقت میں ایک قسم کی حکایت
ہے جو بھلکی عنہ کو چاہتی ہے خواب کی مثال مجازیب کی پیشین گویاں ہیں کہ واقعات کی خبر ہوتی ہے
واقعات ان کا اثر نہیں ہوتے۔ البتہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت
مناسب تھی لیکن اگر اول وہله میں ذہن منتقل نہ ہوا تو تکلف نہ فرماتے تھے اور یہی معمول درسیات
میں بھی تھا۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ کتاب کا مقام اگر اول وہله میں سمجھ میں آجائے تو آجائے ورنہ
میں مالیوں ہو جاتا ہوں اور ایسے موقع پر بہت مرتبہ اثناء درس فرمادیتے تھے کہ بھائی اس مقام میں
شرح صدر نہیں ہوا۔ بعض مرتبہ تو ما تحفہ مدرسین سے ان کے حلقة درس میں تشریف لے جا کر
دریافت فرمایا کرتے تھے کہ یہ مقام سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کی تقریر کردیجئے جو مطلب وہ درس
 بتاتے اس کو آکر نقل فرمادیتے تھے کہ فلاں صاحب نے اس کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے۔

اللہ اکبر کیا ملحوظہ ہے اس بے نفسی کا۔ آج تو کوئی کر کے دکھلانے بڑے بڑے دعویدار
 موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا کو باوجود دیکھنے تعبیر سے بہت مناسب تھی لیکن اس پر بھی
 بعض مرتبہ صاف عذر فرمادیتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ گزشتہ علماء میں تعبیر سے حضرت شاہ
 عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ مناسب تھی اور حضرت ابن سیرین تابعی ہیں وہ اس

میں بہت زیادہ کمال رکھتے تھے۔ بعض کو فن تعبیر سے فطری مناسبت ہوتی ہے اس میں بزرگی شرط نہیں حتیٰ کہ اسلام بھی شرط نہیں۔

چنانچہ علماء نے ابو جبل کو بھی معتبرین کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں جبریل عالم کی زبان پر نماز پڑھ رہا ہوں فوراً فرمایا کہ تمہاری جانماز کے نیچے معلوم ہوتا ہے قرآن شریف کی کوئی آیت پڑی ہوتی ہے۔ قرآن شریف لسان جبریل ہے۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری گود میں ایک بہت وزنی لڑکی ہے اور میں ٹھلق کی وجہ سے اس کو کہیں رکھنا چاہتا ہوں ایک کتیا نظر آئی اس کا پیٹ چاک کر کے اس لڑکی کو اس میں رکھ دیا۔ وہ کتیا میرے ساتھ ہوئی چونکہ میری لڑکی اس کے پاس ہے میں بار بار اس کو مژمڑ کر دیکھتا ہوں۔ اور یہ اندیشہ ہے کہ یہ کہیں چل سندے تھوڑی ہی دور چلا تھا وہ کتیا غائب ہو گئی۔ مولانا نے فرمایا کہ میری سمجھ میں تعبیر نہیں آتی۔ پھر دوسرے وقت آنا اگر سمجھ میں آگئی بیان کر دوں گا۔ وہ شخص دوسرے وقت آیا کہ نماز میں قلب پر تعبیر وارد ہوئی کہ تم کوشہوت کا تقاضہ ہوا ہے تم نے کسی بازاری عورت سے منہ کالا کیا اس کو لڑکی کا حمل سبھر لڑکی پیدا ہونے سے تم کو اس سے تعلق رائد ہوا پھر اس نے بے وفائی کی۔ سبحان اللہ! ان حضرات کے کیسے علوم تھے اب سن کر تو تعبیر کی مناسبت سمجھ میں آتی ہے لیکن ابتداء تو شاید ہی ہے کہ ذہن کی رسائی وہاں تک ہوتی۔

ملفوظ ۲۹۳: مدرسہ کی سند سے متعلق حضرت مولانا محمد یعقوب[ؒ] سے درخواست ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ مجھ کو مدرسہ سے سند نہیں ملی مدرسہ نے دی نہیں ہم نے مانگی نہیں کیونکہ یہ اعتقاد تھا کہ ہم کو کچھ اتنا نہیں پھر سند کیا مانگتے بلکہ میں مع چند ہم سبقوں کے زمانہ جلسہ میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ یہ معلوم ہوا

ہے کہ مدرسہ سے ہم لوگوں کو سند ملنے والی ہے مگر چونکہ ہم کو کچھ آتا جانا نہیں اس لئے اس کو موقوف کرو دیجئے۔ جوش میں آ کر فرمایا کون کہتا ہے کہ تم کو آتا نہیں یہ خیال اپنے اساتذہ کو دیکھ کر آتا ہے لیکن باہر جہاں جاؤ گے تم ہی تم ہو گے اللہ اکبر! کیسے تو کل کیسا تھا فرمادیا تھا۔

کے ارمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم شنبہ

ملفوظ ۲۹۳: مہر کی کام مطلب

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا! کہ احادیث میں جو مغالاۃ مہر نکاح کے وقت مہر بڑھا کر باندھنا کی ممانعت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب قوم کے خلاف ایک شخص قلیل مہر مقرر کرے ورنہ فقہاء اس راز کو صحیح تھے۔

دیکھئے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر غیر اب وجد کسی لڑکی کا نکاح مہر مل سے کم پر کر دے تو نکاح ہی منعقد نہ ہو گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ساری قوم مغالاۃ کراتی ہو تو اپنی اولاد کیلئے مہر مل کی مراعات واجب ہے ممانعت مغالاۃ مہر کا مطلب یہ ہے کہ سب قوم کو چاہیے کہ مہر میں مغالاۃ کو رفع کرے۔

ملفوظ ۲۹۶: تحریک خلافت میں حضرت پرہتان

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ بعض اہمقوں نے زمانہ تحریک خلافت میں مجھ پر یہ بہتان باندھا کہ اس کو گورنمنٹ سے تین سور و پیہ تخواہ ملتی ہے ایک شخص نے برا معقول جواب دیا کہ اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ گورنمنٹ سے خوف زدہ تو نہیں ورنہ گورنمنٹ دباؤ سے کام لیتی اور تخواہ نہ دیتی لیکن اس سے طمع معلوم ہوتی ہے۔ اب طمع کی جب یہ حالت ہے تو تم تین سو سے زائد دیا کرو جب تو تمہارے ساتھ ہو جائیں گے ورنہ حقانیت معلوم ہو جائیگی۔ ایک صاحب سے ایک اور شخص نے میرے متعلق سہی کہا کہ تخواہ پاتے ہیں انہوں نے دریافت کیا کہ کیا تم کو اس پر یقین ہے کہ یہ صحیح ہے ایمان سے کہنا کہا کہ بلکہ یہ یقین ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے انہوں نے کہا کہ پھر کیوں ایسا کہتے ہو کہتے لگے کہ اپنی آواز کو زور دار بنانے کیلئے یہ دین ہے ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ اپنارحم فرمائیں۔

ملفوظ ۲۹۷: ملازم میں کی راحت کی فکر

فرمایا! کہ جس طرح میں اپنی راحت و آرام کی فکر کرتا ہوں ایسے ہی دوسروں کی بھی پہلے بعض احباب بذریعہ ریلوے پارسل بعض اشیاء پھل وغیرہ کی قسم سے بکثرت میرے نام بچج دیتے تھے میں نے اشتہار کے ذریعہ اطلاع کر دی کہ کوئی صاحب میرے پاس کوئی شے میوہ وغیرہ ریلوے پارسل سے نہ بچجیں کیونکہ ملازم میں وغیرہ کو اسٹیشن بچجنے سے مجھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس پر بعض احباب نے لکھا کہ ہمارا جی چاہتا ہے اب کیسے بچجیں۔ میں نے لکھا کہ یہاں کے رہنے والوں میں سے خود کسی کو راضی کرلو۔ اس کے نام بچجو اور اسٹیشن سے وصول کر کے مجھے یہاں پر بیٹھنے ہوئے دیدے اگر یہ انتظام کر سکوا جائز ہے۔ حاصل یہ ہے کہ میں کسی کی ایذاہ کا سبب نہ ہوں اس پر مجھ کو سخت مشہور کیا جاتا ہے۔

ملفوظ ۲۹۸: اپنے کو بڑا سمجھنے پر قہر الہی نازل ہونا

فرمایا! اپنے کو بڑا سمجھنے سے قہر الہی نازل ہوتا ہے

ہر کہ گردن بد عوی افزاد ہے خوشنخن را گردن اندازو
و ہجھن تکبر کرتا ہے و حقیقت میں اپنے کو ذمیل کر رہا ہے۔ ۱۲)

ملفوظ ۲۹۸: اولیاء اللہ کو تکلیف پہنچانے پر انتقام

فرمایا! کہ اولیاء اللہ کو جو شخص تکلیف پہنچاتا ہے اس سے انتقام لیا جاتا ہے اور یہ اولیاء اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن قسم لے لیجئے ان کو دوسروں بھی نہیں آتا کہ یہ ہماری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یہ لوگ تو فنا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔

کے ارمضان المبارک ۱۳۵۰ھ بعد نماز ظہر یوم سہ شنبہ

ملفوظ ۲۹۹: تفسیر دیکھ کر جواب دینا

ایک مولوی صاحب نے تفسیر کے متعلق کچھ سوال کیا فرمایا کہ میں اپنی تفسیر بیان القرآن منگاتا ہوں پہلے اس کو دیکھ لیجئے اگر وہ کافی ہو تو خیروند پھر کچھ سوچوں گا۔

ای سلسلہ میں فرمایا کہ میں نے گوئیں لکھی ہے لیکن لکھا ہوا یاد نہیں جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہی سوچتا اور دیکھنا پڑتا ہے یہ بھی قرآن شریف کا اعجاز ہے کہ اس طرح بھی مخلوق کو عاجز کر دیا ہے۔

مľفوظ ۳۰۰: سوال کا سلیقہ

فرمایا! کہ ایک صاحب نے لکھا تھا کہ مجھ کو سلوک کی تعلیم دیجئے میں نے لکھ دیا کہ سلوک کی حقیقت کیا ہے پھر فرمایا کہ ایک صاحب نے خوب لکھا تھا کہ مجھ کو مطلوب کی حقیقت معلوم نہیں مگر اتنا معلوم ہے کہ کوئی شے ایسی ہے جو بزرگوں سے طلب کی جاتی ہے وہ شے اور اس کے طلب کرنے کا طریقہ بتا دیجئے مجھ کو یہ طرز بہت پسند آیا۔ یہ سلیقہ اور فہم کی بات ہے۔

مľفوظ ۳۰۱: مقصود کے لئے صرف شیخ سے تعلق رکھنا چاہئے

فرمایا! کہ ایک صاحب نے جو کہ اور بزرگ سے مرید ہیں لکھا تھا کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھ سے وہ بھی راضی ہیں اور آپ بھی خوش ہیں دونوں طرف سے مطلوب حاصل ہو سکتا ہے۔ میں نے ان کی غلطی پر متنبہ کیا کہ مقصود کیلئے شیخ ہی سے تعلق ہونا چاہیے۔ اس کے تعلق کی تو یہ شان ہونا چاہئے

ہمه شہر پر زخواب مسم و خیال ما ہے ہد چہ کنم کہ چشم بد خونکند بکس نگاہ ہے
﴿سارا شہر حسینوں سے بھرا ہوا ہے مگر میں اپنے ہی چاند کے خیال میں ہوں کیا کروں یہ کجھت آنکھ کسی اور کی طرف دیکھتی ہی نہیں﴾۔

مľفوظ ۳۰۲: جہلا صوفیہ اور آیت روح کی تفسیر

فرمایا کہ قُلِ الرُّؤْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي میں جہلا صوفیہ نے عجب گز بڑی کی ہے جب تھی تو ابن تیمیہ وغیرہ صوفیہ پر خفا ہوتے ہیں۔

ایک اصطلاح ہے کہ عالم دو ہیں عالم امر یعنی مجردات اور عالم خلق یعنی مادیات اس اصطلاح پر آیت کی تفسیر کر لی کہ روح عالم امر سے ہے یعنی مجرد ہے تو اس کا تجد در قرآن سے ثابت کیا

مگر یہ استدالِ محض لغو ہے کیونکہ اصطلاح خود مقرر کی اور پھر قرآن کو اس کا تابع بنایا قل الرُّوح منْ أَمْرِ رَبِّنِي سے تو مقصود یہ ہے کہ تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے اتنا سمجھو کر روح اللہ تعالیٰ کے امر سے پیدا ہوئی بس اس سے آگے کسی تفسیر کا دعویٰ محض گھرت ہے۔

ملفوظ ۳۰۳: چہلاء کو اتنا ترنہ ہونا چاہئے

فرمایا! ایک صاحب نے لکھا تھا کہ کافر سے سود لینا کیوں حرام ہے میں نے کہا کہ کافر عورت سے زنا کرنا کیوں حرام ہے۔ اس کا تو کوئی جواب نہیں شکایت کا خط آیا۔ لکھا تھا کہ علماء کو اتنی خشکی نہ چاہئے۔ جواب کیلئے تکلیف نہ تھا اس لئے جواب نہیں دیا گیا اگر تکلیف ہوتا تو یہ جواب دیتا کہ جہلاء کو بھی اتنی ترقی نہ چاہئے کہ اس میں ڈوب ہی جائیں۔ پھر ان صاحب سے اتفاقاً قصہ رام پور میں ملاقات ہوئی وہ وہاں سب اسکی پولیس تھے کہنے لگے کہ آپ نے تو مجھ کو پہچانا نہ ہو گا میں نے کہا کہ نہیں کہا کہ میں فلاں شخص ہوں جس نے یہ سوال کیا تھا۔ میں نے کہا کہ آہا آپ سے تو پرانی دوستی نکل آئی کہنے لگے کہ آپ نے ایسا خشک جواب کیوں دیا تھا۔ میں نے کہا کہ تم تھانہ دار ہو۔ کیا؟ مخصوصین اور عوام سب سے برتاو برابر ہے یا فرق ہے انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ فرق ہے۔ میں نے کہا کہ یہی حق ہم کو ہے آپ سے پہلے خاص تعلق نہ تھا اس لئے ایسا لکھا اب تعلق ہو گیا ہے اب ایسا نہ لکھوں گا لیکن جب تعلق کا اثر مجھ پر ہے اور میں ایسا جواب نہ دوں گا ایسا ہی اثر آپ پر ہو گا کہ آپ بھی ایسا سوال نہ کریں گے۔ میں نے سوچا کہ جب میں بندھا رہا ہوں ان کو کیوں نہ باندھوں تاکہ پھر ایسا یہ وہ سوال ہی نہ کریں۔

ملفوظ ۳۰۴: کفار کے سود کا حکم

فرمایا! کہ سود لینے والے اگر ابتدائی حالت میں غور کریں تو ایک ذلت اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے یہ ذوقی دلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ سود ہندوستان میں کفار سے اگر حلال بھی ہوتا بھی اس کی یہ خاصیت ہے جیسے کوئی لطیف المزاج اوجھڑی کھائے تو گوجائز ہے لیکن تکدر ضرور ہو گا۔ میں اس بارہ میں مستفتی کو لکھ دیا کرتا ہوں کہ میری رائے تو عدم جواز کی ہے۔ باقی دوسرے

علماء کا قول جواز پر ہے۔ لہذا اختلاف سے فی الجملہ گنجائش ہے۔

ملفوظ ۳۰۵: ادب راحت رسانی کا نام ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ اصل ادب تعظیم نہیں ہے بلکہ راحت رسانی ہے اگرچہ صورت ادب میں قلت ہی ہو۔ ادب حقیقی اور بے ادبی صوری کے اجتماع کے متعلق فرماتے ہیں۔
 گفتگو یے عاشقان در کار رب ☆ جوش عشق است نے ترک ادب
 بے ادب ترمیست زوکس در جہاں ☆ با ادب ترمیست زوکس در جہاں
 ﴿حق تعالیٰ کی شان میں، عشق کی باتیں جوش عشق کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ترک
 ادب کی وجہ سے بظاہر تو اس عاشق سے بڑھ کر کوئی بے ادب نہیں ہوتا۔ مگر باطن میں اس سے بڑھ
 کر کوئی با ادب نہیں ہوتا۔﴾

ملفوظ ۳۰۶: قبول دعا کرامت نہیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا! کہ قبول دعا کرامت نہیں اس لئے
 کہ دعاء تو عوام کی بلکہ کفار کی بھی قبول ہوتی ہے۔ دیکھو اکفر السکفہ افجر الفجرا (سب
 کافروں سے بڑھ کر کافر۔ اوس فاجروں سے بڑھ کر فاجر) شیطان تک کی دعا قبول ہوئی
 اور دعا بھی کیسی جمتن عادی ہے اور حسب تصریح فقہاء موء ادب ہے۔ شیطان نے کہا تھا انظرنی
 إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ اور وہ دعا قبول ہو گئی پھر ایسے وقت میں جبکہ عتاب ہو رہا تھا مگر کم بجت عابد تھا
 سمجھتا تھا کہ یہ حالت بھی مانع قبول عرض نہیں۔

ملفوظ ۳۰۷: حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی

فرمایا! کہ میں حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کی خدمت میں کانپور سے زیارت
 کیلئے حاضر ہو ارات کو عشاء کے بعد پہنچا۔ کیونکہ راستہ بھول گیا بڑی پریشانی ہوئی۔ اسی وقت رات
 کو ملا۔ ڈانٹ کر فرمایا کون ہو کہاں سے آئے ہو کیوں آئے ہو۔ میں نے کہا کہ طالب علم ہوں

کانپور سے زیارت کیلئے آیا ہوں۔ فرمایا یہ آنے کا وقت ہے۔ میں نے خیال کیا کہ واقعی اتنی رات کو جانا خلاف سنت ہے فرمایا اس وقت کھانا کہاں سے لاوں تمہارے پاس کچھ پیے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں فرمایا کہ کچھ لے کر کھالو اور صبح کو چلے جاؤ اور خادم سے فرمایا کہ فلاں جگہ تھہرا دو پھر تھوڑی دیر میں بلا یا میں نے دل میں سوچا کہ کچھ اور یاد آیا ہو گا۔ مگر میرے دل میں کوئی رنج نہ تھا۔ میں پہنچا اور چٹائی پر بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ یہاں تخت پر بیٹھو۔ خادم سے فرمایا کہ کھانا لاو۔ کھانا آیا۔ ایک پیالہ میں دال اور اسی پر روٹی۔ خادم سے فرمایا تو برا بد تیز ہے۔ اس طرح مہمان کے لئے کھانا لاایا کرتے ہیں۔

پھر مجھ سے دریافت فرمایا کہ کیا کھانا ہے میں نے عرض کیا کہ ارہر کی کی دال اور روٹی ہے فرمایا کہ آہا بڑی نعمت ہے تم تو لکھے پڑھنے ہو مولا نا محمد یعقوب سے پڑھا ہے اچھے آدمی تھے۔ دیکھو صحابہ کیسی ٹلفت میں رجت تھے، ہم تو بہت نعمت میں رہتے ہیں۔ ذکر صحابہ کے جوش میں اٹھے میرے پاس آئے اور میری کمر پر ہاتھ رکھ کر جوش میں اشعار و احادیث پڑھتے رہے۔

پھر مجھ سے دریافت فرمایا کہ بیر لاوں میں نے کہا کہ تبرک ہے فرمایا تبرک کیا ہوتا۔ یہ بتاؤ بیر کھا کر تمہارے پیٹ میں دردو نہیں ہوتا میں نے کہا کہ نہیں بیر لائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤ اور پھر صبح کو ملنا۔ میں نے اس وقت تک عشاء کی نماز نہ پڑھی تھی۔ میں نماز عشاء پڑھ کر سورہ صبح کی نماز اٹھ کر پڑھی اور بعد نماز ہماری طرف منہ کر کے اور مراتبہ کر کے بیٹھے۔ جمعہ کا دن تھا۔ ایک اور مہمان تھے۔ اور امیر شخص تھے ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ دریافت فرمایا کب جاؤ گے۔ عرض کیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد فرمایا کیا ہو گا جمعہ کی نماز کے بعد۔ انہوں نے عرض کیا کہ پھر نماز جمعہ کہاں پڑھوں گا فرمایا۔ ہم کوئی تمہاری نماز جمعہ کے ذمہ دار ہیں غرض ان کو نکال دیا۔

میں سمجھا کہ اب تیر انہر ہے۔ میں نے خود ہی اجازت لیں فرودگاہ تک مجھ کو پہنچانے تشریف لائے پھر میں واپس آگیا۔ اس کے بعد کانپور میں سلام کہلا کر بھیجا کرتے تھے۔ میں نے حج کو جاتے وقت دعا کیلئے لکھا اس پر اپنے قلم سے یہ جواب دیا از فضل الرحمن سلام علیکم۔ دعاۓ خیر نمودم۔

ایک مرتبہ اور جانا ہوا تو شروع ہی سے اچھی طرح پیش آئے۔ گرمیوں کے رمضان شریف تھے۔ دوپہر کا وقت تحالطف کی باتیں شروع کیں کہ ہم جب سجدہ میں جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیار کر لیا اور فرمایا کہ ہماری تھنا ہے کہ ہم کو قبر میں نماز کی اجازت مل جائے۔ عجیب و غریب باتیں ہوتی تھیں۔ جذب غالب رہتا تھا مگر اس پر بھی اتباع سنت کا نہایت اہتمام فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک جدائی کو اپنے ساتھ کھانا کھلا یا کیونکہ سنت ہے فرماتے تھے کہ وہ اتباع سنت کی برکت سے اچھا ہو گیا۔ اس دفعہ ہم لوگوں کو کئی دن تک اپنے پاس نہ سہرایا اور دونوں وقت میں کھانا امیرانہ آتا تھا۔ ایک واقعہ اس بار میں یہ ہوا۔ کہ حضرت کے پوتے گھر میں پٹانے چھوڑ رہے تھے فرمایا ہم نے نہیں دیکھا پٹاخا ہم کو بھی دکھلاو کیا تھا کہ ہے کبھی پٹاخا بھی نہ دیکھا تھا۔ پٹانے لائے گئے جب ایک چھوڑا گیا تو ڈر گئے فرمایا ہائے ری۔ پھر دوبارہ چھوڑا گیا تو نہیں ڈرے پائی چھچھوٹ جانے کے بعد فرمایا کہ بس جاؤ اب ہم کو ڈر لگتا ہے۔

ملفوظ ۳۰۸: حضرت سلیم چشتی اور جہانگیر

فرمایا! کہ سلیم چشتی سے جہانگیر ملنے آئے انہوں نے جوں دیکھنے کیلئے اپنی گذری مرید کو دی اور خود جگہ میں تشریف رکھتے تھے کو اڑ جگہ کے بند تھے خادم نے دروازہ کھلایا دریافت فرمایا کیا ہے عرض کیا کہ بادشاہ آئے ہیں فرمایا لا جوں ولا قوہ میں تو سمجھا تھا کہ کوئی بڑی سی جوں نہیں آئی اس کو دکھلانے کیلئے بلا تا ہے۔

ملفوظ ۳۰۹: صوفیہ کے تذکرہ سے قلب میں حرارت پیدا ہونا

فرمایا! کہ مشائخ صوفیہ کے تذکرہ سے میرے بدن میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ اس وقت بھی پسند آ رہا ہے اور علماء کے تذکرہ سے سخنداں ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ علماء اقرب الی الرحمۃ ہیں جیسے صوفیہ اقرب الی الحجۃ ہیں گرمی عشق پر نور جہاں کا شعر یاد آیا در دلم بکہ گرمی عشق است ☆ موئے بر سینہ ام نبی روید

﴿میرے سینہ میں بے حدگری عشق کی ہے اسلئے میرے سینہ پر بال نہیں اگتے﴾

جہاں گیر نے اس پر اشکال کیا کہ پس ”بر سر تو چکونہ رویہ“ اس نے جواب دیا۔

ایں موئے نیست بر سر من بلکہ خار عشق ☆ در پائے من خلیدہ وازر بر آمدہ

﴿میرے سر پر یہ بال نہیں ہیں بلکہ راہ عشق میں پیروں میں جو کائنے چھے تھے۔ وہ

سر پر نکل آئے ہیں﴾

ملفوظ ۳۱۰: شیعوں کے ایک سلسلہ پر حضرت نانو تویؒ کی ظرافت

فرمایا! کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ کے اثبات نب

یلو اطت پر ظرافۃ لکھا ہے کہ ان صاحبوں کے پاس کوئی منتر ہو گا کہ نطفہ چھپے سے آگے چلا جاتا ہے

اور یہ شعر لکھا ہے۔

جو تھے مرہگان پر خوں سب وہ خار لشیں نکلے ☆ جنوں یہ نیشور کیے کہیں ڈوبے کہیں نکلے

ملفوظ ۳۱۱: سردی میں رساؤں رات کونہ کھانا

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ سردی میں رساؤں رات کو تند رست کو بھی نہ کھانا چاہئے

اگر تمونیہ نہ ہو گا تو تمونیہ کا مونہ تو ہو سکتا ہے۔

ملفوظ ۳۱۲: مشايخ کے ترکہ کے تبرکات میں ورثاء کا حق

فرمایا! کہ یہ آجھل لوگوں کی بڑی غلطی ہے کہ بعض مشايخ اکابر کے ملبوسات وغیرہ کو

ان کی وفات کے بعد صرف جانشین سجادہ نشین رکھ لیتا ہے حالانکہ اس میں سب ورثاء کا حق ہے اس

میں بڑی احتیاط اور توجہ کی ضرورت ہے۔

ملفوظ ۳۱۳: زکوٰۃ کی رقم اور اہل مدارس

فرمایا! کہ اہل علم کو بھی چاہئے خصوص اہل مدارس کو۔ کہ زکوٰۃ کا روپیہ جو مدرسہ میں دیا

جاتا ہے اس کو فوراً تملیک کر کے مدرسہ میں داخل کرنا چاہئے ورنہ بصورت عدم تملیک اگر مزکی

(زکوٰۃ دینے والا) مر گیا تو اس مال زکوٰۃ میں مست کے ورثاء کا حق متعلق ہو جائے گا نیز حوالان حول

کے بعد اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہو گی اگر وہ بقدر انصاب ہوا۔

ملفوظ ۳۱۴: کلید مشنوی میں چند چیزوں کا التزام

فرمایا! کہ میں نے شرح مشنوی میں ان امور کا التزام کیا ہے کہ نہ شریعت سے خروج ہو۔ نہ فن تصوف سے خروج ہو اور توجیہ میں تکلف نہ آنے پائے۔

ملفوظ ۳۱۵: حدیث جبریل کا ایک جملہ

فرمایا! حدیث جبریل جو مشکوٰۃ میں ہے عجبناہ یسالہ و یصدقہ اس میں شبہ یہ ہے کہ استاذ رات دن شاگردوں کے سوال پر تقریر کرتا ہے اور شاگرد بجاوغیرہ کہتا ہے تو اس اجتماع میں تعجب کی کیا بات ہے جواب یہ ہے کہ لہجہ کا فرق منشاء، تعجب کا ہے شاگرد کا بجا کہنا اور لہجہ سے ہے اور استاد کا یہ کہنا کہ ٹھیک ہے اور لہجہ سے یعنی شاگرد کا لہجہ نیازمندانہ ہوتا ہے اور استاد کا حاکمانہ لہجہ ہوتا ہے تو وہاں حدیث میں ابھی استاد ان تھا اس لئے تعجب ہوا کہ جب معلوم ہے تو پوچھتے کیوں ہیں۔

ملفوظ ۳۱۶: مشنوی سے استفادہ کا طریقہ

فرمایا! کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اشکالات باطنی مشنوی مولانا تاروم رحمۃ اللہ علیہ سے حل ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ایسے اشکالات مکتوبات قدوسیہ سے حل ہوتے ہیں۔ اور اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ تجربہ سے معلوم ہوا کہ مشنوی سے خالی الذہن شخص کا استنباط گمراہی ہے۔

صحیح طریق یہ ہے کہ مسائل دوسری جگہ سے معلوم کر لے پھر اس پر مشنوی کو منتبلق کر لے یہ مشنوی دافی کا بڑا اکمال ہے اس فائدہ اور اصل کو پیش نظر رکھو تو فائدہ کامل ہو گا۔

ملفوظ ۳۱۷: تواضع کے بغیر طریق بے کار ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ جس شخص کو داخل طریق ہو کر تواضع میسر نہیں ہوئی وہ بالکل محروم ہے جیسے ایک امیر کبیر کی لڑکی سے کسی نے شادی کی لیکن وہ رقاء (بانجھ) تھی۔ تو مقصود نکاح تو حاصل نہ ہوا۔ خاوند کی نظر میں دو کوڑی کی نہیں۔ اسی طرح بدلوں تواضع داخل طریق ہوتا

بیکار ہے۔ فرماتے ہیں

ایس ہمہ ہاست لیکن ہست نیست ہے۔ نافرشتہ لانشد اہر بخشنے سے
 (یہ تمام چیزیں موجود ہیں مگر وجود حقیقی ان کا نہیں ہے۔ جب تک فرشتے کو درجہ فنا کا
 حاصل نہ ہو تو شیطان ہے)۔

ملفوظ ۳۱۸: حصول تواضع کا طریقہ

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے معلوم ہو کہ مجھ میں تواضع ہے فرمایا
 کہ اگر یہ خیال ہوا کہ مجھ میں تواضع ہے تو یہ کہر ہے اس کے تواضع ہونے کی طرف خیال نہ کرے
 اپنے کو مٹا تا رہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ بہترین علاج اس کا یہ ہے کہ اپنے امراض و حالات کی اطلاع اپنے شیخ
 کو دیتا رہے وہ جو تعلیم کرے اس پر عمل کرتا رہے اس کی تعلیم اور اس کے اقوال میں مزاحمت نہ
 کرے۔ اگر فرض کیا اپنے امراض کسی کو معلوم نہ ہوں جس سے اطلاع کر سکے تو وہ فضائل کا اکتساب
 کر لے جیسے شکر تو کل وغیرہ۔ بس کسی نہ کسی طرح لگا رہے انشاء اللہ ایک روز ایسا آئے گا کہ یہ
 بالکل رذائل سے پاک و صاف ہو جائے گا اسی لگنے کو فرماتے ہیں ۔

اندر میں رہ می تراش وی خراش ☆ تادم آخر دے فارغ مباش
 (اس راستہ میں اتار چڑھاؤ ہیں آخر دم تک ایک دم کے لئے غافل مت ہو)۔

ملفوظ ۳۱۹: اپنی اصلاح کی طرف سے توجہ سے مسرت

فرمایا! کہ جی یوں چاہتا ہے کہ دنیا اپنی اصلاح میں لگی رہے اور جب خدا تعالیٰ بصیرت
 دوسروں کی اصلاح کی عطا فرمائیں تو پھر دوسروں کی اصلاح میں بھی مشغول ہو جاؤ مجھے تو بڑی
 مسرت ہوتی ہے جب کوئی مسلمان اپنی اصلاح کی جانب توجہ کرتا ہے۔

ملفوظ ۳۲۰: اظہار عیوب میں شیخ سے شرمانے کی وجہ

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اظہار عیوب میں شیخ سے

شرمانے کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں یا تو اس سے متعلق یہ خیال ہے کہ وہ امراض کو سن کر اس کو حیرت سمجھے گا یا یہ کہ کسی سے کہے گا۔ تو شیخ میں یہ دونوں احتال بالکل مفقود ہوتے ہیں اگر ایسا نہیں تو وہ شیخ نہیں۔

ملفوظ ۳۲۱: اصلاحی خطوط کا مطالعہ

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ میرے اصلاحی خطوط جمع کر کے مطالعہ کرتے رہا کرو۔ یہ بہت ہی مفید ہے۔

ملفوظ ۳۲۲: حدیث من صلی صلوتنا واکل ذبیحتنا سے ایک اشارہ

فرمایا! حدیث میں (جس کے یہ الفاظ ہیں من صلی صلوتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم اخْنَاكُلْذِبِحَتَّنَا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذبیحہ جو مخصوص ہو اہل اسلام کے ساتھ اس کا کھانا بھی شعائر اسلام میں داخل ہے نیز ایک لطیف اشارہ ہے اس طرف کہ آئندہ ایک زمانہ میں بعض لوگ نماز نہیں پڑھیں گے صرف گوشت کھانے کے مسلمان ہونگے ان کے اسلام کی بھی علامت ہوگی ورنہ صلی صلوتنا کے بعد اس کی کیا ضرورت تھی۔ غرض ایسوں کو بھی حیرت سمجھے۔

ملفوظ ۳۲۳: امراض کے علاج کا طریقہ

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ علی التعاقب اپنے امراض کا علاج کرے اس طرح کہ جو اس کے نزدیک اہم ہواں کو مقدم کرے۔ اسی طرح ایک ایک کو مصلح سے دریافت کرے جب ایک مرض کے علاج میں رسوخ ہو جائے تو دوسرا شروع کر دے اور اول کی مقاومت بھی نہ چھوڑے پھر تیسرا شروع کر دے اور پہلے دو کو نہ بھوٹے۔ آخری بات یہ ہے کہ امراض کا معالجہ شروع کر دے اور اتفاقی تقصیر پر استغفار کرتا رہے اس فکر میں نہ پڑے کہ کتنا نفع ہوا اور کتنا باقی رہا۔ ورنہ اسی حساب میں رہے گا اس کو چھوڑ کر کام میں لگے اور یوں سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ روز اول ہی جیسا اہتمام رکھے اور اپنے کو معالجہ اور استغفار ہی میں ختم کر دے۔

ملفوظ ۳۲۴: علم بھی بڑی نعمت ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ مجھ پر ایک وقت ایسا گزر رہے کہ میں جہل کی تمنا کرتا تھا پھر معلوم ہوا کہ یہ تمنا غلط تھی۔ کیونکہ حقیقت بھی اس علم ہی سے سمجھ میں آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ تحریق العلوم فرض کفایہ ہے و ظنی انه فی هذا الزمان زمان مفسدة و قحط الرجال فرض عین۔ (میر اگمان یہ ہے کہ اس فساد اور قحط الرجال کے زمانہ میں فرض عین ہے) معقول و فلسفہ بھی جس پر اعتقاد نہ ہو۔ محض استعداد کے لئے پڑھا جائے خدا کی نعمت ہیں ان سے دینیات میں بہت معاونت و مدد ملتی ہے لطیف فرق ان ہی سے سمجھ میں آتے ہیں فلسفہ۔ سفر سے تو اچھا ہے۔

ملفوظ ۳۲۵: صحیح اللہ کی یاد وہ ہے جو فکر اصلاح کیسا تھا ہو

فرمایا! کہ بعض لوگ اناجیلیں من ذکرنی سے استدلال کرتے ہیں کہ صرف اذکاری اصلاح کیلئے کافی ہیں کیونکہ ذکر سے قرب ہو گا اور قرب سے معاصی سے نفرت و احتساب ہو گا اور تدابیر کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ ذکرنی میں خود مداری اصلاح بھی داخل ہیں تو بدلوں معالجہ امراض کے ذکر ہی متحقق نہیں۔

دیکھو حصہ حصین میں ہے بل کل مطیع اللہ فہو ذا کر (جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہی ذکر کرنے والا ہے) سنئے ذکر کے معنی ہیں یاد۔ تو یاد تو سب طریقہ سے ہوتی ہے نہ یہ کہ محض زبان ہی سے نام لے لے۔ کیا یہ یاد ہے کہ جس کی یاد کا دعویٰ ہے نہ اس سے بات کرے نہ اس کے خط کا جواب دے نہ اس سے ملنے نہ اس کا کہنا مانے۔ یہ ہرگز یاد نہیں۔ تو جو ذکر بدلوں اصلاح کے ہو وہ ایسی ہی یاد کی طرح سے ہے۔

ملفوظ ۳۲۶: نفع کا مدار مناسبت پر ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا! کہ اس طریق میں نفع کا مدار مناسبت پر ہے پہلے مناسبت پیدا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے میں جو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ کچھ روز یہاں پر آ کر قیام کرو اور زمانہ قیام میں مکاتبہ مخاطبہ نہ ہوان کی صرف یہی وجہ ہے کہ مناسبت پیدا ہو جائے لوگ اس کو

بہت ہی سخت شرط بتلاتے ہیں حالانکہ اس کی ہی سخت ضرورت ہے جب تک یہ نہ ہو مجاہدات ریاضات مراقبات مکاشفات سب بیکار کوئی نفع نہ ہوگا۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر طبعی مناسبت نہ ہو اور عقلی پیدا کر لی جائے فرمایا کہ کوئی بھی ہو۔ ہونا چاہئے نفع اسی پر موقوف ہے۔

ملفوظ ۳۲۷: اچھا کھانا، اچھا پہننا خود نہ موم نہیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اچھا کھانا اچھا پہننا فی نفسہ نہ موم تھوڑا ہی ہے مگر شخ کا بعض کو ان چیزوں سے منع کرتا ایسا ہے کہ جیسے طبیب مرض کے وقت کسی مریض کو اچھی غذاوں سے مثلاً دودھ گھٹی سے منع کرتا ہے تو اس ممانعت سے ان چیزوں کا برآ ہونا تھوڑا ہی سمجھا جائے گا۔

۲۰ رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم جمعہ

ملفوظ ۳۲۸: والدین اور بچوں کی تربیت

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! میرے لڑکے بہت ہی بدشوق ہیں تعلیم کی طرف ان کو قطعاً التفات اور رغبت نہیں اس سے میرا قلب پریشان رہتا ہے۔ فرمایا کہ قلب کے پریشان اور مشوش رکھنے کی کیا ضرورت ہے موسمن کو پریشان کرنے والی چیز بجز ایک چیز کے اور کوئی چیز نہیں وہ حق تعالیٰ کی عدم رضا ہے اس سے تو موسمن کے قلب میں جتنی بھی پریشانی ہو اور جو بھی حالت ہو وہ تھوڑی ہے اور جبکہ رضا کا اہتمام ہے اپنی وسعت اور قدرت کے موافق تو کوئی وجہ نہیں کہ موسمن کا قلب پریشان اور مشوش ہو۔ اس لئے کہ تدبیر ہمارے ذمہ ہے مثلاً تعلیم اولاد کیلئے شفیق استاد کا تلاش کر دینا کاغذ، قلم دوات کامہیا کر دینا کتابیں قرآن شریف کا خرید دینا اور مزید برآں علم کے منافع اور علم دین کے فضائل سا کرت رغیب دیدینا و قیافہ قما غرائب اور دیکھ بحال کر لینا۔ اس اگر یہ سب کچھ ہے تو ہم صرف اسی کے مکلف تھے آگے شرہ کے ہم ذمہ دار نہیں اس لئے کہ شرہ کا مرتب ہونا یا نہ ہونا ہمارے اختیار سے ہے۔ خلاصہ ہے کہ اختیاری کا مولوں کو انسان کر لے

اور غیر اختیاری کے پیچھے نہ پڑے۔ اصل سبب پریشانی کا غیر اختیاری کاموں کے درپے ہوتا ہے۔ بھائی اکبر علی مرحوم بہت ہی دانش مند تھے اپنے بچوں کی تعلیم کے اس باب جمع کر دیے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس باب سب جمع ہیں اب یہ پڑھیں یا نہ پڑھیں تشدد سے کام نہ لیتے تھے اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اب پڑھیں یا نہ پڑھیں ان کو اختیار ہے مجھے کوئی حسرت نہیں واقعی بڑے ہی کام کی اور سمجھ کی بات ہے۔

بھائی مرحوم کی باتیں قریب قریب دانش مندی کی ہوتی تھیں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ زیادہ کاوش اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ صاحب علم ہونا ضروری نہیں مسلمان ہونا ضروری ہے۔ فرمایا کہ ایک اور تم بیرنا فتح اس وقت ذہن میں آئی وہ یہ کہ علماء صلحاء کی صحبت میں کبھی بچوں کو تصحیح دیا جایا کرے۔ محمد اللہ علماء صلحاء کی صحبت سے اتنا ضرور ہو جائیگا کہ دین اور اہل دین سے تعلق اور مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ پہلے بزرگ بچوں کی بیعت کا اہتمام نہ کرتے تھے لیکن حضور مسیح اکابر کا ان کو بہت اہتمام تھا۔

ملفوظ ۳۲۹: غیر مقلداً وَ بِدِ تَهْذِيْبٍ

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ غیر مقلدوں میں بدگمانی کا مرض بہت زیادہ ہے۔ ایک غیر مقلد صاحب حفظ اس وجہ سے مقلد ہو گئے کہ ان میں حقیقی دین نہ دیکھا اور یہ کہتے تھے کہ میں نے غیر مقلدوں کو دیکھا کہ ان میں تقوی طہارت تو ہے، ہی نہیں پکے دنیادار ہیں بلکہ نماز روزہ ہی کے پابند ہیں معاملات بہت ہی گندے ہیں حقوق العباد کا تو ذرہ برابر ان لوگوں کو خیال نہیں الاما شاء اللہ۔ اور فرمایا کہ اکثر پکے محبت دنیا ہیں۔ بزرگوں سے بدگمانی اس قدر بڑھی ہوتی ہے جس کا کوئی حد حساب نہیں اور اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ بذربانی تک پہنچے ہوئے ہیں ادب اور تہذیب ان کو چھو بھی نہیں گئے ہاں بعض محتاط بھی ہیں و قلیل ماہم۔

ملفوظ ۳۳۰: مبتدی کو مختلف بزرگوں کے پاس بیٹھنا مناسب نہیں
ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مبتدی کو مختلف اہل حق کے پاس بیٹھنا

بھی مضر ہے چہ جائیدہ اہل باطل یا اہل بدعت کے پاس بیٹھے ہاں اگر اہل حق کا مذاق متحد ہو تو مفہماً تقدیر نہیں۔ جن کے مذاق متحد نہیں میں اپنے لوگوں کو ایسے بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی منع کرتا ہوں چاہے وہ اپنے ہی بزرگوں میں سے کیوں نہ ہوں نہ اس لئے کہ یہ معصیت ہے بلکہ اس لئے کہ اس میں طالبِ کا قلب مشوش ہو جاتا ہے۔

ملفوظ ۳۳۱: بیکاری سب خرابیوں کی جڑ ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ جو بیکاری ہے یہ سب خرابیوں کی جڑ ہے۔ شیطان غیر مشغول شخص کو اپنی طرف سے مشغول کر لیتا ہے۔ ایک بزرگ مع اپنے خادم کے چلے جا رہے تھے ایک شخص راستہ پر بیکار بیٹھا ہوا تھا وہ بزرگ بدلوں سلام کئے ہوئے گزر گئے۔ واپسی پر پھر اس ہی راستے سے تشریف لائے دیکھا کہ وہ شخص تنکالئے ہوئے زمین کرید رہا ہے آپ نے سلام کیا۔ خادم نے وجہ پوچھی فرمایا کہ یہ پہلے خالی بیٹھا ہوا تھا تو شیطان کو اس سے زیادہ قرب تھا۔ اب زمین کرید رہا ہے اس سے شیطان کو بہ نسبت اس حالت کے بعد ہے اگرچہ یہ فعل بھی مفید نہیں مگر بیکاری سے اسلام ہے۔

ملفوظ ۳۳۲: ماسوی اللہ سے قلب کو خالی کرنے کا مطلب اور طریقہ

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ قول محققین کا نہیں کہ تمام ماسوا کو دل سے نکال کر رب اللہ کی یاد دل میں جمائے جو ایسا کرتے ہیں سخت دھوکہ میں ہیں تمام ماسوا سے قلب کا خالی ہو جانا نہایت مشکل ہے ایسا سمجھنا سخت غلطی ہے اس کی نافع تدبیر یہ ہے کہ جتنا خالی کرتا رہے اتنا ہی خیر سے بھرتا رہے اور ایسی خیر بہت سی چیزیں ہیں مثلًا دین کے لئے علماء صلحاء سے تعلق اور دوستی سو یہ مضر نہیں۔ بلکہ مقصود کی معین ہیں لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں۔ ان باتوں کو صاحب بصیرت سمجھتا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب سے یہ معلوم ہوا کہ جنت میں دوستوں سے ملاقات ہوگی جنت کی تمنا ہو گئی۔ سو ایسے ہی دوست مراد ہیں۔

ملفوظ ۳۳۳: عشق کا حال اور انکے عندر کی تحقیق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ کیا ضرور ہے کہ جو آپ کے فتویٰ میں بدعت ہے وہ عند اللہ بھی بدعت ہو یہ تو علمی حدود کے اعتبار سے ہے باقی عشق کی تو شان ہی جدا ہوتی ہے ان کے اوپر اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ خصوص جبکہ حالت غلبہ کی وجہ سے وہ معذور بھی ہوں مگر ایسا ہر وقت نہیں ہوتا۔ اسلئے دیکھنا یہ ہے کہ عادت غالبہ کیا ہے اگر عادت غالبہ اتباع سنت ہے اور پھر غلبہ حال کی وجہ سے کوئی ایسی بات بھی ہو جائے کہ جو بظاہر اغرض بھی جا سکے اس میں تاویل کریں گے۔ اور اگر عادت غالبہ خلاف سنت ہے وہاں تاویل نہ کریں گے معيار یہ ہے۔ غالبہ حال کی وجہ سے جو عذر ہواں کے بارہ میں فرماتے ہیں۔

اوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد ہزار مر عس رادید و درخانہ نہ شد

(وہی دیوانہ ہے جو آپ کا دیوانہ نہیں)

ماگر فلاش و گر دیوانہ ایم ☆ مست آں ساقی داں پیانہ ایم

(هم اگر چہ مفلس اور دیوانے ہیں مگر مست اسی ساقی اور پیانہ کے ہیں)

ایسے بدعتیوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ جنت میں پہلے داخل کئے جائیں گے اور لوگ پیچھے جائیں گے۔

ملفوظ ۳۳۴: وساوس کو دفع کرنیکی طرف متوجہ ہونا مضر ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ وساوس کے دفع کی طرف اگر متوجہ رہے اس میں کوئی ضرر تو نہیں فرمایا وسو سے قلب کو خالی کرنے کی طرف متوجہ ہونا یہ خود ایک مستقل وسو سہ ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ مضر ہے۔ اسلئے کہ پہلے جو وساوس قلب میں آرہے تھے وہ تو محل تفصیل ہیں کہ آیا اختیار سے آرہے ہیں یا بدoul اختیار کئے اور اس کی طرف دفع کیلئے متوجہ ہونا قصد سے ہے گو دفع ہی کا قصد ہو مگر تو بے مقصد تو ہوئی اس لئے ضرر ساں ہواں کی مثال بھلی کے تارکی سی ہے کہ اگر دفع کی نیت سے بھی ہاتھ لگائے گا تب بھی وہ لپٹے گا۔ اس فکر ہی میں نہ پڑنا چاہیے۔

مثلاً کسی کے قلب میں کفر کا وسوسا آئے اور وہ اس کے دفع کی فکر کرے یہ تدبیر نافع نہ ہوگی۔ بلکہ اس وقت توجہ الہ کی تجدید کر دے یا توجہ الی القرآن کر لے یا توجہ الی اشیخ کر لے یہ تدبیر انشاء اللہ نافع ہوگی۔

لفظ ۳۳۵: اپنی خواہش کے مطابق اپنی حالت کی طلب عبادیت کے خلاف ہے ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ جو آجکل ہر شخص چاہتا ہے کہ جیسی میں چاہوں ویسی میری حالت ہو۔ یہ طلب شان عبادیت کے خلاف ہے۔ بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسا خدا چاہیں (یعنی مشیت تشریعیہ و رضا) ویسا ہوں اسی میں بندہ کے لئے رحمت اور حکمت ہے۔ اب رہی یہ بات کہ وہ بندہ کا کیسا ہوتا چاہتے ہیں سو خدا کا چاہنا حضور ﷺ کے طریقہ سے معلوم ہوتا ہے اور حضور ﷺ کا طریقہ صحابہ کرام سے معلوم ہوتا ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ ائمہ مجتهدین سے معلوم ہوتا ہے اور ائمہ مجتهدین کا طریقہ علماء وقت سے معلوم ہوتا ہے بس اس کا اتباع خدا کے چاہنے کی موافقت ہے اور اس موافقت کے بعد اگر کوئی حالت طبعاً اس کو پسند نہ ہو مگر اس موافقت کے تحت میں ہو تو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ حالت مبارک حالت ہے کہ اپنے کو پسند نہ ہو خدا کو پسند ہو اور وہ حالت غیر مبارک ہے کہ اپنے کو پسند ہو۔ خدا کو پسند نہ ہو۔ حاصل یہ ہے کہ حالت وہی پسندیدہ اور مطلوب ہے جو حق تعالیٰ کو پسند ہوا اسی میں بندہ کیلئے مصلحت اور حکمت ہے اور وہی بہتر بھی ہے۔ حضرت یہاں قیل و قال یا تجویز سے کام نہیں چلتا تسلیم و رضا درکار ہے فرماتے ہیں

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ ☆ جزاک اللہ می نگیرد فضل شاہ
﴿عقل کو تیز کرنا راہ سلوک نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کا فضل اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو شکلی اختیار کرتا ہے﴾۔

اور فرماتے ہیں

آزمودم عقل دوراندیش را ☆ بعد ازاں دیوانہ سازم خویش را

﴿میں عقل دوراندیش کو آزمائنے کے بعد دیوانہ حق بناؤں ﴾۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ شعر تو اس موقع پر خوب ہی چپاں ہوئے بطور مزاح فرمایا کہ شیر کا چپاں ہونا غصب ہے زخمی ہی کر دیتا ہے (یعنی زخمی عشق)۔

ملفوظ ۳۳۶: کیفیات لذیذ ہیں مگر مقصود نہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ کیفیات اور ذوق گولذیز ہیں مگر مقصود نہیں البتہ مقصود کے معین ہیں اور مقصود میں لذت ضرور نہیں جیسے حکیم اجمل خان صاحب کے نسبت میں کسی کو وجود نہیں ہوتا مگر تافع ہے۔ اسی طرح مقصود جو سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے اس میں یہ کیفیات نہیں ہوتے اور جہاں یہ کیفیات اور شورش ہیں وہ باوجود محمود ہونے کے نفسانی حظ ہے روحانی نہیں اور مقصود میں روحانی حظ ہوتا ہے مگر لوگ بڑی قدر کرتے ہیں جیخ و لیکار کی کو دیکھاندی کی ان کی محمود ہونے میں شبہ نہیں مقصود ہونے میں کلام ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں سکون اور اطمینان کی کیفیت راخ تھی شورش کا غالبہ نہ تھا اس لئے اس کو سنت نہ کہیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حضور ﷺ سے کسی امر کا منقول ہوتا سنت ہونے کیلئے کافی نہیں بلکہ جو عادت غالباً ہو وہ سنت ہے اور جو کسی عارض کی وجہ سے صادر ہو گیا ہو وہ سنت نہیں۔ ان کیفیات کی یہ حقیقت ہے کہ ایک شخص کو نماز میں بر سر تک کیفیت رہی وہ شباب کا وقت تھا ضعفی میں وہ کیفیت جاتی رہی۔ تب وہ شخص سمجھے کہ حرارت عزیز یہ کے سبب وہ کیفیت ذوق و شوق کی تھی نماز کی ہوتی تواب بھی ہوتی اب فرمائیے تمیں بر سر تک اس کو نماز کی کیفیت سمجھتے رہے اسی لئے اس طریق میں شیخ کامل کی ضرورت ہے تھا مگر اس مارنے سے کیا ہوتا ہے اور نفسانی اور روحانی کے معیار کے متعلق یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ افعال اکثر روح کی طرف سے ہوتے ہیں اور افعالات نفس کی طرف سے۔

ملفوظ ۳۳۷: کیفیات کو قرب میں دخل نہ ہونے کی مثال

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ افعالات کو قرب میں دخل نہیں جیسے اگر نماز میں کوئی کیفیت نہ ہونے وجدی ہونے استغراقی تو نماز میں کیا نقص ہے؟ نماز کامل ہے۔ ان افعالات کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص حسین ہوا اور سرکاری دفتر میں ملازم ہو تو اس

کو حسن کی وجہ سے تخریج تھوڑا ہی مل رہی ہے اور نہ حسن کی وجہ سے تخریج میں ترقی ہوئی وہ تو جو کچھ بھی ہے کام کی بدولت ہے وہاں دفتر میں کوئی نمائش تھوڑا ہی ہے بلکہ نمائش کی ممانعت ہے۔

ملفوظ ۳۳۸: ایک نووارد مولوی صاحب پر مُواخذہ

ایک نووارد مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آپ کو زیادہ بولنے کا مرض معلوم ہوتا ہے بدلوں اظہار علم کے نہ بیٹھا رہا گیا آخر کیا دنیا سے فہم رخصت ہی ہو گیا آپ کو بولنے کی کس نے اجازت دی اور کیا آپ کو یاد نہیں رہا کہ آنے کی اجازت کے خط میں یہ شرط ہے کہ بشرطیکہ یہاں پر زمانہ قیام میں مکاتبہ مخاطبہ نہ کی جائے مجلس میں خاموش ہیشہ رہو۔ اس شرط کے ساتھ آنے کی اجازت تھی اس کے خلاف آپ نے اول ہی دن کیا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اول ہی روز سے مخالفت شروع کر دی آخر میں کہاں تک آپ لوگوں کے اقوال و افعال میں تاویل کروں کیا تکلیف دینے کے لیے یہ سفر آپ نے کیا تھا اور جو سوال آپ نے کیا ہے اگر اس کے متعلق آپ کو تحقیق ہو بھی گئی تو آپ کا کیا نفع اور صاحب ایسی علمی تحقیقات تو اس کا حق ہے جو بے تکلف ہو۔ ایک دن کا آنے والا اس کے برابر کیے ہو سکتا ہے۔

آپ نے فضول اور عبیث سوال کر کے طبیعت متفقہ کر دی کیا آپ یہاں پر تحقیق علوم کے لیے تشریف لائے ہیں اگر آپ کا مقصد تحقیق علوم ہے تو میں صاف ظاہر کئے دیتا ہوں کہ یہ سفر آپ کا بیکار رہا۔ اس کے لیے تو آپ کو دیوبند یا سہارپور کے مدارس کا سفر کرنا چاہیے تھا۔ وہاں پر یہ کام بحمد اللہ بہت ہی نظم کے ساتھ ہو رہا ہے میں آپ کو خیر خواہی سے مشورہ دیتا ہوں کہ فضول سوالات کرنے سے ہمیشہ بچتا چاہیے خصوص ای شخص سے جس سے اصلاح کا تعلق ہوا یہی باتوں سے انقباض و تکدر ہوتا ہے اور انقباض و تکدر اس طریق میں مہلک چیز ہے اسلئے کہ نفع کا مدار بنشست قلب پر ہے یہی وجہ ہے کہ میں آنے والوں کے ساتھ یہ شرط کرتا ہوں کہ یہاں پر زمانہ قیام میں مکاتبہ مخاطبہ نہ کی جائے میری اس میں کوئی مصلحت نہیں آنے والوں ہی کی مصلحت ہے آپ کے اس وقت کے فضول سوال سے طبیعت متفقہ ہو گئی آئندہ احتیاط رکھیے گا۔

عرض کیا کہ غلطی ہوئی حضرت سے معافی چاہتا ہوں فرمایا کہ معاف ہے خدا نخواستہ انتقام تھوڑا ہی لے رہا ہوں آپ تو سمجھدار ہیں آپ سے ایسی بات ہو تجب ہے۔ یہ یاد رکھنے کے زیادہ بولنا یہ بھی ایک مرض ہے پھر دوسروں کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ جو سوال مولوی صاحب نے کیا ہے ایک غیر اختیاری امر کے متعلق سوائے امر میں کسی کو کیا دخل ہمیں تو یہ کرنا چاہئے کہ جو حکم ہے اس کے ادا کرنے کی فکر میں لگے رہیں اور ان ہی چیزوں کی طلب کرنا چاہئے جو اختیاری ہیں اور ما مور بہ ہیں اور جو ما مور بہ نہیں ان کی فکر ہی عبیث ہے ایسی چیز کے ملنے نہ ملنے کی مصلحت کس کو معلوم اس کو تو حق تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کے لئے کیا مفید ہے اور کس کے لیے کیا مضر ہے جو عطا فرمائیں۔ وہی اس کے لیے مفید ہے حق تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر حکمت اور مصلحت رکھدی ہے خواہ عطا ہو یا منع ہو۔ اسی لیے فرماتے ہیں۔

وَلَا تَتَمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

یہ مسئلہ قرآن پاک نے ط فرمادیا ہے یعنی تم ایسے کسی امر کی تمنامت کرو۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر (وہی طور) پروفیت بخشی ہے آگے فرماتے ہیں لِلَّذِي جَاءَ
 نَصِيبَ مِمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلِّذِيَّةِ نِصِيبَ مِمَّا أَكْتَسَبُوا یعنی مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے پس جب موبہوب میں دخل نہیں تو کیوں پیچھے پڑے اور فرماتے ہیں وَ اسْتَلُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست کیا کرو۔ یہ فرما کر تعب سے بچایا ہے کہ اگر ایسی چیز کو جی ہی چاہے تو مانگ لو تھیصل کے درپے مت ہو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا یعنی بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ دیکھئے جذبات کو روکا نہیں یہ بھی گوارانہ فرمایا کہ جذبات کو روکا جائے کیاٹھکا شہ ہے حق تعالیٰ کی اس رحمت کا یعنی اگر جی چاہے مانگ لو۔ اگر مناسب ہو گا دیدیں گے ورنہ خیر! تو دیکھئے تعب سے کیسا چالیا۔

ملفوظ ۳۳۹:

عارفین کی نظر

ایک سلسلہ افتگنوں میں فرمایا کہ عارفین کا مذاق ہی جدا ہوتا ہے دوسروں کی نظر وہاں تک کام نہیں کرتی حضرت علی رضی اللہ عنہ، سے کسی نے پوچھا کہ آپ کونا باغی کی حالت میں مر جانا پسند ہے جس میں کوئی حساب کتاب نہیں گناہوں سے پاک صاف جنت نصیب ہو یا حالت بلوغ میں کوچھ پہنچا کر اس کے بعد بڑے خطرات اور مواخذات میں پڑ جائیں فرمایا یہ ہی حالت پسند ہے کہ بلوغ کے بعد خطرہ میں پڑیں۔ اسلئے کہ عدم بلوغ میں حق تعالیٰ کی معرفت نہ تھی جو عین مطلوب ہے کیاٹھکا ہے ان عارفین کی وسعت نظر اور تعلق مع اللہ کا۔ بات یہ ہے کہ ایسے ہی لوگوں سے وعدہ ہے حق تعالیٰ کا کیونکہ استقامت اور پوری اطاعت معرفت ہی سے ہو سکتی ہے پس فرماتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا أَرْبَناَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَكَةُ الْأَتَخَافُوا
وَلَا تَحْرَزُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَولَيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ
الْدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشَهَّدُونَ إِنْفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ۔ (جن لوگوں
نے دل سے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر مستقیم رہے ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم نہ
اندیشہ کرو نہ رنج کرو اور تم جنت کے ملنے پر خوش رہو جس کا تم سے پیغمبروں کی معرفت وعدہ کیا جایا
کرتا تھا اور ہم تمہارے رفیق تھے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے اور تمہارے
لیے اس جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا موجود ہے اور نیز تمہارے لیے اس میں جو مانگو گے
موجود ہے۔)

اور فرماتے ہیں:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِداءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسَنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ (اور جو شخص اللہ اور رسول
کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام
فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں)

پھر دوسری آیت کاشان نزول فرمایا کہ ابو رافع ایک صحابی ہیں ان کو ایک بار غم ہوا کہ یہاں توجہ چاہتے ہیں حضور اقدس ﷺ کے دیدار سے مشرف ہو جاتے ہیں مگر جنت میں آپ بڑے درجہ میں ہوں گے اور ہم چھوٹے درجہ میں جہاں ہماری رسائی بھی نہ ہوگی وہاں کس طرح دیدار میسر ہوگا اور اس خیال سے ان کو بے حد قلق ہوا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جب انہوں نے یہ ساتو بے حد خوش ہوئے کہ الحمد للہ جنت میں بھی حضور ﷺ کی زیارت کیا کریں گے اسی طرح دوسرے دوستوں سے جن کا ذکر صد ایقین و شہداء و صالحین میں ہے ملا کریں گے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اس صورت میں تو کم درجہ والے بڑے درجوں میں پہنچ جائیں گے فرمایا کہ پہنچ جائیں گے تو حرج اور تقاض کیا واقع ہوا یہاں پر بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کم درجہ والے بڑے درجوں والوں کے پاس ملنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر معیت کے وہ معنی نہیں جو آپ سمجھئے کہ اس درجہ پر مستقلًا پہنچ جائیں گے۔ اب فرمائیے کیا شبہ ہے عرض کیا کہ اب کوئی شبہ نہیں رہا۔ عرض کیا کہ جنت میں پہنچ کر حضرت ہوگی اور جی چاہے گا کہ ہم بھی بڑے درجوں میں ہوتے فرمایا کہ جی ہی نہیں چاہے گا جو جس کے لیے تجویز ہوگی اس پر دل سے راضی رہے گا۔

ملفوظ ۳۲۰: تقویض کی حقیقت اور دعا کا وجوب

مبتدی اور منتهی حالتوں میں مشابہت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تقویض کے یہ معنی نہیں کہ مانگے نہیں تقویض کے معنی یہ ہیں کہ یہ عزم رکھے کہ اگر مانگنے پر بھی نہ ملا اس پر بھی رہوں گا تقویض کی حقیقت اگر نہ مانگنا ہوتا تو مانگنے کا امر نہ فرمایا جاتا یہ کوئی بہت باریک مسئلہ نہیں ہے۔ مانگنے کے لیے نص موجود ہے البتہ یعنی دعاء کے وقت بھی اس کا استحضار رہے کہ اگر مانگنے پر بھی نہ ملا تو اس اس پر دل سے راضی رہوں گا۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے فضلاء کو شبہ ہو گیا کہ دعاء اور تقویض کیسے جمع ہوں گے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ خوب مانگے اور خوب الحاج وزاری کرے مانگنا ہرگز تقویض کے منافی نہیں مانگنے کو کون منع کرتا ہے اپنے بزرگوں کا بھی یہی معمول رہا ہے جو میں اس وقت

بیان کر رہا ہوں اور ایک کام کی بات بیان کرتا ہوں جو یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ اس میں عبدیت زیادہ ہے کہ یہ سمجھ کر مانگے کہ یہ چیز ضرور ہم کو ملے گی اور ضرور ہی دیں گے۔ یہ بھی شان عبدیت کے لیے ایک لازم چیز ہے اور مانگنے کے آداب میں سے ہے آگے انکو اختیار ہے کہ اگر بندہ کے لیے وہ مصلحت اور حکمت دیکھیں گے عطا فرمادیں گے ایک اور بات بیان کرتا ہوں مانگنے کے متعلق جب حق تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے تو خود اس کو بھی مقصود سمجھو تو مقصود دو ہوئے ایک وہ چیز جو مانگ رہے ہو دوسرے خود مانگنا بھی بلکہ نہ مانگنے پر اندریشہ ہے اسلئے کہ حکم مانگنے کا تھا اس میں استغنا سے کام لیا۔ بعض لوگ خود دعا کو مقصود سمجھتے ہیں اور حاجت کو مقصود نہیں سمجھتے غلطی ہے خود حضور ﷺ بعد طعام کے دعائیں یہ اضافہ فرمایا کرتے تھے غیر مودع ولا مستغنى عنه۔ ربنا یعنی ہم اس کھانے کو رخصت نہیں کرتے اس سے مستغنى نہیں اور صدقہ حادیت ہیں جن میں حضورؐ سے حاجتیں مانگنا ثابت ہے تو ایسی چیز تفویض کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے مانگنے کو تفویض کے خلاف سمجھنا سخت غلطی ہے گواجتہادی ہے جس کا سبب غلبہ حال ہے انہیں بعضے اہل دعاء کی نسبت حافظا کا یہ شعر پڑھ دیتے ہیں

شب تاریک و نیم موچ گردابے چیس ہائل ☆ کجا دانند حال ماسک ساراں ساحل ہا

﴿﴾ اندر ہیری رات ہے موچ کا خوف ہے اور ایک ہولناک گرداب ہے (ان حالات میں ہم دریا کا سفر کر رہے ہیں تو) جو لوگ آرام سے کنارہ دریا پر کھڑے ہیں ان کو ہماری حالت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے ۱۲﴿﴾ مگر خوب سمجھو اور محققین اہل دعا جس ساحل پر ہیں وہ ادھر کا ساحل مراد ہے جو عبور دریا کے بعد ملا ہے ادھر کا نہیں جو خوض فی المحرے پہلے ملتا ہے اس کو تو وہ طے کر چکا ہے وہ کجا دانند میں نہیں آ سکتا اگر اس طرف والے کا حال کھل جائے تو خود مفترض یہ کہنے لگے ۔

جملہ عالم زیں سب گراہ شد ☆ کم کے زابدال حق آگاہ شد

گفت ایک ماپش ایشان بشر ☆ ما ایشان بستہ خوابیم و خور

﴿ تمام عالم عارفین کونہ پیچانے کی وجہ سے ہی گراہ ہوا۔ (کہ انہوں نے ان حضرات

کی صرف ظاہری حالت پر نظر کر کے کہدیا کہ) یہ بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں اور یہ بھی خواب خور کے اسی طرح محتاج ہیں جیسے ہم۔ (مگر ان حضرات کے باطنی حالات کو نہ سمجھ سکے) ۱۲۴) تو خواص کی بعض انہائی حالتیں مبتدی کی ابتدائی حالتوں کے مشابہ ہوتی ہیں اس بناءً یہ سب مل کر تین ہی حالتیں ہوتی ہیں۔

اس کی مثال ہائڈی کی مثال ہے کہ اول جب اس کو چوہبے پر رکھا جاتا ہے تو بالکل سکون ہوتا ہے اور جب پکنا شروع ہو جاتی ہے تو جوش و خروش ہوتا ہے اور جب پک کر تیار ہو جاتی ہے تو پھر وہی سکون عودہ کر آتا ہے۔ ایک مبتدی کی مثال ہے ایک مشتی کی ایک نیچ والے کی۔ مشتی کی حرکات سکنات بالکل مشابہ مبتدی کے ہوتے ہیں مگر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔

مبتدی بھی یوی سے ہمستر ہوتا ہے اس کو صرف حنفی مقصود ہوتا ہے اور نیچ والا غلبہ حال سے اس طرف کم ملتافت ہوتا ہے اور مشتی کو حنفی بھی ہوتا ہے مگر غالب نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا حکم ہے سو ظاہری اشتغال سے اس کی حالت مبتدی جیسی معلوم ہوتی ہے مگر زمین آسمان کا فرق ہے مگر خفی اور یہ سب باتیں سمجھنا کام کرنے پر موقوف ہے ورنہ محض باتیں بنانے سے یا لبی چوڑی تحقیقات بیان کرنے سے یا نیت کے دعوے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کوئی نابالغ کہے کہ میں نیت کرتا ہوں بالغ ہونے کی تو کیا وہ بالغ ہو جائے گا؟

ملفوظ ۳۲۱: اشغال و مجاہدات صوفیہ بدعت نہیں

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج کل بعض خشک علماء بھی طریق اصلاح کے بعض اجزاء کو بدعت کہتے ہیں جیسے بعض ریاضات یا بعض اشغال فرمایا کہ بدعت کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو دین سمجھ کر اختیار کرے اگر معاجل سمجھ کر اختیار کرے تو بدعت کیسے ہو سکتا ہے پس ایک احداث للدین ۱۲۴) دین حاصل کرنے کے لیے کوئی جدید بات پیدا کرنا۔ ۱۲۵) ہے اور ایک احداث فی الدین ۱۲۶) دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کرنا۔ ۱۲۷) ہے۔ احداث للدین معنی سنت ہے اور احداث فی الدین بدعت ہے۔ اس پر بحمد اللہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا یہ زیادہ تر جہلاء صوفی کی

بدولت بدمام ہوا ہے محض گدی نہیں ہوتا ان کے یہاں مقصود طریق ہے حالانکہ گدی نہیں ہیں
گھوڑی نشینی انکو کہاں نصیب۔

حق تعالیٰ حاکم بھی ہیں حکیم بھی ملفوظ ۳۲۲:

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حق تعالیٰ کو ہر وقت اختیار ہے کہ اگر وہ چاہیں تو دوزخیوں
کو جنت میں اور جنتیوں کو دوزخ میں بدل دیں ان کے اختیار میں ہے اور اگر وہ ایسا کریں تو وہی
حکمت ہو یہی نہیں کہ فقط ضابطہ کی وجہ سے مان لیا جائے کہ وہ حاکم ہیں یہ تو بہت گھٹا ہو اعقیدہ ہے
یہ عقیدہ بھی ہوتا چاہئے کہ حکیم بھی ہیں پھر کبھی کوئی اعتراض ہی قلب میں پیدا نہیں ہو سکتا اور اس پر
بھی قادر ہیں کہ اگر چاہیں تو دوزخیوں کو جنت میں بھیج کر تکلیف دیں اور جنتیوں کو دوزخ میں بھیج
کر راحت دیں۔ اختیار اور حکمت کو یوں سمجھ لیجئے گا کہ جیسے کسی کے یہاں الماری ہے اور پر کے درجہ
میں کپڑے رکھے ہیں اور نیچے کے درجہ میں برتن۔ اب وہ کسی مصلحت کی وجہ سے کپڑوں کو اٹھا کر
نیچے کے درجہ میں رکھ دے اور برتوں کو اوپر کے درجہ میں رکھ دے تو اس کو اختیار بھی ہے اور حکمت
بھی ہو گی ایسے ہی اللہ میاں کی دو الماریاں ہیں ایک جنت اور ایک دوزخ وہ جب چاہیں اور جس
کے لیے چاہیں بدلتے اس میں کسی کو مزاحمت کا کیا حق۔ اگر اس میں کوئی مزاحمت کرے تو وہ
الماری کی مزاحمت اللہ ماری ہے۔

۲۰ رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس بعد نماز جمعہ

ملفوظ ۳۲۳: اس راہ میں مست کر، ہی پچھہ ملتا ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں نے فلاں مولوی صاحب کو لکھا تھا کہ اس طریق میں
افعال مقصود ہیں انفعالات مقصود نہیں میں نے ان دو ہی جملوں میں تمام تصوف کی حقیقت اور
روح بتلا دی تھی اور بیان کردی تھی مگر ان مولوی صاحب نے کوئی قدر نہ کی۔ تجھ بہے کہ صاحب
علم ہو کر بھی نہ سمجھے۔ بات وہی ہے جو میں کہا کرتا ہوں کہ ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ کام کچھ نہ کرنا پڑے
بزرگ اپنے سینوں میں سے دیدیں پہلے یہ تو معلوم کر لو کہ خود ان کو یہ چیز کیسے ملی ہے تم کو گھر بیٹھے

بھلائے کہ کچھ کرنا دھرنانہ پڑے کیے مل جائے گی۔ کسی کی جو تیار سیدھی کروتا ک رگڑا س پر بھی اگر مل جائے تو باغیت ہے اس راہ میں تو مت کر فنا ہو کر کچھ ملتا ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

قال را بگزار، مردِ حال شو ☆ پیش مردے کاملے پامال شو

ملفوظ ۳۴۳: استعداد کتنے دنوں میں پیدا ہوتی ہے

ایک مولوی صاحب نے سوال کیا کہ حضرت استعداد کتنے دنوں میں پیدا ہو سکتی ہے فرمایا قد مختلف ہوتے ہیں بچپن میں قد پست ہوتا ہے رفتہ رفتہ بڑھتا ہے کیا کوئی یہ بتلا سکتا ہے کہ اس قدر قد کتنے دنوں میں ہو جائے گا نہیں بتلا سکتا۔ اس فکر ہی میں آدمی کیوں پڑے اور فی کل واد یہی مون ﴿وہ شاعر لوگ خیالی مضموم کے ہر میدان میں حیران پھر رہے ہیں ۱۲﴾ کا مصدقہ کیوں بنے میں دعوے سے نہیں کہتا مگر اللہ نے ایسے اصول دل میں ڈال دیے ہیں کہ بڑی سے بڑی بات آسان اور سہل ہو جاتی ہے اور اس ہی لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر بڑی سے بڑی سلطنت بھی محققین کے ہاتھوں میں ہو تو اس کا انتظام ہو سکتا ہے اور کوئی بد نظری بھی محمد اللہ نہ ہو۔

ملفوظ ۳۴۵: وجہ کی تعریف اور روتانہ آنے پر افسوس ہونا روتا ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حالت محمودہ غیر اختیاریہ کو وجود کہتے ہیں جو محمود ہے مگر مامور نہیں انہوں نے عرض کیا یہیکون ویزیدهم خشوعا ﴿اور یہ قرآن ان کا خشوع بڑھادیتا ہے﴾ فرمایا گیا ہے کیا یہاں پر قصد سے روتا مراد ہے فرمایا کہ اس میں صرف فضیلت بکاء کی مذکور ہے اس کا امر نہیں اس لئے قصد سے روتا مراد نہیں۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ جس کو روتا نہیں آتا فرمایا اس کو بھی آتا ہے عرض کیا کہ کہاں آتا ہے فرمایا کہ روتانہ آنے پر افسوس ہونا یہ بھی روتا ہی ہے بعض کو فلیض حکوا قلیلا ولیکوا کثیرا ﴿تحوڑے دنوں میں دنیا میں بنس لیں اور بہت دنوں آخرت میں روتے رہیں﴾ سے بکاء کے مامور ہونے کا اندیشہ ہو گیا ہے مگر وہ صورۃ امر ہے مگر معنی خبر ہے قیامت میں کفار کے وقوع بکاء کی خبر دے رہے ہیں۔

ملفوظ ۳۲۶: جاہل صوفیہ اور کوڑ مغزی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آجکل جاہل صوفیوں کے نہایت پھراست دلالات ہوتے ہیں وہ فن کو ثابت کرنا چاہتے ہیں مگر جاہل ہیں ثابت کرنے پر قادر نہیں۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مغز ہمارے پاس ہے فرمایا کہ جی ہاں مگر کون سا مغز ایک قسم مغز کی کوڑ مغزی بھی ہے۔

ملفوظ ۳۲۷: روزہ میں اگر بقیٰ کی خوشبو سوگھنا

ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت اگر کی بتی قصداً مسجد میں ایام رمضان المبارک میں دن کو جلاودی جاتی ہے اس سے روزہ میں تو فرق نہیں آتا فرمایا کہ قصداً تو اس کو نہیں سوگھتے عرض کیا کہ نہیں فرمایا کہ روزہ میں تو خرابی نہیں آتی مگر اچھا نہیں شب کو جلاالیا جائے۔

ملفوظ ۳۲۸: آج کل کے مصنفین

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آجکل تو ہر شخص مصنف بنا ہوا ہے۔ بعض بعض مصنفین میرے پاس رسائل بغرض تقدیم بھیجتے ہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کیوں اس شخص نے تکلیف اخھائی اور وقت بریکار کھویا نام تک رکھنے کا تو سلیقہ ہوتا نہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سنا تھا کہ سب سے پہلے کتاب کا نام دیکھو اگر اس کا نام موضوع کے مناسب ہو تو کتاب درست کیوں وقت بھی ضائع کیا۔ واقعی کام کی بات فرمائی۔ یہ حضرات مبصر ہیں ان کی نظر حقیقت پر پہنچتی ہے ان کی معمولی معمولی باتوں میں علوم ہوتے ہیں۔

ملفوظ ۳۲۹: سہو نیان اور حسد و عیب جوئی

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس کا کون دعوے کر سکتا ہے کہ میری تصنیف میں کوئی لغزش یا کوتاہی نہیں بشریت ہے سہو نیان ساتھ لگا ہوا ہے لیکن اسی کے ساتھ

مدئی نیان کے متعلق یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی نیان ہے یا قصد سے ایسا دعوے کیا گیا ہے سو اگر کوئی محض حد کی راہ سے کسی پر اعتراض ہی کرنا چاہے وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے اور اس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہی مشغله ہے کہ عیب جوئی میں لگ رہتے ہیں۔

عیب چین کی مثال ایسی ہے جیسے باغ میں کوئی پھول سونگھنے کی غرض سے کوئی پھل کھانے کی غرض سے کوئی سیر و تفریح کی وجہ سے جاتا ہے اور سور جو جاتا ہے سونگھتے سونگھتے جہاں پاخانہ ہو گا وہیں پہنچ جائے گا۔ اسی طرح حسد کی کسی خوبی پر نظر نہیں پڑتی۔ اگرچہ کتنی ہی خوبیاں ہوں ہمیشہ عیب ہی کی جستجو میں رہتا ہے۔

ملفوظ ۳۵۰: ایک شخص کے جواب کے لئے دھمکی

فرمایا کہ ایک خط آیا ہے لکھا ہے کہ بواپسی ڈاک اس عریضہ کا جواب دو اور اگر نہ دیا تو حشر میں دامن گیر ہونگا اور اس میں جواب کے لئے نکٹ بھی نہ تھے فرمایا کہ نکٹ نہ رکھنے پر اس شخص کا یہ خیال نہ ہوا کہ کہیں میں دامن گیر نہ ہوں کہ خواہ مخواہ کی اذیت دی۔

ملفوظ ۳۵۱: اصلاح طالب سے چشم پوشی خیانت ہے

ایک خط کے سلسلہ میں فرمایا کہ حضرت اگر میں طالبین کی غلطیوں کی تاویلیں کر لیا کروں تو اصلاح اور تربیت ہی نہیں ہو سکتی۔ ان کے امراض سے اگر چشم پوشی کی جائے تو اعلیٰ درجہ کی خیانت ہے برآنتے والوں میں حس نہیں۔ رہا چشم پوشی کی فرمائش کرنے والے مجھ پر ایک قسم کا دباؤ ڈالتا چاہتے ہیں مگر مجھ کو دبنے کی کیا ضرورت ہے کیا کوئی میرا کام ہے یا کوئی میری غرض ہے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایسا تو کوئی نہیں سمجھتا فرمایا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ کہ اس کا قصد تو نہیں ہوتا۔ مگر آخر عنوان بھی ایسا کیوں اختیار کیا جائے۔ جس سے اس قسم کا شہر پیدا ہو سکتا ہے۔ اصل میں ان باتوں کا تعلق فہم سے ہے فہم بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو عطا فرمادیں۔ میں مشقت سے نہیں گھبراتا جس قدر چاہے خدمت لی جائے ہاں بد سلیقگی اور بنے اصولی سے گھبرا تا ہوں کہ میں تو اس کی اصلاح کرنا چاہوں اور اس سے لوگ گھبرا میں پھر

یہ کہ میں دوسرے کو بدوں اس کی طلب کے کبھی کوئی تعلیم نہیں کرتا۔ تو تعلیم کی درخواست کے بعد اس سے گھبراانا کیا۔ معنی حاصل یہ کہ میں تعلیم کے متعلق کسی کو خطاب خاص نہیں کرتا البتہ طلب پر خطاب خاص کرتا ہوں اور یوں تو بحمد اللہ ہر وقت ہی عام اصلاحی تعلیم میرے یہاں ہوتی رہتی ہے جس پر بھی لوگوں سے لڑائی ہو جاتی ہے میں تو چاہتا ہوں کہ بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح رہے اور لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔

ملفوظ ۳۵۲: مصائب کے وقت بڑے گناہ کو سوچنا ایک لطیفہ

فرمایا کہ ایک خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ میں بہت سوچتا ہوں کہ ایسا کون سا گناہ مجھ سے ہوا کہ جو اس قدر مصائب میں مبتلا ہوں جواب میں فرمایا کہ جب پریشانی نہ تھی اس وقت نہ سوچا کہ میرا ایسا کون سا عمل صالح تھا جس کی وجہ سے خوش عیش بنادا۔ اعمال حسنہ کو تو سب کو مقبول ہی سمجھتا رہا اور خوش عیشی میں موثر سمجھتا رہا وہاں نہ سوچا کہ کون سا عمل اس کا سبب ہو گیا تھا اور گناہوں میں امتیاز ڈھونڈتا ہے کہ کون سا گناہ سبب مصائب کا ہوا۔ لوگ گناہ صغیرہ کی تو کوئی اصل ہی نہیں سمجھتے حالانکہ وہ صغیرہ کبیرہ کے مقابلے میں صغیرہ ہے اپنی ذات میں تو صغیرہ نہیں مثال سے سمجھ لیجئے جیسے چنگاری اس میں کیا چھوٹی کیا بڑی چھپر پھونک دینے کے لیے تو چھوٹی بھی بہت ہے۔

(لطیفہ) فرمایا کہ ایک مولوی صاحب کا خط آیا ہے عجیب نام ہے قیاس گل۔ پھر فرمایا کہ گل بھی دو ہیں ایک پھول اور ایک حقہ کا گل۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! ایک چران گل بھی تو ہے فرمایا ہاں صحیح ہے پھر اسی پر مبنی کر کے فرمایا کہ ان مولوی صاحب نے جو عرف کے اتباع میں مجھ سے باعث پوچھی ہیں ان میں مجھ کو دوسروں پر قیاس کر کے قیاس کو گل کیا ہے۔

ملفوظ ۳۵۳: ایک عورت کے عاشق کے خط کا جواب

فرمایا کہ ایک خط آیا ہے لکھا ہے کہ ایک عورت کو اپنا کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے کوئی وظیفہ برآہ نواہش (نوازش) رحمانی بتلا دوتا کہ میری (سربزی) نکل آئے جواب میں فرمایا کہ نواہش (نوازش) یہ ہی ہے کہ تو بہ کرو سر بھی (سربزی) ہی اسی میں ہے۔ ایک صاحب نے عرض

کیا کہ توبہ کس بات سے فرمایا کہ عورتوں کے مسخر کرنے سے (ایسی سلسلہ (حرف ز کو حرف ج سے بد لئے کے بارہ میں) فرمایا کہ کبھی کبھی طبیعت میں طالب علمی کی شوخی آجائی ہے مگر وہ ایسی ہے کہ جیسے کسی نے کہا ہے کہ

وقت پیری شاب کی باتیں ☆ ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں

ملفوظ ۳۵۴: رخصتوں پر عمل

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک متعارض نے مجھ پر اعتراض کیا ہے کہ رخص (شرعی سہولتوں پر) عمل کرتا ہے مگر ہم رخص کو تو تمام عمر انشا اللہ تعالیٰ نباد دیں گے اور دعوے سے عزائم عمل کرنے والوں کی چاروں کی چاندنی ہے اور بھائی صاف صاف بات یہ ہے کہ عزیمت میں محنت ہے اور محنت ہوتی نہیں اور کبھی کی بھی نہیں۔ بس عملی حصہ تو بہت ہی کم ہے۔ رہا علم تو یہ بھی خدا تعالیٰ کی عنايت ہے کہ دو چار باتیں آگئیں دوسروں کو ہلا دیتا ہوں کمال اس میں بھی نہیں۔

ملفوظ ۳۵۵: واعظ کے لیے باعمل ہونا شرط نہیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ واعظ کے لیے باعمل ہونا شرط نہیں ہے بلکہ پر بھی واعظ ہونا واجب ہے جیسے طبیب کا پرہیز گار ہونا شرط نہیں بلکہ پرہیز پر بھی واجب ہے کہ مریضوں کا علاج کرے۔

ملفوظ ۳۵۶: ایک مولوی صاحب کے بے اصول سوال پر گرفت

ایک مولوی صاحب کے ایک بے اصول سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ اصطلاحات آپ کو مبارک ہوں یہ ہی چیزیں تو اس طریق میں سدرہ ہیں آپ نے اس وقت ایک بیکار اور فضول سوال کر کے طبیعت کو منع کر دیا اب اگر متذہ کرتا ہوں تو بد خلق مشہور ہوتا ہوں نہ متذہ کروں تو اصلاح کیسے ہو۔ آخر کیوں آپ کو بیٹھنے بھلانے ایسی بات وجہی جس کے سر نہ پیر بے جوڑ ہائک وی۔ معلوم بھی ہے کہ اصطلاحات کا نام علم نہیں حقائق کا نام علم ہے۔ مولوی صاحب میں آپ کو ہمیشہ کے لیے متذہ کرتا ہوں کہ کبھی ایسا فضول اور لغو سوال نہ کیا کجھی ایسی باتوں سے طبیعت مکدر

ہو جاتی ہے اور پھر نفع خاک بھی نہیں ہوتا ایسا شخص جیسا آتا ہے ویسا ہی کورالوٹ جاتا ہے۔

ملفوظ ۳۵: حضرت نانو توئی حضرت حاجی صاحبؒ کی زبان تھے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے بزرگوں میں محمد اللہ ہمیشہ حقائق ہی رہے مخالفین کو بھی اس کا اقرار ہے ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحبؒ کے حقائق کو مولا نا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بکثرت ظاہر فرمایا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہر ایک بزرگ کو ایک خاص لسان دی جاتی ہے میری لسان مولوی محمد قاسم صاحبؒ ہیں۔

ملفوظ ۳۵۸: ایک شخص کی ادھوری بات پر موافقہ

ایک دیہاتی شخص نے آکر تعویذ مانگا اور یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کا تعویذ حضرت والا نے فرمایا کہ میں سمجھنا نہیں اس نے ذرا بلند آواز سے فرمایا کہ تعویذ کو آیا ہوں فرمایا کہ میں بہرائیں ہوں سن لیا مگر سمجھنا نہیں ذرا باریک بات کو کم سمجھتا ہوں (یہ مزاج سے فرمایا) اس پر بھی اس نے یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کا تعویذ چاہیے فرمایا کہ جاؤ باہر سہ دری سے اور کسی معلوم کر کے آؤ کہ یہ میری بات پوری ہے یا ادھوری وہ شخص گیا اور دریافت کر کے آیا اور کہا کہ ستاؤ (یعنی آسیب) کا تعویذ دیدو فرمایا کہ اب ستاؤ کہ میں بدلوں بتائے ہوئے کس چیز کا تعویذ لکھتا۔ تھی بھی ادھوری بات۔ اب تو بھی ادھوری بات کہیں کسی کے پاس جا کر نہیں کہو گے کہا کہ نہیں۔

پھر حضرت والا نے مزاجا فرمایا کہ ایک کو تو جن ستارہ ہے اس کے لیے تعویذ کی ضرورت ہے اور تو مجھے ستارہ ہے ایک تعویذ میں اپنے لیے کروں تیرے ستاؤ سے بچنے کے لیے فرمایا کہ اس وقت جاؤ اور ایک گھنٹہ کے بعد آ کر پوری پوری بات کہنا کیونکہ پریشانی میں تعویذ لکھنے کو دل نہیں چاہتا اور موڑ بھی نہیں ہوتا اس کے بعد فرمایا کہ یاد آ گیا آج جمع ہے تعویذ نہیں ملے گا۔ کل ظہر کے بعد آنا اور آ کر پوری بات کہہ دینا۔ آج کے واقعہ کے بھروسہ نہ رہنا مجھ کو آج کی بات یاد نہ رہے گی۔ وہ شخص چلا گیا۔ فرمایا کہ اس وقت ذرا سی گڑ بڑ تو ہوئی مگر اس شخص کو سبق مل

گیا۔ اب کبھی ادھوری بات نہ کہے گا یہاں پر تو جو آتا ہے بحمد اللہ خالی نہیں جاتا کچھ لے کر جاتا ہے تعویذ بالعلم مل گئی یہ سب کچھ خرابیاں رسمی اخلاق کی بدولت ہو رہی ہیں مجھ میں یہ رسمی اخلاق ہیں نہیں اسی لیے میں بدنام ہوں خیر بدنام ہی کر لیں اصول کو کیسے چھوڑ دیا جائے۔

آج کل لوگ اہل وصول سے خوش ہیں اور اہل اصول سے خغا۔ اچھا ہے ایسے بد فہم اور کوڑ مغزدیں کا خغا ہونا ہی اچھا ہے نجات تول جاتی ہے ورنہ سوائے ستانے کے ایسے شخصوں سے اور کیا امید ہو سکتی ہے۔

ملفوظ ۳۵۹: بے روزگاری کے لیے وظیفہ

ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت میں بے روزگار ہوں ایک تعویذ دیدیجئے فرمایا کہ ابھی ایک واقعہ تمہارے سامنے ہو چکا ہے جس سے تم کو معلوم ہو گیا کہ جمحد کے روز تعویذ نہیں دیا جاتا پھر بھی تم کو سبق نہ ملا خیر روزگار کے لیے تعویذ نہیں ہوتا میں پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں وہ پڑھ لیا کرونا بآسانی دوا پرست مرتبہ پانچوں نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرو انشاء اللہ تعالیٰ بہتر ہو گا۔

اسی سلسلہ میں فرمایا کہ آجکل لوگ وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اصل چیز یعنی دعا کو اختیار نہیں کرتے جو روح اور مغز ہے تمام عبادات کی اور ایک کام کی بات بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ وظائف پڑھنے سے قلب میں ایک دعوے کی شان پیدا ہوتی ہے کہ ہم ایک تدبیر کر رہے ہیں بس شمرہ گویا ہمارے قابو میں ہے اور دعاء سے شان عبدیت کا غلبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ چاہیں گے تو دیں گے بس دعا بڑی چیز ہے

بس ہے اپنا ایک بھی نالہ اگر پہنچ دہاں ☆ گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ فریاد، ہم

ملفوظ ۳۶۰: عطاِ خداوندی کے لیے طلب شرط ہے

ایک سلسلہ نقشوں میں فرمایا کہ ان کی رحمت کی کیا شکانہ ہے وہ تو ہر وقت اپنے بندوں پر رحمت فالپن فرمانے کو تیار ہیں حتیٰ کہ ماں و میں کی بھی امیدیں اور صراحتیں بر لاتے ہیں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيُنَشِّرُ رَحْمَتَهُ اور وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جو

لوگوں کے نا امید ہو جائیکے بعد یہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے ۱۲) وہاں کیا دیر ہے مگر اتنا ضرور ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کچھ کرتا ہے وہاں پر عطاوے کے لیے قاعدہ سے طلب شرط ہے عدم طلب کے متعلق فرماتے ہیں آنِ لزِ مُكْمُوْهَا وَ انتُمْ لَهَا كِرْهُوْن - اور اس طلب کی استعداد تام پیدا ہوتی ہے کسی کامل کی جو تیار سیدھی کرنے سے اس راہ میں راہزن بہت ہیں بدوں راہبر کے بہت سے خطرات ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جان تک جاتی رہتی ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے شیخ اس خطرہ سے نکال کر منزل مقصود پر پہنچانے کی مدد اپیر کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اور اس دشوار گذار گھانی سے نکال کر لے جاتا ہے بدوں راہبر کے ایک قدم رکھنا بھی نہایت خطرناک بات ہے اسی کو فرماتے ہیں

یار باید را را تبا مرد ☆ بے فلا د زاندیں صمرا مرد
 『 راستے کے لیے ساتھی چائیئے تہامت چلو۔ بغیر رہبر کے اس جنگل میں مت جاؤ۔ 』

ملفوظ ۳۶۱: کلام الہی کی عظمت و جلال

آیت مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَبُ وَ لَا إِيمَانُ الْأَيَّةِ ۝ آپکو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کا انتہاءِ کمال کیا ہے ۱۲) کے متعلق ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں یہ تو ثحیک ہے کہ حضور ﷺ کے متعلق یہ فرمانا کہ ایمان کی بھی خبر نہ تھی اس سے بڑا اندیشہ اس غلط فہمی کا ہو سکتا ہے کہ ایمان کوئی مہتمم بالشان چیز نہیں جب نبی بھی اس سے ایک زمانہ میں بے خبر رہ چکے ہیں مگر چونکہ خدا کا کلام ہے بے دھڑک فرماتے ہیں کہ کوئی ہمارا کیا۔۔۔ کرے گا۔ پھر اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جانتے ہیں اگر کوئی گڑ بڑ ہو گی تو ہم خود سنبھال لیں گے۔

ملفوظ ۳۶۲: امراض باطنی سے بچنے کی بڑی تدبیر

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بڑی تدبیر معاصری اور امراض

باطنی سے بچنے کی بھی یہ ہے کہ کسی کامل کی طرف رجوع کر لے اس کی بتائی ہوئی تدبیر پر۔ استقامت کے ساتھ عمل کرے اس تدبیر سے انشاء اللہ تعالیٰ چند روز میں تمام رذائل سے پاک ہو جائے گا اور اعمال صالح کی توفیق ہو جائے گی۔ اسی کو فرماتے ہیں

عاشق کہ شد کہ یار بحاش نظر نکرو ☆ اے خواجہ در دنیست و گرنہ طبیب ہست
 ﴿ایسا کون ہے جو عاشق ہوا ہو اور محبوب نے اس کے حال پر عنایت نہ فرمائی ہو۔
 میاں دردہی نہیں ہے ورنہ طبیب تو موجود ہے ۱۲﴾
 اور فرماتے ہیں

بے عنایات حق و خاصان حق ☆ گر ملک باشد یہ ہستش ورق
 ﴿حق تعالیٰ کی اور خاصان خدا کی عنایت کے بغیر اگر فرشتہ بھی ہو تو اس کا بھی
 نامہ اعمال سیاہ ہے ۱۲﴾

۲۱ رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم شنبہ

ملفوظ ۳۶۳: علماء کو عوام کا تابع نہیں بننا چاہئے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ علماء کو عوام اور جمیلاء کا تابع بن کر نہیں رہنا چاہئے اس سے دین کی عظمت و احترام ان لوگوں کے قلوب سے نکل جانے کا اندیشہ ہے آج جو عوام کی ہمت اور جرأت بڑھ گئی کہ وہ اہل علم کو حقیر سمجھتے ہیں اس کا سبب یہ اہل علم ہی ہوئے ہیں مجھے جو عوام کی حرکت یا ان کے کسی فعل پر اس قدر جلد تغیر ہو جاتا ہے اس کا سبب زیادہ تر وہ فعل نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا منشاء اس کا سبب ہوتا ہے یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اہل دنیا جو مال کی وجہ سے بڑے ہیں یا حکام جو جاہ کی وجہ سے بڑے ہیں یہ عوام ان کے ساتھ یہ بے فکری کا برداشت و کیوں نہیں کرتے جو اہل علم سے کرتے ہیں ان کے سامنے جا کر کیوں بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔

یہ سب علماء کے ڈھیلے پن کی بدولت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ نہ تو ڈھیلے بن اور نہ ڈھلے (کلوخ) ہو جس سے دوسرے کے چوت لگے تو سطح کے درجہ میں رہونے تو اس قدر کروے بنو کہ کوئی تھوک دے اور نہ اس قدر بیٹھے کہ دوسرا انگل ہی جائے آجکل تو یہاں تک نوبت آگئی ہے کہ بعض علماء مسائل کے جواب میں عوام کے مذاق کی رعایت کرنے لگے مجھ کو تو اس طرز پر بے حد افسوس ہے یہ اہل علم کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ مسائل کے جواب کے وقت اہل علم کی یہ شان ہونی چاہیے جیسے حاکم کے اجلاس پر ہونے کے وقت شان ہوتی ہے۔

فرمایا کہ اس پر یاد آیا کہ کانپور میں ایک کوتوال صاحب نے ایک معمولی مولوی صاحب سے جوان کے بچوں کی تعلیم پر ان کے ملازم تھے سوال کیا کہ نبی میں اور ساحر میں فرق کیسے معلوم ہو۔ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ آپ کوتوال ہیں جس وقت کسی معاملہ کی تحقیق کے لیے اپنے علاقہ میں جاتے ہیں تو ان لوگوں کے اطمینان کا کیا ذریعہ ہے کہ آپ کوتوال ہیں ممکن ہے بھروسہ پریہ یا ڈاکو ہو اور اس وردی میں چلا آیا ہو۔ اب کوتوال صاحب چپ ہیں کچھ نہیں بولتے۔ واقعی ان متکبروں کا دماغ اسی طرح سیدھا کرنا چاہیے۔ ایسے جاہلوں کے سامنے دب کر جواب دینا مفید نہیں ہو سکتا۔ یہ مولوی صاحب تھے بڑے جری نہ کسی انگریز سے ڈرے نہ ہندوستانی سے۔

ایک مرتبہ یہی حضرت ایک انگریز افتش گورنر کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ کیا کچھ تمہاری حکومت میں علماء کا حق نہیں رہا کیا یہ تمہاری رعایا میں نہیں اس نے جواب میں کہا کہ ضرور ہے فرمائیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں کہ روزگار چاہیے اس انگریز نے جواب دیا کہ روزگار بہت! انگر آپ کے علم کی شان کے خلاف ہے اس کے لیے تو یہی زیبا ہے کہ آپ کسی مسجد میں بیٹھ کر درس و تدریس کا کام کریں جس سے خدا کے دین کی خدمت ہو اور خدا تمہاری ضروریات کا کفیل ہو گا انہوں نے جواب میں کہا کہ میں آپ کا بہت شکر گذار ہوں۔ آپ نے مجھ کو نیک مشورہ دیا اور اس انگریز نے خدمت گار کوا شارہ کیا کہ وہ فوراً ایک کشتی میں پچاس لاکھ روپیہ رکھ کر لایا اس انگریز نے خود اپنے باتھ میں کشتی لے کر ان کے سامنے پیش کئے کہ یہ آپ کی نذر ہے انہوں نے کہا

کہ میں آپ کی فضیحت پر نہیں سے مغل شروع کرتا ہوں۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ کے لیتے اس نے یہ بھی تو کہا تھا کہ خدا کفیل ہو گا تو یہ خدا ہی نے تو پیش کرائے تھے اور مسجد ہی کے پیشے کی نیت کا شمرہ تھا۔

ایک بزرگ خلوت نہیں تھے انہیں گورنر مطاقت کو گئے جا کر سلام کیا جب رخصت ہونے لگے عرض کیا کہ حضور کی زندگی کا کیا ذریعہ ہے بزرگ نے فرمایا کہ کل جواب دوں گا۔ اگلے روز انہیں گورنر پھر بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک ہزار روپیہ کی تھی بھراہ لے گئے اور پیش کی اور عرض کیا کہ حضور آج جا رہا ہوں اور کل کے جواب کا انتظار ہے بزرگ نے فرمایا کہ کل کا جواب ہے تم میرے مرید نہیں حتیٰ کہ مسلمان بھی نہیں میرا تم سے تعلق کیا پھر کیوں دیتے ہو حق تعالیٰ اسی طرح عطا فرماتے ہیں گذر ہوتی ہے تو جس طرح ان بزرگ نے خدا کا عطا سمجھ کر لے لیا تھا۔ اسی طرح مولوی صاحب کو بھی خدا کی عطا سمجھ کر لے لیتا تھا۔

ملفوظ ۲۳: ہدیہ اور حضرت حاجی صاحب کا معمول

ایک مہمان پنجاب سے حاضر ہوئے ان کا حضرت والا سے بیعت کا تعلق تھا۔ بعد مصافحہ کرنے کے عرض کیا کہ کچھ کمی ہوئی مچھلی اور روغنی روٹی بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت والا نے دیکھ کر فرمایا اس قدر زائد لانے کی کیا ضرورت تھی تھوڑی لے آتے عرض کیا کہ حضرت یہ تو تھوڑی ہی ہے بطور مزاج فرمایا کہ اب یہ اعتراض ہے کہ تھوڑی کیوں لائے زائد کیوں نہیں لائے یہاں پر تو دونوں شقتوں پر اعتراض ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت والا نے فرمایا کہ ایسے ہدایا میں سے ضرور کھانا چاہیے اس میں ایک نور ہوتا ہے۔

ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ایسی چیزیں سے ضرور کچھ تھوڑا بہت کھائیتے تھے حضرت کا رنگ تو عجیب تھا یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ حضرت لذائذ سے بچے ہوئے ہیں آپ کھاتے تھے اور بہت قلیل یہ بڑی مشکل بات ہے کہ کھائے اور کم کھائے اس سے یہ آسان ہے کہ بالکل نہ کھائے مگر حضرت کا یہ معمول تھا کہ کیسی ہی کوئی چیز آگئی مثلاً انگور وغیرہ بس

ایک دانہ اٹھا کر نوش فرمایا اور باقی کو تقسیم کر دیا۔ یہ بہت ہی دقیق زہد تھا۔

حضرت حاجی صاحب ایسی چیزوں کی نسبت یوں بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز حب فی اللہ کی وجہ سے آئے اسے ضرور کھائے اس میں نور ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کی ملاقات کو چلے راستہ میں خیال آیا کہ بزرگ کی خدمت میں جارہا ہوں کچھ ضرور چاہئے پاس کچھ نہ تھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ درختوں کی پتلی پتلی کچھ شاخیں خشک ہو کر نیچے زمین پر خود بخود گرجاتی ہیں ان بزرگ نے خیال کیا کہ یہی لے چلو۔ حضرت کے یہاں ایک وقت روٹی ہی پک جائے گی لکڑیاں جمع کر اور سر پر رکھ کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت یہ کچھ لکڑیاں لایا ہوں فرمایا بہت اچھا۔ اب ان بزرگ کی قدر دانی کو ملاحظہ فرمائیئے خادم کو بلا یا اور فرمایا کہ یہ لکڑیاں لے کر حفاظت سے رکھو اور جب ہم مر جائیں ان لکڑیوں سے ہمارے غسل کا پانی گرم کیا جائے اس کی وجہ سے ہمیں امید اپنی نجات کی ہے ان کی برکت سے انشاء اللہ ہماری بخشش ہو جائے گی عرض ایسی چیز میں نور ہوتا ہے جو حب فی اللہ کی وجہ سے آتی ہے واقعی دنیا کی راحت بھی اہل اللہ ہی کو میسر ہے کیونکہ جب اس خیال سے اس کا استعمال رغبت سے کریں گے راحت ہی راحت ہے میں تو بطور اشارہ کے ایک تاویل یہ بھی کیا کرتا ہوں **وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةٌ** اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے اس کے لیے جنت میں دو باغ ہوں گے یہ کی کہ ایک آخرت میں جنت اور ایک دنیا میں جنت۔ یہاں کی جنت راحت ہے ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہاں کسی جنت۔ فرمایا کہ ہاں میرا مطلب یہ ہے کہ دنیادار جو قصخ اور جاہ کی وجہ سے تشویش میں پڑتے ہیں یہ حضرات اس سے بری ہیں خلاصہ یہ ہے کہ فضولیات میں پڑنے سے جو دنیاداروں کو گرانی ہوتی ہے وہ ان حضرات کو نہیں ہوتی یہ ہے جنت۔

ملفوظ ۳۶۵: میر منصب علی کا شیعہ سے سُنی ہونا

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کسی شخص پر حق کا واضح ہو جانا خدا ہی کے قبضہ میں ہے انسان کی قدرت سے باہر ہے فرمایا کہ ہاں حق تعالیٰ حق کو قلب پرواردا اور واضح کر دیتے ہیں عادت اللہ یہی ہے پھر یہ شخص پر تکلف روکر دیتا ہے۔

فرمایا کہ حق واضح ہونے پر یاد آیا کہ یہاں ایک شخص میر منصب علی تھے ان کا گھر انداز
شیعی تھا یہ بھی شیعی تھے پھر سنی ہو گئے تھے مجھ سے خود کہتے تھے کہ ان میں بعضے لوگ ایسی شرارتیں
کرتے ہیں کہ بچپن میں ہم سے کہا گیا تھا کہ خلفاء نسل کے نام سڑک پر لکھا کروتا کہ لوگ اس پر
سے راستہ چلیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت روشنائی سے فرمایا نہیں انگلی سے ریت میں یا
منڈی پر اور کہتے تھے کہ ہم لکھتے پھر اکرتے تھے۔

حق واضح ہونے کا قصہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ ایک بار انکوشہ ہوا اپنے مذہب
میں اور یہ حالت ہوئی کہ کبھی سینتوں کے طریقہ پر نماز پڑھتے اور کبھی شیعوں کے طریقہ پر۔ عجب
کشمکش کی حالت میں تھے اسی تغیر میں ایک مرتبہ پیر ان کلیر جانا ہوا وہاں پر حضرت مخدوم
علاء الدین صابرؒ کا مزار ہے وہاں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مقبولین میں سے
ہیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں کہ مجھ پر حق واضح ہو جائے اگر ایسا نہ ہوا تو
قیامت کے روز آپ کو پیش کر کے الگ ہو جاؤں گا کہ ان سے عرض کیا تھا انہوں نے توجہ نہ کی یہ
کہہ کر چل دیئے پھر خیال ہوا کہ شاید خواب وغیرہ میں کوئی بات معلوم ہو جائے گی اس کے یہ قائل
نہ تھے لوٹ کر پھر مزار پر آئے اور عرض کیا حضرت خواب میں اگر کوئی بات نظر آئی میں نہیں مانوں
گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بلا کسی سبب ظاہر کے قلب مطمئن ہو جائے اور سکون و اطمینان میر
ہو جائے وہاں سے جو لوٹے ہیں قلب میں بھی واضح ہوا کہ مذہب سنی حق ہے اپنے سنی ہونے کا
اعلان کر دیا۔ ایک صاحب نے یہ خبر ناوتہ ان کی والدہ کو پہنچائی کہ تمہارے بیٹے سنی ہو گئے وہ ایسی
خت تھی کہ اول تو اس کو یقین نہیں آیا اور کہا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کہ وہ سنی ہو جائے اس شخص نے کہا
کہ تم بیٹھی بیٹی کے جانا وہ سنی ہو چکے ان کی والدہ نے اپنے اطمینان کی غرض سے سفر کیا اور تحقیق
کے لیے یہاں آئیں بیٹے کو بلوایا اور کہا کہ مجھ کو ایک بات معلوم کرنا ہے اور پر کوٹھے پر الگ چلو آگے
ان کو کیا اور پیچھے خود ہوئی کہ کبھی بھاگ نہ جائیں برداشت نہ کر سکی زینہ ہی میں سوال کر بیٹھی کہ میں
نے سنا ہے کہ تم سنی ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے میں سنی ہو چکا۔

یہ سن کر اس عورت کو اس قدر صدمہ اور رنج ہوا کہ زینتہ ہی میں بیہوش ہو کر گرگئی اور لڑھکتی ہوئی نیچے آ کر پڑی جب ہوش آیا بولی کمجھت میں دودھنہ بخشوں گی ایسا کہنے کی عورتوں کو عادت ہوتی ہے انہوں نے جواب میں کہا کہ تو کیا دودھنہ بخشنے گی میں ہی نہیں بخشوں گا مجھ کو ایسا ناپاک دودھ پلاایا کہ اس کے اثر سے میں اتنے زمانہ تک گمراہ رہا۔ ماں نے کہا کہ تو مجھ سے مر گیا میں تھے سے مر گئی انہوں نے کہا میں بھی سب سے مر گیا اور مجھ سے سب مر گئے حق کو نہیں چھوڑ سکتا تمام عمران کی ماں نے صورت نہیں دیکھی۔

دیکھو! ان میر صاحب نے بھی دعا کی تھی کہ بلا کسی تدبیر کے حق واضح ہو جائے حضرت ساری تدبیریں ایک طرف اور خدا سے تعلق اور دعا کرنا ایک طرف اس کو لوگوں نے بالکل چھوڑ ہی دیا مگر دعا خشوع کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ دعا میں کسی خاص دعا کی تعین نہ کرے اس سے خشوع جاتا رہتا ہے۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ اب غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عدم تعین میں بڑی حکمتیں ہیں فرمایا جی ہاں صوفیہ اور فقہاء یہ دونوں جماعتیں حکماء ہیں دین کو جس قدر انہوں نے سمجھا ہے اور کسی نے نہیں سمجھا۔ اصل محققین صوفیہ اور فقہاء ہی ہیں۔ ایک مرتبہ مجھ کو خیال ہوا باوجود و ان کے حکماء اور محقق ہونے کے پھر ان میں لڑائی کیوں ہوتی ہے۔ میں نے تو یہی فیصلہ کیا کہ غیر محققین میں لڑائی ہوتی ہے اور دونوں جماعتوں کے محققین میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی یہ تو جامع ہوتے ہیں تو کیا کوئی اپنے سے بھی لڑا کرتا ہے۔

ملفوظ ۲۶۳: بزرگوں کے یہاں لذائذ کا استعمال

فرمایا کہ خاصانِ حق کی ہربات میں حکمتیں ہوتی ہیں چنانچہ بزرگوں سے جو لذائذ کھانے ثابت ہیں ان میں مختلف حکمتیں ہوتی ہیں حسب استعداد ناظرین کے کبھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ امام مستغفری نے ایک حکایت لکھی ہے کہ حضرت غوث اعظم کی خدمت میں ایک عورت اپنے لڑ کے کو پرد کر گئی کچھ روز کے بعد آ کر دیکھا کہ لڑ کا نہایت لا غر اور دیلا ہو رہا ہے اس کو بے حد

رنج ہوا وہ حضرت کی خدمت میں اس کے متعلق کچھ عرض کرنے آئی کیا دیکھتی ہے کہ حضرت مرغ کا گوشت کھار ہے ہیں اور بھی جل بھن گئی۔ عرض کیا کہ حضرت آپ تو مرغ کھائیں اور میرے بچے کو سکھا دیا۔ آپ نے یہ سن کر جو بڑیاں کھاتی ہوئی مرغ کی آپ کے سامنے رکھی تھیں ان کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ قم باذن اللہ وہ مرغ بن کر چل دیا۔ اس وقت حضرت نے اس عورت سے فرمایا کہ جس وقت تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا اس کو بھی مرغ کھلایا جائے گا۔ یہاں سائل کی استعداد ناقص تھی اس کو اس کے فہم کے موافق جواب دیا۔

دوسراؤ اقعده حضرت غوث پاک کا اور ہے ایک سوداگر خلیفہ وقت کے پاس بہت قیمتی کپڑا لایا جس کو خلیفہ نہ خرید سکا۔ یہ سوداگر خلیفہ وقت کے جواب دیدینے پر بہت ماں یوس ہوا اور خلیفہ وقت کے پاس سے حضرت کی زیارت کو خانقاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت نے سوداگر سے آنے کی وجہ دریافت کی اس نے بیان کیا کہ اس لئے آیا تھا مگر ناکامیاب رہا۔ حضرت نے اسکی ماں یوس دیکھ کر فرمایا کہ ہم خریدیں گے خادم کو حکم دیا کہ اس کی قیمت دیدی جائے اور اس میں ہمارا چونگہ تیار کروادہ کپڑا خرید لیا گیا اس کی اطلاع خلیفہ وقت کو ہوئی اس کوخت ناگوار ہوا کہ اس فقیر نے ہمیں بھی ذمیل کیا یہ سوداگر جہاں جائے گا کہتا پھر لیگا کہ خلیفہ وقت میرا کپڑا نہ خرید سکا اور ایک فقیر نے خرید لیا وزیر سے کہا کہ ان سے باز پرس کرو وزیر خانقاہ میں حاضر ہوادیکھا کہ حضرت اس کپڑے کا پہلے دیکھتا ہوں اس کے بعد دیکھا جائے گا وزیر خانقاہ میں حاضر ہوادیکھا کہ حضرت اس کپڑے کا چونگہ پہننے پڑئے ہیں وزیر کو بھی ناگوار ہوا کہ واقعی خلیفہ وقت کی بھی رعایت نہ کی اس میں خلیفہ وقت کی بڑی اہانت ہوئی مگر وزیر کی پھر جو نظر پڑی دیکھا کہ ایک دامن میں اس چونگہ کے ثاث یا کمبل کا ٹکڑا بھی لگا ہوا ہے۔ وزیر نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ کیا فرمایا کہ قطع کرنے کے وقت کپڑے میں کمی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ ثاث یا کمبل کا ٹکڑا الگا دو۔ مقصود تو کپڑے سے بدنا ڈھانکنا ہے۔ وزیر نے جا کر خلیفہ وقت سے بیان کیا کہ یہ قصہ ہے جس شخص کی نظر میں وہ کپڑا اور ثاث یا کمبل ایک ہے اس سے تعرض کرنا خدا کے قبیر کو خریدنا ہے یہاں تاجر کو نفع پہنچانا ایک

ظاہری حکمت تھی۔

تیرسا واقعہ حضرت غوث پاک ہی کا اور ہے ایک بادشاہ نے آپ کے پاس بہت قبیلی چینی آئینہ بطور بدیہی کے بھیجا حضرت اسکو شانہ وغیرہ کرنے کے وقت دیکھا کرتے تھے۔ ایک روز خادم کو حکم دیا آئینہ لاوہ لیکر چلا اتفاق سے ہاتھ سے چھوٹ گیا گر کر چور چور ہو گیا خادم نے آکر عرض کیا ”از قضا آئینہ چینی تھکت“ آپ نے فور جواب میں فرمایا ”خوب شد اساب خود بنی تھکت“ عجیب بات فرمائی یہاں اس کے ساتھ قلب کا تعلق نہ ہوتا ظاہر فرمایا کہ یہ بھی ایک سبق ہے اساب خود بنی تھکت فرمایا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک گاؤں کا شخص ایک ٹوپی لایا جس پر گوٹ تو سرخ قند کی تھی اور باریک باریک گوٹ کی دھاری سلی ہوئی تھی آپ نے اپنی ٹوپی اتار کر وہ ٹوپی اوڑھ لی جب وہ چلا گیا تب کسی بچہ کو دیدی اور فرمایا کہ یہ خوش ہو گا کہ میری ٹوپی اوڑھ لی۔ تو یہ حضرات اپنے ہی دل خوش کرنے کو نہیں پہنتے۔ بلکہ کبھی دوسروں کے دل خوش کرنے کو بھی پہنتے ہیں پس ان حضرات کو خوش پوشائی اور خوش لباسی صرف اپنے ہی حظ کے لیے نہیں ہوتی حکمتیں ہوتی ہیں۔

چنانچہ ایک حکمت یہ ہے کہ ان کو یہاں کی نعمتوں میں مشاہدہ ہوتا ہے وہاں کی نعماء کا۔ ان کے استھنار کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تکہتہ بیان فرمایا تھا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ منعم کے مشاہدہ کے مشاہدہ کے لیے استعمال کرتے ہیں عجب نہیں حضرت کا مقصود اصلی یہی مراقب ہو کیونکہ حضرت پر توحید کا بہت زیادہ غلبہ تھا وحدۃ الوجود تو حضرت کے سامنے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مشاہدہ ہے یعنی ہے ایک مرتبہ سورۃ طہ سنتے رہے اس آیت پر پہنچ کر **اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى** حضرت پر اس کا غلبہ ہو گیا بطور تفسیر کے فرمایا کہ پہلے جملہ پر سوال وارد ہوا کہ جب سوا اللہ کے کوئی نہیں تو یہ حوات کیا ہیں جواب ارشاد ہوا لہ الاسماء الحسنی یعنی سب اسی اسماء و صفات کے مظاہر ہیں اسی کو کسی نے کہا ہے

ہرچہ یہم در جہاں غیر تو نیست لہ یا توئی یا خوئے تو یا بوئے تو

کسی کا قول ہے

گلستان میں جا کر ہر اک گل کو دیکھا ☆ نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی سو ہے
ماموں صاحب نے جن پر توحید و جودی غالب تھی اس پر فرمایا کہ شاعر طاہر بین تھا اگر
عارف ہوتا تو یوں کہتا۔

گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا ☆ تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی سو ہے

طريق اور مقصود میں فرق ملاحظہ کر کتنا ملفوظ ۳۶۷:

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ لوگ طرق کو مقاصد سمجھ گئے یہ
بڑی غلطی ہے اور فرمایا اس پر ایک حکایت یاد آگئی جو ایک عزیز سے سنتھی کہ ایک شخص تھے ان کو اس
میں کمال تھا کہ وہ آنکھ میں سرمه تکوار سے ڈال دیتے تھے ایک مجع میں اپنے لڑکے کو کھڑا کیا کہ اس
کی آنکھ میں تکوار سے سرمه ڈالوں گا اس شخص نے تکوار کی دھار پر سرمه لگایا اور تکوار پر سرمه نہیں رہا وہ
لڑکا بھی ذرا نہیں جھپچکا وہ بھی مشتاق معلوم ہوتا تھا لیکن ظاہر ہے کہ اصل مقصد سرمه لگانا ہے اور یہ
خاص ہیت شخص ایک طریق ہے اگر کوئی اسی کو مقصد سمجھنے لگے تو عجب نہیں کہ کبھی دھوکہ کھائے اسی
طرح بعضے ناواقف تکوار سے سرمه ڈالتے ہیں جس میں خطرہ بھی ہے اور میں سلامی سے ڈالتا ہوں
جس میں کوئی خطرہ نہیں۔

دیکھئے اگر یہ طرق مقاصد میں داخل ہوتے تو سلف زیادہ مستحق تھے کہ وہ ان پر عمل
کرتے اور دوسروں کو تعلیم فرماتے مگر اس کا کہیں بھی پتہ نہیں۔ میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں
اگر کوئی شخص لندن جانا چاہے تو ہوائی جہاز کی ضرورت ہے اور کوئی جلال آباد جانا چاہے جو یہاں
سے دو یا ڈھانی میل جگہ ہے تو کیا اس کو بھی ہوائی جہاز کی ضرورت ہے نہیں وہ چھکڑے سے بھی
جا سکتا ہے مقصود اس سے بھی حاصل ہو سکتا ہے اور بالآخر بلکہ موٹر ہوا میل جوئی یہ سب خطرہ کی
چیزیں ہیں اپنیں جو جاتا ہے تو وہ دھائیں کیں کرتا چلا جاتا ہے اگر خدا نہ کرے نکرا جائے تو پھر

خیر نہیں اور اکثر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اسلئے چھڑا ہی رحمت ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہواں جہاز موڑ اپنیل یہ تو بعد منزل کے لیے ہیں اور میں جس منزل کے طے کرانے کے لیے عرض کر رہا ہوں وہ تو جلال آباد سے بھی قریب ہے اور ایسی قریب ہے کہ اس سے زیادہ قرب کسی چیز کو بھی نہیں حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ (۶) اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اسکی رُگ گردن۔ بھی زیادہ قریب ہیں (۱۲)۔

ملفوظ ۳۲۸: ایک شاہ صاحب کا جنت سے استغناۓ ظاہر کرنا

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جاہل فقراء بھی عجیب و غریب پڑیں ہائکتے ہیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہ ہم کیامند سے نکلتے ہیں یہ کلمہ کفر ہے یا شرک ہے جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ ایک شاہ صاحب کانپور میں میرے پاس آئے اور مجھ سے دس روپیہ کی ضرورت ظاہر کی اور ایک سلسلہ گفتگو میں فرماتے کیا ہیں کہ ہمیں کیا پرواہ ہے جنت کی۔ میں نے کہا کہ شاہ صاحب توبہ کر دس روپیہ پر تو رال پنکی جاتی ہے اور جنت سے استغناۓ ذرا دس روپیہ ہی سے استغناۓ فرمایا کہ دکھادیجئے گا اور میں نے کہا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ دس روپیہ تو آپ نے دیکھے ہیں اور جنت دیکھی نہیں اگر جنت کی اونی سے ادنیٰ چیز بھی نظر آجائے بیہوش ہو کر گرجاؤ مر جاؤ کیا جنت سے استغناۓ ظاہر کرتے پھرتے ہو شاہ صاحب چپکے چپکے سنتے رہے کچھ بولے نہیں یہ حالت ہے جنمیں کی۔

ملفوظ ۳۲۹: دل سے سارے خطرات کو نکالنے کی کوشش کی ایک عجیب مثال

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر سارے جہاں کے خطرات ہمارے قلب میں رہیں مگر ان کے اقتضا پر عمل نہ ہو نیز وہ ہمارے لائے ہوئے نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ اور یہ غیر محقق صوفی تو نظام حیدر آباد بننا چاہتے ہیں جیسے جس وقت نظام حیدر آباد کی سواری چلتی ہے تو وہ تمام سڑک روک دی جاتی ہے جس پر سے ان کا موڑ گذرتا ہے۔

میں ایک مرتبہ حیدر آباد ہی تھا معلوم ہوا کہ فلاں سڑک سے موڑ گذرنے والا ہے وہ سڑک پہلے سے بند تھی۔ اسی طرح یہ صوفی چاہتے ہیں کہ تمام سڑکیں صاف ہو جائیں جب ہم چلیں،

باقی ہم غریب لوگ تو غریب آدمی ہستی پھاروں سب میں ملے جائے ہے ہیں مگر گاڑی کے وقت انشاء اللہ اسٹیشن پر سب ایک ہی جگہ ہوں گے غریب آدمیوں کے ساتھ گذرنے کے مناسب یاد آگیا کہ میں ریل کے تیرے درجہ میں سوار ہونے کو ترجیح دیتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے درجہ میں بے تکلف سفر ہوتا ہے نہ اس درجہ میں خصوصیت کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے تکلف کیا جائے بلکہ ہر قسم کے ہر مذاق کے لوگ ہوتے ہیں کوئی کوٹ پتلوں والے بھی وہ تو بند بھی پاجام والے بھی کوئی نہ رہا ہے کوئی گارہا ہے کوئی بخارہا ہے ایک عجیب غریب منظر ہوتا ہے بخلاف فرست کلاس سکینڈ کلاس انٹر کلاس کے کہ سب منه چڑھائے بیٹھے رہتے ہیں ایک سے ایک کلام نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت تیرے درجہ میں بعض گنوار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ننگے ہوتے ہیں گھٹنے اور زانوں کھٹلے ہوتے ہیں فرمایا پھر کیا ہوا اگر بلا قصد نظر پڑ بھی جائے تو ہم کو کوئی گناہ تھوڑا ہی ہوتا ہے خود اس ننگے کو ننگ آتا چاہیے۔

ایک مرتبہ میرے بھائی اکبر علی مرحوم نے مجھ سے کہا کہ اب تمہاری ہستی ایسی نہیں کہ تم ریل کے تیرے درجہ میں سفر کرو میں نے کہا کہ فلاں وزیر اعظم انگریز سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ تیرے درجہ میں کیوں سفر کیا کرتے ہیں کیا عجیب جواب دیا بڑے دماغ کا آدمی تھا دنیا کے کاموں میں ایک خاص ملکہ رکھتا تھا کہتا ہے کہ چونکہ چوتھا درجہ نہیں ہے اسلئے تیرے درجہ میں سفر کرتا ہوں اسکے بعد تجربات کی بناء پر بھائی صاحب کی رائے بھی بدل گئی تھی اور وہ خود بھی تیرے درجہ میں سفر کرنے لگے تھے ایک بات یہ ہے کہ تیرے درجہ میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری رعایت کرتے ہیں اور سکینڈ فرست میں وہ ہوتے ہیں جن کی ہمیں رعایت کرنی پڑتی ہے بڑی ہی کافت ہوتی ہے جیسے کوئی قید کر دیتا ہے تو ان صوفیوں کے اور ہمارے سفر میں بس فرق یہ ہے کہ ہمارا سفر بے تکلف اور بانمک با مزہ اور ان کا سفر باتکلف اور بے نمک بے مزہ۔

ملفوظہ ۳: فرست کلاس میں سفر کرتے ہوئے ایک صاحب کا واقعہ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ فرست کلاس سکینڈ کلاس کے درجوں میں بعض اوقات

بڑے بڑے شریروں سفر کرتے ہیں ایک صاحب مجھ سے اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں کسی بڑے درجہ میں لکھنؤ جا رہا تھا ایک انگریز بھی اس میں سوار ہوا جس وقت اشیش سے گاڑی چھوٹ لی چلتی چلتی گاڑی میں مجھے آچپٹا اور گھوم گھوسا ہونے لگا یہ شخص بھی تنومند تھے کہتے تھے کہ کبھی وہ اپر اور میں نیچے اور کبھی میں اپر اور وہ نیچے اور اس قدر چالاک اور شریر کہ جہاں اشیش آیا چپکے سے سیدھا ایک طرف جا بیٹھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کچھ نہیں جانتا اور جہاں اشیش سے گاڑی چلی اور پھر آچپٹا اور پھر گھوم گھوسا ہونے لگا شاید اس روز سے ان درجوں میں بیٹھنے سے میں نے توبہ کر لی ہو گی۔

ملفوظ ۱۷: ایک انگریز کے ساتھ سفر کا واقعہ

فرمایا کہ مجھ کو بھی بعض اوقات اتفاق سفر میں ہوا ہے انگریزوں کے ساتھ سفر کرنے کا۔ مگر کبھی کوئی شریر نہیں ملا۔ ایک مرتبہ میں لکلتے سے ایک دوست کے اصرار سے سکنڈ میں سوار ہوا ایک انگریز آیا جو ریلوے کا افسر تھا اسکو اپر کا تختہ ملا کہنے لگا کہ ہم کو نیچے کے تختہ پر تھوڑی سی جگہ کھڑکی کی طرف آپ دیدیں ہم کو بار بار ریلوے کے انتظام کے لیے باہر جانا آتا پڑتا ہے میں نے کہا کہ بہت اچھا ہمارا کوئی حرج نہیں آپ بیٹھ جائیں وہ بیٹھ گیا۔ جب کھانے کا وقت آیا میں نے اس دوست کے ذریعہ سے دریافت کیا کہ آپ کھانا کھائیں گے کہا کہ مجھ کو کیا عذر ہے۔ ہم نے کھانا بازار سے خریدا تھا اس میں کچھ کھانا پتوں پر بھی تھا ہم نے اس کو برتن تو دینے نہیں کر کون دھوتا پھرے گا پتوں پر ہی رکھ کر دیدیا اس نے بڑی خوشی سے لیکر کھالیا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت برتن میں کھانا کیوں نہیں دیا فرمایا حق جوارا دا کیا۔ پڑوی تھا حق احترام ادا نہیں کیا اسلئے کہ اسلام سے محروم تھا اشیش بردوان پر آ کر اتر گیا بہت ہی شکریہ ادا کیا کہ آپ کو بہت تکلیف ہوا ہماری وجہ سے اور ہم کو آپ کی وجہ سے بہت آرام ملا۔ ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ اگر حضرت برتن میں کھانا دیدیتے تو اور زیادہ شکریہ ادا کرتا فرمایا کہ یہ بھی تو ممکن تھا کہ نہ کرتا۔ برتن میں کھانا دینے سے اپنے کو بڑا سمجھ جاتا کہ ہمارا احترام کیا گیا پھر شکریہ کی ضرورت ہی کیا محسوس ہوتی۔

اس پر حضرت والا نے بطور مزاح کے فرمایا کہ آپ ڈاکٹر ہیں انگریزوں کے بھی دانت بناتے ہیں آپ پیالیوں میں چائے پلائیا کرتے ہیں کیونکہ منع تو ہے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کو کیا خبر میں ایسا کرتا ہوں فرمایا کہ میں بھی تو اسی عالم میں ہوں عالم برزخ میں تو نہیں۔

ملفوظ ۲۷۳: غیر مسلموں کی نہ تحقیر نہ احترام

فرمایا کہ میں غیر مسلم قوموں کی نہ تحقیر کرتا ہوں اور نہ احترام جی یوں چاہا کرتا ہے کہ ہر چیز اور ہر کام ہر بات اپنی اپنی حد پر رہے اس اصل پر جو عین موقع پر جی میں آتا ہے وہی برتاؤ کرتا ہوں اور وہی مناسب ہوتا ہے۔

ملفوظ ۲۷۴: نکال دکھانے پر ایک انگریز کا شکریہ

فرمایا کہ میں حیدر آباد گیا تھا قریب چودہ روز کے وہاں پر قیام رہا چند وعظی بھی ہوئے ایک صاحب وہاں پر ہیں جو اکابر سلطنت میں سے ہیں بڑے عہدے پر ممتاز ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ دارالضرب (نکال) کی بھی سیر کر لیجئے میں گیا وہاں ایک انگریز نے تمام جگہ کی سیر کرائی جب میں واپس ہونے لگا تو اس انگریز کا میں نے ان لفظوں میں شکریہ ادا کیا کہ آپ کے اخلاق سے بہت جی خوش ہوا آپ کے اخلاق تو ایسے ہیں جیسے مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ سب تم نے ہمارے ہی گھر سے لیا ہے یہ کوئی تمہارا اکمال نہیں نہ تمہاری قوم کا یہ بھی مسلمانوں ہی کا صدقہ ہے مسلمانوں جیسے اخلاق کوئی پیدا کر لے حقیقی اخلاق مسلمانوں ہی کے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے اخلاق عرف کے تابع نہیں حقیقت کے تابع ہیں اور حقیقت بدلتی نہیں اسلئے اسلامی اخلاق حقیقی اخلاق ہیں۔

ملفوظ ۲۷۵: بلا ضرورت اور پر کے درجہ میں سفر نہ کرنا چاہئے

ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کیا فرست کلاس سکنڈ کلاس اور انٹر کلاس میں سفر

نہ کرنا چاہئے فرمایا کہ بلا ضرورت کیا ضرورت ہے تیرے درجہ میں سفر کرنا مناسب ہے البتہ ضرورت کے وقت سفر کیا جاوے تو کوئی حرج نہیں۔

ملفوظ ۳۷۵: تقویۃ الایمان کی ایک عبارت

مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ تقویۃ الایمان مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں اور وہ مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ تقویۃ الایمان کے مضمون صحیح ہیں لیکن عنوان سخت ہے۔ اس پر حضرت والانے فرمایا کہ بھائی عنوان تم بدل دو ہم تمہارے ساتھ متنق ہو جائیں گے جیسے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ نے شاہ جہاں پور میں ابطال الوہیت مسجد پر یہ کہا تھا کہ وہ خدا کیسے ہو جس کو کھانے کی ضرورت ہو گئے موت نہ کہیں کامیاب ہو۔ اس پر پادری نے اعتراض کیا کہ گوہ موت کہتا ہے ادبی ہے۔ مولانا نے فرمایا گوہ موت نہ کہیں بول وہ باز کسی بات ایک ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی علی سبیل التزل میں عرض کرتا ہوں۔ ورنہ عنوان بھی کوئی سخت نہیں حقیقت میں غور نہ کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے چنانچہ مثال کے طور پر کہتا ہوں۔

تقویۃ الایمان میں ایک مقام پر اس عنوان کی عبارت ہے کہ اگر خدا چاہے تو محمد جیسے سیکڑوں بناڑا لے۔ اس پر ایک مولوی صاحب نے حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہار پوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت اس میں حضور ﷺ کی تحقیر ہے کہ بناڑا لے یہ محاورہ میں تحقیر پر دال ہے مولانا نے جواب میں فرمایا کہ صحیح ہے مگر یہ فعل کی تحقیر ہے مفعول کی تحقیر نہیں یعنی بناٹا کھل ہے کہنے لگے کہ حضرت یہ تو تاویل ہے فرمایا بہت اچھا تاویل ہے تو رہنے دیجئے یہ پرانے حضرات زیادہ رد و کد کو پسند نہ فرماتے تھے۔

عجیب اتفاق ہوا کہ ایک روز بھی معرض صاحب مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ کے مطبع میں مشکوٰۃ شریف بھی چھپ چکی ترمذی شریف بھی چھپ چکی اب تو بیضاوی شریف بھی چھاپ ڈالنے اس وقت حضرت مولانا نے فرمایا کہ یہ وہی

ڈالنا ہے جس پر مولانا شہیدؒ کی تکفیر کی جاتی ہے اب اس سے تم نے بیضاوی شریف کی تحریر کی اور اس میں آیات کلام اللہؐ بھی ہیں اور کل کی تحریر تلزم ہے جزو کی تحریر کو اور قرآن پاک کی تحریر کفر ہے۔ اس وقت ان مولوی صاحب کی آنکھیں کھلیں اور عرض کیا کہ حضرت واقعی اس کا مطلب تو خود میرے ہی ذہن میں یہی تھا کہ چچوا دینا آسان ہے تحریر ہرگز مقصود نہ تھی۔ معلوم ہوا کہ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود بھی تحریر نہیں یہ ایک بہت بڑا خت عنوان ہے جس پر اعتراض ہے اور اس کی یہ حقیقت ہے جو حضرت مولانا احمد علی صاحبؒ کے جواب سے واضح ہوئی۔

ملفوظ ۲۷: (حضرت مولانا) اشرف علی "خان"

فرمایا کہ ایک خط آیا تھا پڑکھا تھا اشرف علی خان۔ بعض خطوط پر میرے نام کے ساتھ خان لکھا ہوا آتا ہے اور واقع میں مزاج بھی میرا پڑھانوں ہی کاسا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ مزاج تو پڑھانوں جیسا نہیں ہاں ہمت پڑھانوں جیسی ہے فرمایا کہ ہمت ہی کی اور ہمت تابع مزاج کے تب بھی مزاج پڑھانوں جیسا رہا فرمایا ایسے مزاج کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ مجذوب صاحب کی دعاء سے پیدا ہوا ہوں ان ہی کی روحاںی توجہ سے وہی رنگ میرے مزاج کا بھی ہو گیا۔ اور اتفاقی بات کہ انہوں نے اول میرا نام اشرف علی خان ہی رکھا تھا بطور پیشین گوئی کے یہ فرمایا تھا کہ دولڑ کے پیدا ہوں گے ایک کا نام اشرف علی خان اور دوسرا کا نام اکبر علی خان رکھنا ایک میرا ہو گا وہ مولوی حافظ ہو گا اور دوسرا تمہارا۔ مجذوب صاحب سے عرض کیا گیا کہ اشرف علی خان آپ نے نام تجویز کیا وہ پڑھان ہو گا پس کر فرمایا نہیں اشرف علی اکبر علی۔

ملفوظ ۲۸: ہندوستان میں شیعوں کا اثر

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! علی کے نام پر ہندوستان میں بہت نام رکھے جاتے ہیں اس کی وجہ ہے فرمایا کہ میرے ایک دوست مولوی صاحب اس کی وجہ یہ فرماتے تھے کہ ہندوستان پر شیعوں کا اثر زیادہ ہے اس وجہ سے علی پر نام زیادہ رکھتے جاتے ہیں واللہ اعلم۔

فرمایا ایک اور بات بھی ایسی ہی ہے مثلاً امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں مگر یہ کوئی نہیں کہتا کہ امام ابو بکر صدیق علیہ السلام امام عمر فاروق علیہ السلام حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ بھی امام کا لقب نہیں استعمال کرتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرات اہل بیت کے ساتھ اس کو مخصوص سمجھتے ہیں اور حضرت علیؑ اس میں دوسرے صحابہ کے شریک رہے اس شرکت پر ایک تقصیہ یاد آگیا کہ ایک جاہل شیعی نے مسجد کے محراب پر لکھا دیکھا۔
 چاند و مسجد و محراب و ممبر ☆ ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر
 غصہ میں آکر کہا کہ ہم تو تمہاری وجہ سے لڑتے پھرتے ہیں اور تم کو جب دیکھتے ہیں ان ہی کے ساتھ بیخدا دیکھتے ہیں یہ کہہ کہ غصہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام مبارک کو چھپری سے چھیل ڈالا۔

ملفوظ ۳۷۸: حضرت علیؑ کے ساتھ کرم اللہ و جہہ، لکھنے کی وجہ
 ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ کرم اللہ و جہہ کی وجہ
 و جہہ کیوں مخصوص ہے فرمایا کہ عمر بن عبد العزیز نے جو عمر ثانی سے لقب ہیں یہ صیغہ حضرت علی رضی
 اللہ عنہ کے نام کے ساتھ شائع کرایا تھا اسلئے کہ خوارج آپ کے نام کے ساتھ سود اللہ و جہہ کہا
 کرتے تھے یہ میں نے بعض اہل علم سے سنائے۔

۲۱ رمضان المبارک ۱۴۵۰ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم شنبہ

ملفوظ ۳۷۹: حسین بن منصور حلاج پر غلیظہ حال
 ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت غلام احمد قادریانی کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے ذرا بھی تو خیال نہیں ہوا کہ میری عاقبت خراب ہو گی خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا فرمایا کہ آپ تو
 نبوت کے دعوے پر اس قدر تعجب کر رہے ہیں لوگوں نے خدائی کے دعوے کئے ہیں مگر حسین بن
 منصور پر شبهہ نہ کیا جائے کہ انہوں نے انا الحق میں خدائی کا دعوے کیا کیونکہ ان پر ایک حالت تھی
 ورنہ وہ عبدیت کے بھی معرف تھے چنانچہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے کسی نے پوچھا کہ جب تم خدا ہو
 نماز کس کی پڑھتے ہو؟ جواب دیا کہ میری دو حصیتیں ہیں ایک ظاہر اور ایک باطن۔ میرا ظاہر
 میرے باطن کو بھروسہ کرتا ہے یہ بھی رمز غامض ہے۔

ملفوظ ۳۸۰:

حلاج کی وجہ تسمیہ

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حسین بن منصور حلاج جو ایک مشہور بزرگ تھے ان کے حلاج کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کی ایک نداف سے دوستی تھی اس کے یہاں کپڑے بھرائی کے واسطے بہت زیادہ آگئے روئی زیادہ جمع ہو جانے کی وجہ سے یہ پریشان تھا اتفاق سے یہ بزرگ تشریف لے آئے دریافت فرمایا کہ پریشان کیوں ہو عرض کیا کہ حضرت کپڑے بھرائی کے لیے بہت آگئے ہیں روئی اس قدر دھنکنا مشکل ہے اس وجہ سے پریشان ہوں یہ سن کر آپ نے ایک نظر اس روئی کے ڈھیر کی طرف کی تمام روئی دھنکی گئی اس وجہ سے حلاج مشہور ہو گئے۔

ملفوظ ۳۸۱: حقیقت تصوف کا اظہار اور مسئلہ وحدۃ الوجود

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت پنجاب میں ایک بہت بڑے پیر ہیں ان سے کسی نے کہا کہ آجھل تصوف کی خدمت کہیں بھی نہیں ہو رہی مگر باوجود مسلک اور مشرب کے اختلاف کے ان پیر صاحب نے حضرت والا کا نام لیکر فرمایا کہ وہاں کافی خدمت تصوف کی ہو رہی ہے فرمایا کہ یہ ان کی حق پسندی کی بات ہے میں بے چارہ کیا تصوف کی خدمت کر سکتا ہوں ہاں اس کے نام سے جہلاء صوفیہ نے جو مخلوق کو گمراہ کرنے کا پیر اخشار کھا ہے اس کو اپنے بزرگوں کی دعاء کی برکت سے اور حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصل صورت میں مخلوق کے سامنے پیش کر دیا ہے مگر اس کی وجہ سے چھلی تھی ان جہلاء نے بری طرح تصوف کو عوام کے پیش کیا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر خشک روٹی بگزے تو گرم کر کے کام لاسکتا ہے کھا بھی سکتا ہے اور لطیف غذا اگر خراب ہو تو محلہ بھر کو پاس نہ آنے دے روئی تو زائد سے زائد سوکھ ہی جائیگی اور لطیف غذا بدلوں کیڑے پڑے رہ نہیں سکتی۔ اب ایک مسئلہ وحدۃ الوجود ہی کا ہے اس کی وہ گت بنائی ہے الامان الحفیظ۔ مکہ معظمه میں ایک عالم صاحب تھے ان سے مسئلہ وحدۃ الوجود پر گفتگو ہوئی وہ کہنے لگے کہ جتاب وحدۃ الوجود کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے ماننے سے ایمان سلامت نہیں رہ سکتا میں نے کہا حقیقت سے بے خبر ہوا اگر معلوم ہو جائے کہ وحدۃ الوجود یہ ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے تو یہ کہو گے کہ بدلوں وحدۃ الوجود کے تسلیم کئے ہوئے ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔

کہنے لگے میں اس کے متعلق گفتگو سننے کو تیار ہوں اس گفتگو کے لیے جمعہ کا دن صحیح ہوا۔ میں نے اول فن تصوف کے مطابق اصطلاحی الفاظ میں وحدۃ الوجود پر ایک جامع تقریر کی اور ان سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میری تقریر کو اچھی طرح آپ سن کر ذہن نشین کرتے رہیں پھر اجازت ہے کہ دل کھول کر آپ کے ذہن میں جواہر کا شکال آؤیں کریں وہ سنبھل کر بیٹھئے اور غور سے سننا شروع کیا بعد ختم اشکالات کیئے مگر اسی تقریر کے اجزاء سے سب اشکال ختم ہو گئے اور تمام شبہات رفع ہو گئے کہنے لگے کہ واقعی میں وحدۃ الوجود کی حقیقت ہی سے بے خبر تھا آج اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدولت اس کی حقیقت کو منکشف کر دیا۔ اب کہتا ہوں کہ اسکے بدون ایمان کی سمجھیل ہی مشکل ہے۔ فرمایا کہ لوگ بے سوچ سمجھے جو جی میں آتا ہے اعتراض کر بیٹھتے ہیں پہلے اس چیز کی حقیقت سمجھنا اور خود سمجھ میں نہ آئے دوسرا سے سمجھنا اولیکن پھر بھی اگر وہ چیز قائم نہ ہو بلکہ حالی ہو تو کیا علاج۔ ایک حافظ صاحب کی حکایت ہے گوئی کو خوش ہے مگر توضیح کے لیے کافی مثال ہے وہ یہ ہے کہ شاگردوں نے کہا کہ حافظ جی نکاح میں بڑا مزہ ہے۔ حافظ جی نے کوشش کر کے ایک عورت سے نکاح کر لیا شب کو حافظ جی پہنچے اور روٹی لگانگا کر کھاتے رہے بھلا کیا خاک مزا آتا صبح کو خفا ہوتے ہوئے آئے کہ سرے کہتے تھے کہ نکاح میں بڑا مزہ ہے، میں تو کچھ بھی مزہ نہ آیا۔ لڑکے بڑے شریر ہوتے ہیں۔ کہنے لگے ابھی حافظ جی یوں مزہ نہیں آیا کرتا مارا کرتے ہیں تب مزہ آتا ہے۔ اگلے دن حافظ جی نے بیچاری کو خوب ہی زد کوب کی مارے جو توں کے بیچاری کا براحال کر دیا۔ غل مجنہ پر اہل محلہ نے حافظ جی کو بہت برا بھلا کہا بڑی رسوانی ہوئی صبح کو پہلے دن سے بھی زیادہ خفا ہوتے آئے۔ اور شاگردوں سے شکایت کی انہوں نے کہا کہ حافظ جی مارنے کے یہ معنی ہیں اسکے موافق عمل کیا تب حافظ جی کو معلوم ہوا کہ واقعی مزہ ہے۔ حقیقت سے بے خبری کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔

ملفوظات ۳۸۲: بیعت کو تعلیم پر ترجیح دینا کم فہمی ہے

ایک صاحب نے شرائط بیعت کا پرچہ مانگا اس پر ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ

حضرت میں بھی پرچہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت والا نے دونوں صاحبوں کو پرچے دیکھ فرمایا کہ یہ سب کام کرنے کی تدبیر ہیں اس پرچہ کی بدولت ہلکا چلا کارہتا ہوں پرچہ کو دیکھ کر اکثر لوگ بیعت تو مجھ سے چاہتے ہیں اور تعلیم دوسروں سے۔ جن کو میں تعلیم کے لیے تجویز کر دوں تو بیعت کو اس قدر مقصود بالذات سمجھتے ہیں کہ تعلیم پر ترجیح دیتے ہیں اور بیعت کو تعلیم پر ترجیح دینا یہ مستلزم ہے کہ فہمی کو۔ تو اس کی بدولت ایسے کم فہموں سے نجات ہو جاتی ہے ورنہ سوائے پریشان کرنے کے کوئی نتیجہ نہ تھا کیونکہ یہ بھی خبر نہ ہو کہ اصل چیز ہے آگے ان سے کیا امید کہ یہ فہم سے کام لیں گے اسلیئے میں خوش ہوتا ہوں کہ خوب جان پھی۔

ملفوظ ۳۸۴: نفع عام یا نفع تام

فرمایا کہ بعض احباب رحمہ دل ہیں مجملہ ان کے ایک مولوی صاحب بھی ہیں ہر شخص کی سفارش اور معافی دلانے کی سعی کرتے رہتے ہیں بات یہ ہے کہ نفع کی دو قسمیں ہیں۔ نفع عام اور نفع تام۔ احباب نفع عام چاہتے ہیں اور میں نفع تام چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طرز میں یہی فرق تھا کہ حضرت شاہ صاحب کے یہاں کھلم کھلا روک ٹوک کم تھی اور حضرت شہید صاحبؒ کے یہاں روک ٹوک تھی تو یہاں پر لوگ بہت کم خبرتے تھے مگر جو رہ جاتے وہ ہوتے تھے کہ پختہ تو وہاں نفع عام تھا اور یہاں نفع تام۔

ملفوظ ۳۸۵: کون سا مزاج ممنوع ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کتب اخلاق میں یہ لکھا ہے کہ لسان کی مزاج سے بھی حفاظت کرو فرمایا تھیک تو ہے مگر وہ مزاج مراد ہے کہ جس میں انہاک کا درجہ ہو یا کسی کی تحقیر ہو۔

ملفوظ ۳۸۶: تمثیل اور استہزاء اور ابراء ہیں

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت تمثیل اور استہزاء میں کیا فرق ہے فرمایا کہ بظاہر تو کوئی ایسا فرق نہیں معلوم ہوتا۔

ملفوظ ۳۸۶: ”اللہ کر کے“ کا مفہوم حضرت گنگوہی سے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت مولانا نارشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار مولانا محمد مجتبی صاحب سے فرمایا کہ یہ جو لڑکی کوں رہی ہے اللہ کر کے اس کا بھائی مرے اس میں کر کے کا کیا مطلب ہے پھر خود ہی فرمایا اللہ منادی ہے اور کرو دعا کا صیغہ اور کہ بیان یہ اس کو بڑھا کر کے کر دیا آگے اس دعا کا بیان ہے یعنی اے اللہ! تو یہ کر کے اس کا بھائی مرے فرمایا کہ چھوٹی بات بھی بڑوں کے پاس جا کر بڑی بن جاتی ہے۔

ملفوظ ۳۸۷: ایک ابن الوقت شخص کی شاگردی

فرمایا کہ مولوی رضی الحسن صاحب کا ندھلوی نے مجھ سے کہا کہ فلاں شخص نے مولوی محمد مجتبی صاحب مرحوم سے پڑھا تھا بہت دنوں تک یہ شخص گنگوہ رہا ہے میں نے خود دیکھا ہے اب اپنے بزرگوں کے مسلک کے بالکل خلاف طرز اختیار کر رکھا ہے دنیا کمانے میں اس شخص کو خاص ملکہ ہے دین رہے یا جائے اس کی کچھ پرواہ نہیں ابن الوقت ہے جدھر کی ہوا دیکھتا ہے اسی طرف ہو جاتا ہے اگر ہندوؤں کے ساتھ مل کر نفع کی امید دیکھتا ہے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے انگریزوں کے ساتھ دیکھتا ہے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہنے لگے کہ اس نے مجھ سے بھی پڑھا ہے۔ میں نے بطور مزاح کے کہا کہ آہا آپ ان کے بھی استاد ہیں۔ بہت محبوب ہوئے کچھ بولے نہیں حالانکہ ان کے پاس جواب تھا کہ اس سے یہ توازن نہیں آیا۔ بلکہ یہ لازم آیا کہ آپ بھی ان کے استاد ہیں۔

ملفوظ ۳۸۸: رفاقتی اور مداری کی نسبت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عرب میں ایک قوم ہے رفاقتی وہ لوگ سانپ کو کھاتے ہیں فرمایا کہ جی ہاں یہ لوگ حضرت سید احمد کبیر رفاقتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں بگڑ گئے ہیں جیسے مداری لوگ بگڑ گئے یہ بھی حضرت شاہ بدیع الدین مدار کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں یہ بہت بڑے بزرگ گذرے ہیں مدار ایک لقب ہے جیسے قطب غوث وغیرہ

حضرت شاہ بدیع الدین شامی ہیں ہندوستان تشریف لے آئے تھے ان کے چہرے پر نقاب رہتا تھا اسکی وجہ یہ تھی کہ جو شخص ان کا چہرہ دیکھتا اس کی آنکھوں کی روشنی مسلوب ہو جاتی تھی مشہور یہ ہے کہ ان پر جلی موسوی تھی مگر یہ نہایت ہے کسی کتاب میں نہیں دیکھا و اللہ اعلم۔

حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کے متعلق بھی ایک بزرگ سے سنا ہے کہ ان کی نسبت موسوی تھی مگر خود ان کو اپنی نسبت کا علم نہ تھا ان کے کسی معاصر بزرگ کے پاس ان کے ایک مرید زیارت کے لیے جا رہے تھے آپ نے چلتے وقت فرمایا کہ ان حضرت سے میرا بھی سلام عرض کرنا۔ مرید نے جا کر پیر کا سلام پہنچایا انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اپنے یہودی پیر سے ہمارا بھی سلام کہنا ان مرید صاحب کو بے حد ناگوار ہوا کہ پیر صاحب نے تو یہ انتہام کیا کہ سلام بھیجا اور انہوں نے یہ قدر کی کیسی بری طرح یاد کیا جب واپس پیر کی خدمت میں حاضر ہونے پر نے دریافت کیا کہ میرا سلام بھی پہنچایا تھا عرض کیا کہ پہنچایا تھا پھر کیا جواب مل اعرض کیا کہ عرض کرنے کے قابل نہیں بہت ہی لشکر کلمہ تھا اعادہ نہیں کر سکتا فرمایا کہ تم کہو جو کچھ فرمایا عرض کیا کہ یہ فرمایا ہے کہ اپنے یہودی پیر سے ہمارا بھی سلام کہہ دینا یہ سن کر حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ پر وجد طاری ہو گیا اور فرمایا کہ الحمد للہ مجھے اپنی نسبت معلوم ہو گئی کہ موسوی ہے اس پر حضرت والانے فرمایا کہ کسی کو حق نہیں کسی کی نسبت کچھ اعتراض کرنے کا۔ کیونکہ بعض اوقات اسکی نسبت والے سے بعض ایسے اقوال صادر ہو جاتے ہیں کہ جو یہودیت کے موبہم ہوتے ہیں مثلاً مرتے وقت لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھنے لگتا ہے اور درحقیقت وہ مخفی محمد رسول اللہ کی ایک تعبیر ہوتی ہے کیونکہ یہ شبیث موسوی و عیسوی وغیرہ حساب حضور ﷺ کی شبیث ہیں حضور جامع ہیں۔ حضور میں شان موسوی بھی ہے اور شان عیسوی بھی ہے پس یہ سب القاب حکما حضور ہی کے ہیں یعنی موسیٰ کلیم اللہ بھی آپ کا لقب ہے عیسیٰ روح اللہ بھی آپ کا لقب ہے ابراہیم خلیل اللہ بھی آپ کا لقب ہے پس جو شخص محمدی موسے کلیم اللہ کہتا ہے وہ آپ کی اس خاص شان کے اعتبار سے آپ کو اس لقب سے ذکر کرتا ہے پس یہ سب شائیں آپ ہی کی شان جامعیت کے مظاہر اور شعبے ہیں۔ جیسے موکا عدد ہے تو امتحانوںے بھی اسی کا جزو ہے اور ستانوںے بھی اسی کا جزو ہے آخر تک سب اس کے ہی اجزاء ہیں۔

ملفوظ ۳۸۹: حق کی حمایت سے جان چرانا

ایک مولوی صاحب نے ایک پرچہ پیش کر کے حضرت والے عرض کیا کہ حضرت ”مبہلہ“ اخبار کے ایڈیٹر نے دعا کے لیے لکھا ہے فرمایا دل سے دعا کرتا ہوں دریافت فرمایا کہ اب کیا حالت ہے بے چاروں کی جان وغیرہ کا تو خطرہ نہیں عرض کیا کہ بہت زیادہ خطرہ ہے فرمایا کہ آج کل اگر کوئی دین کی خدمت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کہا تھا اکس نے؟ کہ تم ایسا کرنا۔ یہ تعلق لوگوں کو دین سے رہ گیا ہے ایسی باتیں سن کر بے حد دل دکھتا ہے حق کی نصرت پر کوئی آمادہ نہیں ہوتا۔ ویسے شور و غل کرنے کو قتنہ فساد پھیلانے کو سب تیار ہیں خالص حق کی حمایت سے جان چراتے نظر آتے ہیں جو کام کرنے کے ہیں ان کے لیے کوئی بھی آمادہ نہیں وہاں تو یہ کہتا بالکل حسب حال ہوتا ہے کہ آمادہ۔

ملفوظ ۳۹۰: مسلمانوں کی دنیوی ترقی سے بھی خوشی ہونا

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج صحیح جو ذکر تھا کہ تیرے درجہ میں سفر کرنا مناسب ہے تو ڈاکٹر صاحب آج بجائے سکنڈ کلاس کے انٹر کلاس ہی میں سوار ہوئے فرمایا چلو کچھ تو نقح ہوا یہ تو سکنڈ کلاس میں سفر کرتے تھے اس پر فرمایا کہ ایسے مسلمانوں کی بھی ضرورت ہے تاکہ کفار کو یہ تو معلوم ہو کہ مسلمانوں میں بھی ایسے موجود ہیں۔ میں نے محض مسلمانوں کی عظمت دیکھنے کے لیے حیدر آباد دکن کا پہلا سفر اس ہی نیت سے کیا تھا یہاں تو جس عالی شان عمارت کو دیکھو اور پوچھو کس کا ہے کسی چند کا کسی داس کا۔ وہاں پر پہنچ کر یہ تو کانوں میں پڑ گیا کہ یہ محل فلاں جنگ کا یہ عمارت فلاں دولہ کی یہ بڑے لوگوں کے وہاں پر لقب ہیں گو دنیا کو میں مسلمانوں کے لیے پسند نہیں کرتا اور نہ اچھا سمجھتا ہوں لیکن کفار کے مقابلہ میں جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان سے بھی زائد ہوا اور مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں ان کے مقابلہ کی وجہ سے پسند کرتا ہوں بشرطیکہ حدود میں رہیں۔

ملفوظ ۳۹۱: ہبوطِ آدم سے متعلق کچھ تفسیری نکات

ایک مولوی صاحب کے کسی سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر بالفرض آدم علیہ السلام

سے بھی لغزش نہ ہوتی تب بھی چونکہ مادہ تو اسی لغزش کا ان میں تھا ہی جس سے بلزدم عادی ان کی اولاد میں سے جنت میں کوئی نہ کوئی گڑ بڑ کرتا اور اس کو نکالا جاتا اس وقت وہ کسی کا پیٹا ہوتا کسی کا پوتا کسی کا بھتیجا کسی کا بھانجنا کسی کا بھائی۔ تو روزانہ جنت میں کہرام مچا رہتا۔ اس وجہ سے باپ ہی آگئے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جنت میں رنج کیسے ہوتا فرمایا کیوں شبہ کیا ہے آخر آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جنت سے نکلو اس وقت آدم علیہ السلام کو رنج ہوا، ہو گایا تھیں گو وہ رنج طبعی ہی عقلی نہ ہی اس وقت وہ دنیا میں تھے یا جنت میں عرض کیا کہ جنت میں فرمایا پس ثابت ہو گیا کہ جنت میں بھی رنج ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو پیشتر ہی حق تعالیٰ نے فرشتوں سے ظاہر فرمادیا تھا کہ اتنی جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اس سے بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ارض میں خلیفہ ہونگے جنت سے نکل جانا آدم علیہ السلام کا۔ اسی وقت فرشتوں کو معلوم ہو چکا تھا اسی سلسلہ میں فرمایا کہ اتَّجَعَلَ فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا کی تفسیر جو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی عجیب و غریب ہے، بہت سی تفسیریں دیکھیں مگر وہاں تک کسی مصنف کی رسائی نہیں ہوئی۔ وہ یہ کہ یہ امر فطری ہے کہ اپنی بندی ہوئی چیز کے بگڑنے سے رنج ہوتا ہے اور خلافت کے لیے تصرف لازم ہو گا اور تصرف کا حاصل یہی تحلیل و ترکیب ہے اور تحلیل یہی توڑ پھوڑ ہے پس فساد سے یہی تحلیل مراد ہے فساد بمعنی معصیت مراد ہونا ضروری نہیں اس طرح سُنَكْ دِمَاءُ (خون بہانا) سے سُنَكْ محروم (حرام طریقہ سے خون بہانا)۔ ۱۲) مراد ہونا ضروری نہیں چونکہ فرشتوں کا کام تھا پروردش کرنا شجر کو مویشی وغیرہ کو اور یہ آدمی کسی درخت کو کائے کسی میں کڑیاں بنائے گا کسی میں تنخی جانوروں میں کسی پرسواری کریں گا کسی سے کھیتی کا کام لے گا کسی کو ذبح کریں گا فرشتوں کو یہ گراں ہوا۔ اب یہ شبہ بھی نہ رہا کہ فرشتوں نے بنی آدم کی طرف معصیت کو کیسے منسوب کر دیا عجیب تحقیق ہے۔ یہ ہیں علوم اور حقائق و معارف یہ حضرات ہیں (محقق) پھر باوجود بھی نہایت سادی دھلوے ہے نہ تاز بے نہایت مسکین لبجد نہایت زرم سید ہے سادھے الفاظ اور خود بھی نہایت سادی وضع میں رہنے والے۔ مگر بات وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص نہ کہہ سکے۔ پیدا تو بعد میں ہوئے مگر ان میں روح پہلوں کی تھی۔

ملفوظ ۳۹۲: علماء دین دین بند کی شان

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں کم عمری میں جب دین بند پہلی مرتبہ گیا تو میں نے ان حضرات کو دیکھا اور یہ سمجھا کہ یہ کیا علماء ہوئے مجھ سپڑھنے پڑھانے کے ہوئے سنئے کہ چھوٹے چھوٹے قد معمولی لباس نہ چونہ ہے نہ نامہ۔ ہر طرح پر سادگی یہ خیال اس وجہ سے ہوا تھا کہ میں نے یہاں پر مولانا شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا جو بہت قد آور اور وحیہ بزرگ تھے مگر پھر رہنے پر معلوم ہوا کہ وہ حضرات کیا چیز تھے کیا نہ کانہ تھا ان کے علوم طاہرہ اور علوم باطنہ کا۔ محمد اللہ ایسے بزرگوں کی خدمت میسر ہو گئی یہ اللہ کا فضل اور والد صاحب کا احسان ہے اول تو انہوں نے مجھ کو عربی کے لیے تجویز کیا اور پھر اس پر یہ احسان کہ دین بند تعلیم کا سلسلہ رکھا اور نہ میرنگھ میں بھی ممکن تھا کیونکہ وہاں پر والد صاحب کا قیام بھی تھا اور ایک مرتبہ میرنگھ میں مجھ کو ایک مدرسہ میں داخل کرنے کے لئے بھی گئے تھے شہر میں ایک مدرسہ بھی تھا مگر نہ معلوم کیا اس باب وہاں پر ہوئے داخل نہیں فرمایا اور پھر دین بند ہی کو تجویز فرمایا۔ والد صاحب مرحوم کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔

ملفوظ ۳۹۳: تھویذ یادِ م کے لیے مریض کو لانا فضول ہے

ایک شخص شیر خوار لڑکی کو گود میں لیکر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت اس پر دم کر دیجئے فرمایا کہ بندہ خدا! جہاں جایا کرتے ہیں پہلے وہاں کا قانون تو معلوم کر لیا کرتے ہیں مریض کے لائیکی یہاں پر ضرورت نہیں۔ میں کوئی طبیب تھوڑا ہی ہوں کہ بپش دیکھ کر نہیں لکھوں گا تھویز لکھوں گا۔ پانی لے آنا وہ پڑھ دو نگاہ بچوں کے لانے میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر پیش اب کر دے یہ تو لیکر چلتے ہوئے اور مصیبت ہم کو پڑے گی تمام فرش اٹھاؤ سامان اٹھاؤ سب چیزیں پاک کرتے پھر وہ کوئی معمولی کپڑا اور غیرہ ہوتے بھی۔ خیر! ہذا فرش ہے اب اس کو کون پاک کرتا پھر دریافت فرمایا کہ اس کو لایا تھا کیوں۔ عرض کیا گیا کہ لوگ بہکاؤں ہیں کہ لے کر جاؤ۔ فرمایا کہ لوگ بہکاؤں ہیں اور ہم بھکاؤں ہیں۔ جاؤ اس کو گھر پہنچا کر پھر تھویز لے جاؤ۔

ملفوظ ۳۹۴: ایک صاحب کا عجیب بیہودہ سوال

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے عجیب بیہودہ سوال کیا ہے لکھتے ہیں کہ میرے لیے

میری اصلاح بہتر ہے یا میرے اہل و عیال کی۔ میں نے لکھ دیا کہ کلیات لکھ کر سوال کرنا خلاف اصول ہے جز نیات ظاہر کر کے اپنی پوری حالت لکھو اور پھر رائے معلوم کرو۔

ملفوظ ۳۹۵: ایک صاحب کے نامناسب طرز عمل پر موافقہ

قبل از تماز مغرب حضرت والا نے وضو فرمایا اور بعد ازاں مغرب روزہ افطار فرمایا کہ حوش کے کنارے پر کلی فرمائے تھے۔ ایک صاحب ایسی ایت سے جا کر حضرت والا کے پاس کھڑے ہوئے جس سے حضرت والا کو یہ محسوس ہوا کہ میرے ہٹ جانے کے انتظار میں ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی حضرت کو شہ ہوا کہ یہ میرے وضو کے بچے ہوئے پانی کو بطور تبرک استعمال کریں گے اس سے حضرت والا کے قلب پر بار اور گرانی ہوئی اور لوٹے کے پانی کو گردادیا (اسلیے کہ ایک تو بعض اوقات اپنے سامنے ایسا اظہار عقیدت کرتا حضرت والا کو تا گوارہ ہوتا ہے۔ دوسرے اس موقع پر خصوصیت سے انتظار کی صورت بنا کر کھڑا ہونا حضرت والا کو موجب اذیت ہوا اس شخص نے محض حصول تبرک کی دھن میں ایداء کا خیال نہ کیا اسلئے حضرت والا تبرکات وغیرہ میں ایسے شغف کو ناپسند فرمایا کرتے ہیں۔ چنانچہ بھی خیال سبب ہو لوٹے کے پانی گرانے کا (جامع) حضرت والا فارغ ہو کر حوش پر سے تشریف لے آئے تو یہ صاحب اس جگہ پر پہنچ اور پہنچ کر لوٹے کو جھانکا حضرت والا اگر اس حرکت کو برابر ملاحظہ فرماتے رہے اور یہ شبہ جو احتمال کے درجہ میں تھا لوٹے کے جھانکنے پر ایقین کے درجہ میں ہو گیا۔

اس پر حضرت والا نے موافقہ فرمایا کہ مجھ کو تمہاری اس حرکت سے اذیت پہنچی تم کیوں دہاں پر کھڑے تھے اور بعد میرے چلے آنے کے اوٹے کو کیوں جھانکا اس پر یہ صاحب خاموش رہے اور بولے بھی تو نہایت آہستہ سے کوئی صاف جواب نہیں دیا جواب میں تاخیر حضرت والا کے زیادہ تکدر کا سبب ہوا دشمن مرتبہ کے مطالبہ کے بعد عرض کیا کہ پانی لیتا مقصود نہ تھا بلکہ کلی کرنا مقصود تھا فرمایا کہ بلا پانی کے کلی ہوا کرتی ہے عرض کیا کہ کلی کے لیے پہلے سے منہ میں پانی تھا فرمایا تو پھر لوٹے کو کیوں جھانکا تھا عرض کیا کہ لوٹے کو تو نہیں جھانکا فرمایا کہ مجھ کو اندھا بنا تے ہو میں نے

خود تھا نکتے ہوئے دیکھا جھوٹ بھی بولتے ہواں پر اور حضرت والا کے لمحے میں تغیر ہو گیا پھر فرمایا کہ کلی کرتے کو وہی جگہ رہ گئی تھی اور جگہ ترہی تھی اتنا بڑا مدرسہ اور خانقاہ ہے جہاں پر میں کھڑا تھا وہی ایک جگہ تھی۔ عرض کیا کہ مجھ کو کلی کرنا تھی۔

فرمایا بندہ خدا اپنی ہی ہائکے چلے جاتے ہو دوسرے کی سن کر سمجھ کر تو جواب دینا چاہئے آخر مجھ کو تو تمہاری اس حرکت سے اذیت پہنچی بار ہوا گرانی ہوئی آخر تم کو کیا حق تھا مجھ کو اذیت پہنچانے کا پھٹک چھٹ کر تمام احتمال میرے ہی حصہ میں آگئے ہیں دنیا کے بے وقوف میرے پاس آتے ہیں فہم کا نام نہیں ہوتا کھڑا ہے بت کی طرح! جواب کیوں نہیں دیتا کیوں مجھ کو ستایا کیا اپنی غلطی کا اقرار کرنا جرم ہے کیا تو نے لوٹوں کو جھانا کا نہیں۔ عرض کیا کہ جھانا کا تھا فرمایا کیا اس انتظار میں نہیں کھڑا تھا کہ یہ ہے تو میں اس جگہ پر کلی وغیرہ کروں عرض کیا جی! فرمایا کہ اب اقرار کرتا ہے اپنی غلطی کا جب مجھے اچھی طرح پریشان کر چکا بد تیز پر تہذیب پھر فرمایا کہ خاموش کھڑا ہے خوب تاویلیں سوچ لے اور اپنے ارمان نکال لے۔ اس پر بھی یہ صاحب خاموش رہے فرمایا بندہ خدا معافی تو چاہلی ہوتی؟ عرض کیا میں حضور سے معافی چاہتا ہوں فرمایا کہ کہنے ہی سے تو چاہی خود تو معافی چاہنے کی توفیق نہ ہوئی فرمایا کہ بلا کہے معافی کیوں نہیں چاہی اس میں کیا مصلحت تھی عرض کیا کہ ذر کی وجہ سے فرمایا معافی چاہنے میں تو ذر تھا اور نہ چاہنے میں ذر نہ ہو جو بات بھی ہو ہر بات بد تیزی کی کوئی بات بھی تو عکل کی نہیں بلا وجہ مجھ کو اذیت پہنچائی کیا ہوا تم لوگوں کو کیا با تھہ میں تسبیح لیتا اور تہہ باندھنا ہی آتا ہے آخر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق بھی ہونا چاہئے یا نہیں فرمایا چپ کیوں ہے نالائق جواب دے نہماز کو دری ہوئی جاتی ہے منہ کھول کر حاف بات کہواں پر یہ صاحب کچھ بولے جس کو حضرت والا سمجھ نہ سکے فرمایا کہ یہ شخص نامعلوم کیا انگریزی سی بولتا ہے عرض کیا کہ قصور ہوا فرمایا اب کہتا ہے قصور ہوا قصور! جب اچھی طرح ستایا کہ جب سے زبان سل گئی تھی فرمایا کہ میں اپنی ضرورت سے کھڑا تھا یہ شخص برابر کھڑا رہا۔ مجھ پر اس قدر بار ہوا اور اذیت پہنچی کہ میں پریشان ہو گیا اسی وجہ سے میں نے لوٹے کا پانی پھینک دیا کہ

شاید اس لائچ میں کھڑا ہے اب تو ملے گا مگر نلانہیں اس پر یہ کیا کہ لوٹے کو جھانا کا ب تاویلیں کرتا ہے اور اگر مان ہی لیا جائے کہ سب تاویلیں صحیح ہیں تو ایہام کا اس کے پاس کیا جواب ہے ایسے ایسے آتے ہیں ستانے کو عین نماز کے وقت میرے قلب کو پریشان کیا یہ فرماتے ہوئے حضرت والانماز مغرب پڑھانے کے لیے مصلیٰ پر تشریف لے گئے۔

۲۲ رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم یکشنبہ

ملفوظ ۳۹۶: اپنے موآخذہ اور انگلی حرکت پر اظہار رنج

فرمایا کہ کل مغرب کے وقت ان صاحب نے ایک چھوٹی سی بات پر کس قدر ستایا اور پریشان کیا مجھے اپنے پر بھی تعجب ہے کہ میں نے کیوں ذرا سی بات پر ان سے اس قدر موآخذہ کیا اور ان پر بھی ہے کہ ذرا سے مقصود کے لیے اس درجہ مجھ کو اذیت پہنچائی جب مجھے معلوم ہوا کہ بلا ضرورت میرے انتشار میں کھڑے ہیں تو کیا اس پر مجھ کو کلفت اذیت نہ ہوتی اور خیر یہ ہے چارے تو نئے آدمی ہیں ان سے ایسا ہو جاتا کوئی زیادہ تعجب نہیں پرانے بھی ستاتے ہیں اور بعد میں یہ معلوم کر کے کہ طالب علم ہیں ہیں اور بھی رنج ہوا اس لئے اگر طالب علموں کو کچھ کہہ لوں تو ان پر تو میں اپنا ایک قسم کا حق سمجھتا ہوں اور غیر طالب علم پر ناخوش ہونے سے دل کرڑھتا ہے۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ان کو اس کا رنج ہو رہا ہے کہ میری وجہ سے حضرت کو تکلیف ہوتی اور اذیت پہنچی حضرت مجھ سے خفا ہو گئے فرمایا کہ واقع ختم ہونے کے ساتھ ہی بحمد اللہ میرا قلب صاف ہو جاتا ہے میں خفا نہیں ہوں نیز میں خفا تو جب ہوتا کہ اس سے میری کوئی مصلحت فوت ہوتی مگر اس میں کچھ میری مصلحت تھوڑا ہی ہوتی ہے۔ طالب ہی کی مصلحت سے ایسا کرتا ہوں تاکہ آئندہ کو کان ہوں پھر ایسی تالائفی کی حرکت نہ کریں جس سے دوسروں کو اذیت ہو۔ اور میں یعنی عرض کرتا ہوں کہ عین غصہ کی حالت میں بھی میرے قلب میں اس کی محبت ہوتی ہے اسی وجہ سے اکثر در گذر کر جاتا ہوں اس کی بناء محبت ہی ہوتی ہے۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی وہ یہ کہ

جب حضرت کی طرف سے کسی کو ذرا تکلیف نہیں پہنچتی تو پھر لوگ کیوں تکلیف پہنچاتے ہیں فرمایا
بالکل صحیک کہا میں اگر دوسرے کی راحت کی رعایت نہ کرتا تو مجھ کو دوسروں کی عدم رعایت کی بھی
بالکل شکایت نہ ہوتی لیکن جب میں ہر طریق اور ہر صورت سے اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ میری
ذات سے کسی پر ذرہ برابر گرانی اور بارندہ والی حالت میں میرا یہ بھی منطالبہ ہوتا ہے اور حق ہوتا
ہے کہ مجھ کو بھی کوئی مستستا نہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ اس قسم کی حرکتیں اور گڑبڑیں خود رائی سے ہوتی ہیں
خود رائی بہت تی بڑی اور مذموم چیز ہے گوارائی تی کے برابر ہو۔ صوفیہ کے یہاں اس کے مٹانے اور فنا
کرنے کا بڑا اہتمام ہے یہ سب خراپیوں کی ہڑ ہے اسی سے تمام امراض روحانی کا نشوونما ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہ یہ باب تو بالکل مسدود بلکہ مفقود ہی ہو گیا کہ اپنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ
میں اپنے ہی لیے نہیں کہتا کہ مجھ کو تکلیف نہ پہنچا و مجھ کو اذیت نہ پہنچا و سب کے لیے کہتا ہوں کسی کو
بھی کسی قسم کی تکلیف کسی سے نہ پہنچے اس کا بڑا اہتمام رکھنا چاہئے نہ معلوم اس کو دین کی فہرست سے
کیوں نکال دیا گیا اس کا اہتمام ہی نہیں اس کو کسی نے لیا ہی نہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہونے قول سے نہ
فلک سے نہ رفتار سے نہ گختار سے نہ نشست سے نہ برخاست سے بطور مزاج کے حضرت والا نے
فرمایا کہ یہ گلی (مشمسہ) کی ایسی جزئی ہوئی کہ کچھ کھانہیں جاتا۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وہ صاحب مختلف ہیں شاید اس وجہ سے
آگئے تھے بڑھے ہوں فرمایا کہ یہ سب کچھ ہیں اگر ایسا تھا تو ان کو اس طریق سے کھڑا ہونا چاہئے تھا
جس سے مجھے شبہ نہ ہوتا کہ یہ میرے انتظار میں کھڑے ہیں میرا گمان یہ ہوا اور یہ میرا گمان قرین
قیاس تھا کہ یہ تمک کے انتظار میں کھڑے ہیں مجھے ایسی باتوں سے گرانی ہوتی ہے میں پیر پرستی
کرانا نہیں چاہتا خدا پرستی کرانا چاہتا ہوں پیر پرستی اگر کرنی ہے تو ایسے پیر دنیا میں بکثرت ہیں وہاں
جا کیں ان کے یہاں نہ تعلیم ہے نہ روک لوک ہے نہ محاسبہ ہے نہ موافقہ ہے صرف پھو ماچائی ہے۔
میں نے نہ اپنے بزرگوں کو ایسی باتیں پسند فرماتے ہوئے دیکھا نہ مجھ کو پسند ہے آج صحیح یہ معلوم کر
کے کہ طالب علم نہیں ہیں اور بھی رنج ہوابے چارے کسی دفتر میں ملازم ہیں بطور مزاج کے فرمایا کہ

اسی واسطے آواز صاف نہ تھی منہ میں پانی تھا اور تر ہو گیا تھا۔ ویکھئے ایک ذرا سی بات خوب سمجھی اتنے پر بیشان ہوئے کہ اتنی دیر تک منہ میں پانی لئے کھڑے رہے اور مجھ کو بھی پر بیشان کیا۔

ملفوظ ۳۹۷: گانے بجانے والوں کا حضرت پر غصہ

فرمایا کہ دف تر ہونے یاد آیا ایک گروہ ہے عورتوں کا یعنی ڈوغاں ان کا پیشہ ہی گانے بجانے کا ہے یہ دف بجائی ہیں آگ پر سکھا کر بجا تی ہیں یہ بھی ایک عجیب گروہ ہے یہاں پر بحمد اللہ اب اس قسم کی رسومات کا بہت کچھ انسداد ہو گیا ہے میں نے سنا ہے کہ یہ گروہ گانے بجانے والی عورتوں کا مجھ کو لوٹتا ہے کہ جس طرح گانے بجانے سے منع کر کے ہماری جائیداد کھودی اسی طرح ان کی بھی جاندہ وجاتی رہے۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ان کے کوئے کا کوئی اثر ہوتا ہے فرمایا جی نہیں کیا خاک اثر ہوتا کون سائیک کام تھا کہ جس کی وجہ سے حق تعالیٰ موافقہ فرمائیں کہ کیوں ان پر ظلم کیا گیا۔

ملفوظ ۳۹۸: حضرت کے چھوٹے بھائی کی شادی کا حال

فرمایا کہ میاں محمد مظہر (سب سے چھوٹے بھائی) کی شادی بالکل سادی ہوئی تھی صرف ایک بہلی تھی اس میں ایک میں ایک مظہر ایک مولوی شیر علی جو اس وقت پچھے تھے ان کو اس لئے ساتھ لے لیا تھا کہ شاید گھر میں آنے جانے یا کسی بات کے کہلانے کی ضرورت ہو۔ وہاں پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہاں بھی کوئی گڑ بڑ نہیں صرف خاص خاص عزیزوں کو دعوت ہے جن کی تعداد چھ سال سے زائد تھی اور یہ لوگ بھی وہ تھے جو خاندان ان میں شمار تھے مگر یہ لوگ بھی خفات تھے مخفی اس وجہ سے کہ رسوم کیوں نہیں کی گیں مجھ کو جب یہ معلوم ہوا میں نے لڑکی والوں سے کہا کہ صاف کہہ دو اگر جی چاہے شرکیک ہو جائیں ورنہ اپنے گھر بیٹھے رہیں ہمیں ضرورت نہیں شرکیک کرنے کی ان لوگوں نے دعوت ہی قبول نہ کی تھی مگر میرا یہ صفائی کا جواب سن کر سیدھے ہو گئے اور سب ہاتھ دھو دھو کر دستر خوان پر آبیٹھے بعد میں معلوم ہوا کہ لڑکی کی ماں اس اختصار سے بڑی ہی شکرگزار ہو گئی اور کہنے لگیں کہ اگر زیادہ بکھیرا ہوتا تو ایک سونے کا ہار تھا میرے پاس وہ بھی جاتا اور قرض لینا پڑتا۔

اُس پر حضرت والا نے ہار کی مناسبت سے مزاحا فرمایا۔ گلوگیر بھی ہوتا اور برادری کی جیت ہوتی اور انکی ہار۔ یہ لڑکی کی ماں میرے بڑے گھر میں کی حقیقی خالہ ہو گئی تھیں اسلئے میں بھی ان کو عرفان خالہ ہی کہتا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ لڑکی کو رخصت کس وقت کرو گی کہنے لگیں بھائی صبح کو جلدی تو رخصت نہیں ہو سکتی اسلئے کہ جلدی میں نہ کچھ کھاؤ گے اور نہ کچھ بھیرو گے میں نے کہا کہ کھانا پاکا کر ساتھ کر دو جہاں بھوک گئے گی کھالیں گے اور بھرنا کی کوئی ضرورت نہیں۔

جب انہوں نے پھر اپنی رائے کا اعادہ کیا تب میں نے کہا بہت اچھا جب تم رخصت کرو گی ہم اسی وقت چلے جائیں گے میکن یہ بات یاد رکھو کہ اگر دیر سے رخصت کیا تو نماز ظہر کا وقت راستہ میں ہو گا اس لئے کہ تو کوس جگہ ہے اور میں اپنے اہتمام میں لڑکی کی نماز قضا ہونے نہ دوں گا اور بلاعذر کے بہلی میں نماز ہو نہیں سکتی تو لڑکی کو بہلی سے اترنا پڑے گا اور یہ بھی تم سمجھتی ہو کہ لڑکی نئی نو میلی ہو گی پہنہ اوڑھے ہو گی عطر تیل خوشبو وغیرہ بھی لگا ہو گا اور یہ مشہور ہے کہ کیکر وغیرہ کے درخت پر بھتنی وغیرہ رہا کرتی ہیں سو اگر کوئی بھتنی چپٹ گئی تو میں ذمہ دار نہیں چونکہ عورتوں کے مذاق کے موافق غفتگو تھی سمجھ میں آگئی کہنے لگیں نہ بھائی میں نہیں روکتی جب تمہارا بھی چاہے جاسکتے ہو۔ میں نے کہا کہ بعد نماز فجر فوراً ہی سوار کر دو انہوں نے قبول کر لیا۔ اب جب صبح ہوئی چلنے کا وقت ہوا تو ایک رسم بے بکھیر کی دہن کی رخصت کے وقت بستی کے اندر کچھ روپیہ پیسہ کی بکھیر کی جاتی ہے میں نے یہ کیا کہ کچھ روپیہ مساکین کو تقسیم کر دیا اور کچھ مساجد میں دیا محسن اس وجہ سے کہ لوگ بخشنود نات ات کا شبہ نہ کریں۔ اس سادگی کے متعلق یہ روایت سنی گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ شادی اس کو کہتے ہیں قلب کے اندر تازگی شفقتگی انتراجم معلوم ہوتا ہے یہ دنیا داروں نے کہا واقعی شریعت پر عمل کرنے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے۔

اب ولیمہ کا قصہ سننے میں نے کسی کی دعوت نہیں کی کھانا پکوا کر گھروں پر بحیج دیا ایک بی بی نے کھانا واپس کر دیا کہ یہ کیسا دلیمہ؟ میں نے کہا نہیں قبول کرتی ان کی قسمت جانے دوان کا خیال یہ تھا یہ متائیں گے خوشامد کریں چیز مگر ہمیں ضرورت ہی کیا تھی گھر سے کھلائیں اور الٹی خوشامد

کریں صحیح کو وہی بی بی آئیں کہنے لگیں کہ رات کا کھانا لاو میں نے کہا کہ وہ تورات ہی ختم ہو گیا یہ سن کر بڑی ہی دلگیر ہو میں کہ میری ایسی قسمت کہاں تھی کہ ایسی برکت کا کھانا نصیب ہوتا ان یو نیاداروں کا دماغ یونہی درست ہوتا ہے اہل دین کو قدرے استثناء برنا چاہئے ان کو جتنا چمٹو یہ زیادہ اینٹھ مرد کرتے ہیں۔

لفظ ۳۹۹: حضرت کا اپنی علاقی ہمشیرہ کی شادی میں شرکت نہ کرنا فرمایا کہ میری علاقی ہمشیرہ کی جو شادی ہوئی تھی اس میں سب رسوم مردوں ہو میں تھیں اس کا قصد یہ ہے کہ اس کی والدہ کو عورتوں نے بہکایا اور یہ سمجھایا کہ تمہاری ایک ہی تو بھی ہے دل کھول کر شادی کرو۔ باقی اگر یہ اندیشہ ہے کہ وہ (یعنی میں) شرکت نہ کریں گا تو نکاح میں تو شرکت ہو ہی جائیگی اور جن رسوموں کو برا کہتے ہیں اس میں شرکت نہ کریں گے نکاح تو سنت ہے اس میں تو ضرور ہی شریک ہوں گے والدہ بیچاری بہکائے میں آگئیں۔ برات آنے کا دن جمعہ کا تھا میں نے بھینسانی (ایک گاؤں ہے) والوں سے کہلا بھیجا کہ جب جمعہ پڑھنے آؤ ایک بہلی لیتے آتا او قصبے سے باہر کھڑی کر دینا۔ میں بعد جمعہ تمہارے بیباں آؤ گا وہ لوگ جمعہ کی نماز کو آتے ہی تھے تو ایک بہلی ہمراہ لیتے آئے میں نے نماز جمعہ کی جامع مسجد میں پڑھی اور باہر ہی باہر بہلی میں بیٹھ کر بھینسانی پہنچ گیا یہاں پر کسی سے ذکر نہیں کیا تھا کہ گھر والوں تک کوئی خبر نہ کی۔ برات آگئی دن خدا ہوا بھی خیال رہا سب کو کہ ہو گا یہیں مسجد وغیرہ میں جب مغرب کا بعد ہو گیا تب نکاح پڑھا۔ کے لیے تلاش ہوئی۔ میں نہ ملا تو بھائی صاحب نے مختلف اطراف میں آدمی بھیجے ایک آدمی بھینسانی بھی آیا میں عشاء کی نماز پڑھ کر لیٹ گیا تھا۔ جس مقام پر میں ٹھہرا ہوا تھا ایک آنے والے کی آہت معلوم ہوئی میں نے کہا کہ غالباً تھا نہ بخوب کا آدمی آیا اسلئے کہ خیال تو تھا ہی وہ آدمی آیا سے ملا۔ میں نے کہا وہاں جا کر کہہ دیتا کہ میں زندہ ہوں اطمینان رکھو اور اگر اوروں پر اختیارت سے ملا۔ میں نے کہا وہاں جا کر کہہ دیتا کہ میں زندہ ہوں اطمینان رکھو اور اگر اوروں پر اختیارت اپنے نفس پر تو اختیار تھا خود اپنے کو بچالیا اور میں صحیح کو آ جاؤں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ شب کو وہیں صحیح کو بھی دیر کر کے چلا اس خیال سے کہ ایک براتی کی بھی صورت نہ دیکھوں پھر تو میری شرکت

کرنے کی وجہ سے سارے خاندان نے توبہ کی کہ بڑی و اہیات ہوئی اب آئندہ کبھی ایسا شکریں گے جب سے اللہ کا فضل ہے خاندان میں کبھی کوئی رسم نہیں ہوتی۔ گاؤں والوں کا خیال سننے یہاں سے بھینسائی دوسرو پیغمبیری خریدنے کے لیے بھیجے گئے تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو خیال ہوا تھا جب مولویوں کے گھر دوسرو پیغمبیری کا گھنی ایک گاؤں سے جا رہا ہے اور دوسرا جگہ سے بھی ضرور آیا ہو گا جب کبھی کا اتنا صرف ہے اور اجتناس میں نہ معلوم کس قدر صرف ہو گا تو اب ہم بھی دل کھول کر شادیاں کیا کریں گے۔ چاہے گھر کی جانب ادیں فروخت ہو جائیں سو اگر اس وقت آپ یہاں ن آتے تو ہمارے یہاں بھی شادیوں میں ایسا ہی ہوتا جس کا انعام گھر کی بربادی ہوتی آپ نے یہاں آ کر ہمارا گاؤں بیحالیا اور ایسا ہو گیا جیسے اپنے پاس سے گاؤں ہم کو دیا ہو۔

دقیقی اگر میں وہاں نہ جاتا اور یہاں پر رہتا گو شریک نہ ہوتا مگر کس کو معلوم ہوتا کہ شرکت کی یا نہیں کی۔ عوام پر بہت برا اثر ہوتا۔ اب یہاں پر قصہ میں یہ حالت ہے کہ کسی کو ان رسوم کی پابندی نہیں رہتی۔ اب اگر کوئی صرف بھی زائد کرے تو اس کا نام نہیں نہ کرے کچھ طامت نہیں اور رسوم مباحہ کے متعلق یہی درجہ منقصود ہے۔

ملفوظ ۲۰۰: ایک رئیس کے لڑکے ختنہ کی تقریب میں حضرت کی عدم شرکت فرمایا کہ قصہ رامپور میں ایک رئیس مولوی صاحب کے لڑکے کی ختنہ تھی اپنے سب حضرات بھی اس میں مدعا تھے مجھ کو بھی بلا یا گیا تھا میں بھی چلا گیا اصلاح المرءوم اس سے پہلے لکھ پڑا تھا میں نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ میں قاضی انعام الحق صاحب کے مکان پر بھر بھر دوں گا اور وجہ میں نے یہ بیان کی تھی کہ جمع میں بعضے بڑے ہونگے میں ان کے ادب میں رہوں گا اور بعضے پچھوٹے ہونگے وہ میرے ادب میں رہیں گے نہ مجھ کو راحت ملے گی نہ ان کو اور اس تقریب میں حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے تھے قاضی انعام الحق صاحب کے مکان پر بھر باعثاء کے وقت میں نے دیکھا کہ تالیٰ عام بلا واد تا پھرتا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ بلا واد کیسا ہے اس نے کہا کہ تمام برادری کی

دھوت ہے میں کھنک گیا کہ گز بڑا معاملہ ہے اور ظاہر تفاخر ہے ساتھ ہی اس کے یہ خیال ہوا کہ تو اصلاح الرسم لکھ چکا ہے اگر شرکت کی تو کتاب کا خاک اثر نہ رہی گا میں نے قاضی انعام الحق صاحب سے مشورہ کیا کہ یہ معاملہ کی صورت ہے اس میں کیا کرنا چاہئے انہوں نے جواب دیا کہ ہر اوری کا معاملہ ہے میں اس میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا مجھ پر سب الزام آپ سے گا۔ میں نے خود سوچ کر تجویز کیا کہ میں آپ کے باعث میں جاتا ہوں وہاں کسی کا خیال بھی نہ جائے گا اور میں شرکیک ہونے سے نقچ جاؤ نگان ہونگا نہ شرکیک ہونگا گواں میں مجھ کو بعض کافیتیں ہو گئی مگر کچھ بھی ہو شرکت مناسب نہیں میں اس زمانہ میں اصناف کا کام کر رہا تھا سفر میں سامان تصنیف کا بھی ساتھ رکھتا تھا اس وقت بھی ضروری سامان ساتھ تھا اس کو لیکر آخر شب میں مشروط باغ میں پہنچ گیا۔

یہ باغ قصبه سے قدرے فاصلے پر ہے بڑی فضائی جگہ ہے نہر بھی اس کے قریب ہے ایک کنوں بھی اس میں ہے۔ غرضکہ بڑی ہی تفریح کی جگہ ہے وہاں بیٹھا ہوا لکھتا رہا (یہ باغ (عبدہ) قضاۓ کی وجہ سے شاہی عطیہ تھا اصل میں اس کا نام تھا مشروط بالقصباء اب صرف مشروط رہ گیا) اب صبح کو میری تلاش ہوئی قاضی انعام الحق صاحب سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے انہوں نے جواب دیا مجھ کو معلوم ہے مگر بتلانے کی اجازت نہیں ان پر بے حد زور دیا کہ بتلو اور انہوں نے کہا کہ اس سے میر اتعلق دین کا ہے بتلاؤ میں سکتا چاہے کچھ بھی ہو لیکن یہ اطمینان رکھیے کہ میری شرکت مشورہ وغیرہ کی کچھ نہیں۔ لوگ کہنے لگے کہ گھر میں ہے انہوں نے کہا کہ میں پرداہ کرائے دیتا ہوں آپ خود کیجے لیں مگر وہ مکان میں نہیں ہے خواہ مخواہ خود بھی تکلیف اٹھاؤ گے اور مجھے بھی تکلیف دو گے مختلف سرکوں پر بھی ڈھونڈا گیا مگر میں کہاں ملتا جھلکا کر رہ گئے۔ میں ریل کے وقت باغ ہی سے باہر اشیش پر پہنچ گیا اشیش پر مولوی معین الدین صاحب نانوتوی ملے وہ بھی اس ہی تقریب کی شرکت کے لیے آئے تھے کہنے لگے کہ میں تو تم سے لڑنے آیا تھا۔ یہ انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ انہوں نے بھی ایک مرتبہ ایک تقریب میں مدعو کیا تھا۔ میں نے انکار کر دیا تھا کہنے لگے کہ یہ سوچ کر چلا تھا یہ کہوں گا کہ غریب آدمیوں کے یہاں شرکت سے انکار کرتے ہو اور امیروں

کے بیہاں شرکت کرتے ہو مگر جب تم کونہ پایا اب لاری کی گنجائش نہ رہی اور کہنے لگے کہ اب میں بھی شریک نہ ہو نگاہ جب تم ہی شریک نہ ہوئے۔ غرضکہ گاڑی آگئی میں تو اس میں بینہ کریہاں پر آگیا وہاں پر بڑی گڑبرڑ ہوئی اسلیئے کہ ایک جماعت وہاں بدعتیوں کی بھی ہے (یہ سنائے کہ جہاں جہاں حضرت سید صاحب کے قدم پہنچ گئے وہاں پر بدعت کا زور نہیں رہا اور جہاں پر نہیں پہنچے وہاں پر بدعت کا زور ہے واللہ اعلم) یہاں پر تھانہ بھون میں بھی حضرت سید صاحب تشریف لائے ہیں محمد اللہ یہاں پر کوئی جماعت بدعتیوں کی نہیں ہے و یہی ہی لوگ کچھ معمولی طریق پر اس خیال کے ہیں باقی کوئی خاص جماعت نہیں قصہ را پور میں بدعت کا قدرے زور ہے سو بدعتیوں نے ایک مضمون تیار کیا اس مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ مصنف اصلاح الرسوم نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا ہے اور رسوم میں شرکت کی ہے اور مشورہ یہ ہوا کہ اس کی دستی نقلیں کر کے کوچہ و برباد میں جا بجا چپا کر دو۔ بورڈوں نے منع کیا یورڈوں میں عقل ہوتی ہے تجربہ ہوتا ہے کہ جلدی مت کروات درمیان میں ہے صحیح کو دیکھ لو کہ شرکت کرتے ہیں یا نہیں کبھی قبل از وقت کوئی کام کر گزرو پھر ذلت اٹھانی پڑے صحیح کو دیکھا جائے گا صحیح کو ان کو یہ معلوم ہوا کہ اس نے شرکت نہیں کی کہنے لگے کہ بات رکھ لی (یعنی میں نے) یہاں کے بھی بعض حضرات تقریب میں شریک تھے انہوں نے بھی میرے متعلق بڑے بڑے لیکھ رہیے یہاں ایک لطیفہ ہوا۔ میں قرآن شریف سورہ نمل پڑھ رہا تھا۔ ان میں بُدْبُد کا قصہ آیا۔ میں نے ایک دوست کو بیا کر کہا کہ دیکھو قرآن شریف میں میرے اس واقعہ کی نظری اور تائید موجود ہے ان آیات میں

وَتَسْقَدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيٌّ لَا أَرَى الْهُدُّدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. لَا عَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا ذَبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّ بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ احْتَطْ بِمَالَمْ تُحْطِبِ بِهِ وَجَنْتَكَ مِنْ سَبَا بَنِيَّ يَقِينٍ. إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأَوْتَتِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ الْلَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونُ۔ (۱) اور ایک

پاریہ قصہ ہوا کہ سلیمان نے پرندوں کی حاضری لی تو بد بدنہ کونہ دیکھا فرمانے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں بد بدنہ کو نہیں دیکھتا کیا کہیں غائب ہو گیا۔ میں اس کو غیر حاضری کا میرے سامنے پیش کرے۔ سو چھوڑی دیر میں وہ آگئیا اور سلیمان سے کہنے لگا کہ میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہوئی اور اجتماعی بیان اس کا یہ ہے کہ میں آپ کے پاس قبیلہ سماں کی ایک تحقیق خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اس کو سلطنت کے لوازم میں سے ہر قسم کا سامان میسر ہے اور اس کے پاس ایک بڑا اور قیمتی تخت ہے میں نے اسکو اور اس عورت کی قوم کو دیکھا کہ وہ خدا کی عبادت کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے ان اعمال کفریہ کو ان کی نظر میں مرغوب کر رکھا ہے اور ان کو راہِ حق سے روک رکھا ہے سو وہ راہِ حق پر نہیں چلتے ۱۲۔ بد بدنہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے غائب ہوا میں بھی اس مجتمع تقریب سے غائب ہو گیا تھا اس کی سزا لا اعذب نہ او لا ذ بحنه تجویز کی گئی تھی مجھ کو بھی بر ایحلا کہا گیا ملامت کی گئی کہ یہ بھی ذبح نفس ہے بد بدنے ایک ایسی چیز کی خبر وی جس کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کونہ تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی واقعہ حیے کا علم اگر ناقص کو ہو کامل کونہ ہو ممکن ہے اسی طرح مفاسد عوام کی مجھ کو خبر ہوا اور اکابر کو نہ ہوتے مستجد نہیں اور جیسے وہاں بلقیس عورت کی سلطنت تھی ایسے ہی یہاں پر بھی عورتوں کی حکومت تھی۔ جس کی وجہ سے یہ رسم ہوئیں اور حیات میں کسی کے علم کا زائد ہونا یہ کوئی کمال نہیں واقعات جزئیہ میں ممکن ہے کہ چھوٹوں کا علم بڑوں سے بڑھا ہوا ہو۔ جیسے ایک جانور بد بدنہ کا علم ایک جی سے جزئی خاص میں بڑھا ہوا تھا۔ سو جیسے اس علم سے سلیمان علیہ السلام پر بد بدنہ کو فضیلت نہیں ہو سکتی اسی ہی مجھ کو بھی اپنے اکابر پر فضیلت نہیں ہو سکتی۔ البتہ ہمارے حضرات علوم مقصودہ میں بڑھے ہوئے ہیں اور یہ علوم مقصودہ میں سے نہ تھا۔

ایک مولوی صاحب محض اصلاح الرسم کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے جوش میں تھے کہنے لگے مجھ کو اصلاح الرسم کے بعض مقامات پر شہادت ہیں ان میں گفتگو

کرتا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بڑی خوشی سے مگر معاف کیجئے گا میری بے ادبی اور بے تہذیبی آپ کو تمین باتوں پر قسم کھانا ہوگی۔ ایک تو یہ کہ واقعی میرے دل میں شبہ ہے مخفی تصنیف نہیں کیا گیا دوسرے یہ کہ اس شبہ کا جواب میرے ذہن میں نہیں تیرے یہ کہ صرف تحقیق مقصود ہے اپنے کسی بڑے کی نصرت مقصود نہیں ان تینوں باتوں پر قسم کھانے کا پھر جو شبہ ہو فرمائیے۔ حضرت اس سے سب شہادت ختم ہو گئے سمجھے کہ یہ قسم بڑی ٹھیکی کھیر ہے اپنی ہی جماعت کے ایک بزرگ نے بذریعہ خط مشورہ دیا کہ آپ اصلاح الرسوم پر نظر ثانی فرمائیں میں نے جواب لکھا کہ میں نظر ثانی نظر ثالث نظر رابع سب کرچکا ہر نظر کا وہی نتیجہ نکلا جو نظر اول کا تھا اب آپ اصلاح فرمائیں میں اسکو شائع کر دوں گا لیکن اگر اس سے لوگوں کو ان رسوم میں ابتلاء ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے پھر ان بزرگ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے تو اس تقریب میں شرکت فرمائی اور فلاں شخص نے (یعنی میں نے) شرکت نہیں کی یہ کیا بات ہے جواب میں فرمایا کہ بھائی ہم نے فتوے پر عمل کیا یہ تو تو اضع کا جواب تھا مگر اسی طرح کا ایک صاحب نے حضرت مولانا محمود حسن صاحب سے سوال کیا حضرت نے محققانہ جواب دیا کہ عوام الناس کے مفاسد کی جیسی اس کو خبر ہے ہم کو خبر نہیں۔ حضرت نے حقیقت ہی کو ظاہر فرمادیا۔ ایک صاحب نے آکر مجھ سے بھی کہا کہ فلاں صاحب نے تمہاری قیمت ایسے ویسے الفاظ بھی کہے اگر آپ چاہیں تو میں نام بھی بتا سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں بھائی! مجھ کو کیوں لوگوں سے بدگمان کرتے ہو اور ایسے موقع پر اکثر یہ شعر پڑھ دیا کرتا ہوں۔

تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا اے ذوق ☆ ہے برا وہی کہ جو مجھ کو برا جانتا ہے اور اگر تو ہی برا تو وہ حق کہتا ہے ☆ پھر برا کہنے سے کیوں اس کے برا مانتا ہے اور ایسے موقع پر یہ شعر بھی پڑھا کرتا ہوں۔

اور فرمایا کہ میرنی تو یہ حالت ہے ۔

خود گذ کرتا ہوں اپنا تو نہ سن غیروں کی بات ☆ ہیں بھی کہنے کو وہ بھی اور کیا کہنے کو ہیں
یعنی جب میں خود اپنی روزی حالت کو لوگوں پر کھولتا رہتا ہوں اور کسی بات کو خفیٰ نہیں رکھتا
او دوسروں کو کہنے سننے کی تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت ہے یہ تو عیب گوئی کے متعلق میرا نہ اُق
ہے باقی عیب شوئی اور جواب دہی کے متعلق یہ نہ اُق ہے کہ میں تو اپنے دوستوں سے بھی اپنی
حضرت کا خواہاں نہیں یہ سب غیر ضروری چیزیں ہیں ان سے بچ کر آدمی ضروری کام میں لے گے ۔

۲۳ رمضان المبارک ۱۴۵۰ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم دوشنبہ

ملفوظ ۲۰:

فرمایا کہ ریت سے حروف خشک کرنیکی پرانی رسم ہے اور مجھ کو بھی بھی پسند ہے اس سے
حروف پھیلے نہیں پڑتے جاذب سے حروف پھیلے پڑ جاتے ہیں اور بھی کھاتے اب تک بھی ریت
ہی سے خشک کئے جاتے ہیں اس سے حروف کی حفاظت رہتی ہے ۔

۲۰ دوسروں کی گرانی کی رعایت فرمانا

ملفوظ ۲۰:

حضرت والا کو کسی دوسری جگہ اپنے ایک عزیز کے یہاں پہنچ سامان بھیجننا تھا وہ سامان
ایک چھوٹی سی گھڑی کی شکل میں بندھا ہوا تھا اتفاق سے ایک صاحب اس مقام پر جانے والے
تھے حضرت والا نے اپنے خادم نیاز سے فرمایا کہ یہ صاحب تشریف لے جا رہے ہیں آپ کے وہ
سامان پسرو کر دیا جائے بوقت پسرو کرنے کے حضرت والا نے فرمایا کہ اگر آپ پر زدہ برابر بھی
گرانی ہو تو آدمی پہلے سے تجویر کر لیا گیا ہے وہ اس سامان کو لے کر چلا جائے گا۔ ان صاحب نے
نهایت لجاجت کے لمحے میں عرض کیا کہ مجھ پر کوئی گرانی نہ ہوگی اور وہ صاحب سامان اٹھا کر اٹھیش
کے ارادہ سے چل دیئے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اٹھیش تک اس سامان کو پہنچانے کے لیے نیاز
جا میں گئے بھی کیا تھوڑا ہے کہ وہاں جانے سے یہ بچے اور کفایت بھی ہوئی ان صاحب نے اس

پراصرار کیا کہ میں خود ہی اشیش تک اس سامان کو لے جاؤں گا کوئی زیادہ وزن نہیں حضرت والا نے فرمایا کہ آپ کو وزن نہیں معلوم ہوتا میرے قلب سے اس وقت پوچھئے کہ اس میں کتنا وزن ہے اور ایسا ہر گز نہیں ہو سکتا کہ اشیش پر بھی آپ ہی لے جائیں ریل سے آگے تو آپ ہی لے جائیں گے مجبوڑی ہے مگر یہاں تو کوئی مجبوڑی نہیں وہ صاحب خاموش ہو گئے اور نیاز جا کر اشیش پر وہ سامان پہنچا آئے۔

حضرت گنگوہیؒ کی اپنے بارے میں قسم ملفوظ ۲۰۳:

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں قسم کھا کر لکھا ہے کہ میں کچھ نہیں اس پر بعضی مخالف کہتے ہیں کہ ہم تو حضرت کو چاہجھتے ہیں ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ کچھ نہ سمجھتے (استغفار اللہ)۔

ایک مولوی صاحب اپنے ہی مجمع کے اور حضرت گنگوہیؒ کے جانشیروں میں سے ان کو ایک شیہ ہو گیا اعتقاد تو نہیں گیا مگر یہ کہنے لگے کہ ہمارے اعتقاد میں اور حضرت کے فرمانے میں تعارض ہے اگر حضرت کے ارشاد کو صحیح سمجھیں تو ہمارا معتقد ہونا باطل ہے اور اگر معتقد رہتے ہیں تو حضرت کی طرف خلاف واقع کی نیت الزم آتی ہے۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب اسکی بات آپ جیسے شخص سے تعجب ہے۔ میں اس کی حقیقت آپ سے عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کمالات کی دو قسمیں ہیں ایک کمالات واقعہ اور ایک کمالات متوقعہ! سو ہم حضرت کے جن کمالات کے معتقد ہیں وہ کمالات واقعہ ہیں اور حضرت جن کمالات کی لشی فرماتے ہیں وہ کمالات متوقعہ ہیں۔

اپنے بزرگوں کے متولین ملفوظ ۲۰۴:

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اپنے بزرگوں کے متولین میں جس قدر اتباع سنت اور احکام کی پابندی دیکھی یہ بات کسی اور بزرگوں کے متولین میں دیکھنے میں نہیں آتی فرمایا کہ اپنے بزرگوں کے متولین میں بھی ان ہی میں یہ بات دیکھی جاتی ہے جن کو صحبت میسر ہو گئی ورنہ بہت کم یہ بات پیدا ہوتی ہے یہ ایک رنگ ہے بدoul صحبت کے یہ رنگ ہونہیں سکتا جیسے مشہور

ہے کہ خربوزہ کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے یہ مقولہ بالکل صحیح ہے دیکھ کر بھی رنگ بدل جاتا ہے۔

حضرت حاجی صاحبؒ کی شانِ تحقیق ملفوظ ۲۰۵:

فرمایا کہ جو شانِ تحقیق کی حضرت حاجی صاحبؒ میں دیکھی وہ کسی میں نہیں دیکھی۔

مولوی شاہ بہاؤ الدین صاحب امر وہی نے طائف میں چلہ کھیچا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ کوئی نفع نہیں ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ناراض ہیں فرمایا کہ اگر ہم ناراض ہوتے تو تمہیں چلہ ہی کی توفیق نہ ہوتی اس میں حضرت نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ شیخ کی کدورت موجب خذلان ہوتی ہے۔

ایک صاحب ذا کر شاغل تھے اپنے حالات پیش کر کے حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا کہ یہ حضرت ہی کا فیض ہے فرمایا نہ بھائی! میں کچھ نہیں دیتا یہ سب تمہارے ہی اندر ہے اسی کا ظہور ہو جاتا ہے اور اس پر مثال فرمائی کہ جیسے نالی کے سر پر خوان ہوتا ہے اور اس میں ہر چیز ہوتی ہے جس کے پاس وہ خوان ہوتا ہے وہ اس سے کوئی چیز اٹھا کر نالی کو دیدیتا ہے تو وہ اپنے پاس سے دینا تھوڑا ہی ہے بلکہ سب کچھ اس کے ہی پاس تھا اس کو خبر نہ تھی اب خبر ہو گئی۔

حضرت کی یہ شانِ توفیقی عرفان کی۔ اب شانِ شیخست سنئے کہ اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا مگر تم ایسا نہ سمجھنا ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت سے کہا کہ اللہ اللہ کرنے سے کوئی نفع نہیں ہوا فرمایا کہ یہ کیا تھوڑا نفع ہے کہ اللہ اللہ کرتے ہو۔ عجیب بات فرمائی۔

اسی سلسلہ میں صاحب ملفوظات نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی بیوی سے کہا کرتا تھا کہ تو بہت نماز پڑھتی ہے نماز پڑھنے سے تجھ کو ملا مجھ سے اگر کہتا تو میں جوب میں کہتا کہ نماز ملتی ہے۔ سو دا بڑا اگتا خ تھا اپنی بیوی سے کہا کرتا کہ تم نماز پڑھتی ہو کیا ملے گا وہ کہتی کہ جنت ملے گی اس پر کہتا کہ اچھا وہاں بھی ان ہی ملاناوں کے اور موذنوں کے غریبوں ہی کے ساتھ رہے گی دیکھ ہم دوزخ میں جائیں گے وہاں پر بڑے بڑے ریس ہو گئے بڑے بڑے لوگ ہو گئے شداد نمرود فرعون، قارون ہم ان کے ساتھ ہو گئے مسخرہ پن تھا کوئی عقیدہ تھوڑا ہی تھا مگر ایسا تمثیل بھی بخت یہ ہو گی ہے۔

ایک مولوی صاحب نے کسی بات پر عرض کیا کہ حضرت کفر کا اندیشہ ہے اس پر فرمایا کہ کفر بڑی مشکل سے آتا ہے ہاں اندیشہ کفر میں میں بھی متفق ہوں باقی کفر کو تو کوئی ہاتھ جوڑ کر بلائے تب بھی مشکل ہی سے آتا ہے۔

لفظ ۲۹: حضرت حاجی صاحب کی تعلیم و تسلی

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نداق اس قدر محققانہ اور مربیانہ ہے کہ کبھی کسی کو پریشانی ہو ہی نہیں سکتی حضرت اس نے کے مجدد تھے امام تھے کیسی پاکیزہ اور تسلی بخش تعلیم ہے جو اپنے کے ملفوظ میں گذرا ہے کہ کیا یہ نفع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہو۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ سوال کہ اللہ کا نام لینے سے کیا نفع ہو اجب کرو جب کہ ذکر اللہ مقصود بالغیر ہو۔ اب بتائیے کہ جو شخص ذکر کو مقصود سمجھے گا اس کو کیا پریشانی ہو گی اس لئے کہ پریشانی تو مقصود حاصل نہ ہونے پر ہوا کرتی ہے۔

لفظ ۳۰: جاہل صوفیوں کا جنت سے استغنا

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آجھل جاہل صوفی کہا کرتے ہیں کہ نہ تم کو جنت کی خواہش نہ دو زرخ سے ڈر فرمایا کہ حقیقت سے بے خبری اس کا سبب ہے اور صریح مخالفت ہے نصوص کے احکام کی یہ یہیں باقی بگھارتے ہیں مر جانے کے بعد اگر جنت نہ ملے تو حقیقت معلوم ہو گی باقی مخلوقین کے کلام میں اگر ایسا مضمون پایا جائے اس کا غشاء دوسرا ہے۔

لفظ ۳۱: جنت کی طلب مامور بد ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جنت سے استغنا نہیں ہو سکتا اس کی تباہی جائز اسکی طلب بھی جائز۔ بلکہ مامور بد ہے۔

لفظ ۳۲: ”منظوم مناجات“ میری بار کیوں دیر آتی کرے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک مناجات منظوم ہے چچی ہوئی جس میں جگہ چگہ یہ مصرعہ ہے کہ میری بار کیوں دیر آتی کرے فرمایا کہ تی ہاں! نہایت گستاخی کا طرز ہے

اور جناب اس کا تو کوئی جاہل مصنف معلوم ہوتا ہے بعض کو اہل علم ہونے کا دعاۓ ہے ان کی تصانیف میں ایسی خرافات ہیں جن کو دیکھنے اور پڑھنے سے رونکھا کھڑا ہوتا ہے۔ اور ایسے مفہومین اکثر فضائل نبویہ میں بیان کئے جاتے ہیں جو دوسرے انبیاء علیہم السلام کی تنقیص کے موہم ہو جاتے ہیں۔ اور حضور کو اور انبیاء پر فضیلت دیتے ہیں اکثر عنوان نہایت گستاخانہ ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ انبیاء میں اور حضور میں کامل اور اکمل بلکہ اکمل اور اکمل الکاملین کا تفاوت ہے۔ کامل اور ناقص کا تفاوت نہیں بات یہ ہے کہ ایک فضائل تو ہیں منصوص ان کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں اور ایک ہیں مستدیط اس میں سخت احتیاط کی حاجت ہے انبیاء علیہم السلام کے تفاضل کا مسئلہ نہایت ہی نازک ہے اور مصنفوں میں اسی کو بڑے زور سے قیاس کی بناء پر بگھارتے ہیں۔ میں اس کے متعلق ایک معیار بیان کیا کرتا ہوں کہ اگر فرضًا تمام انبیاء علیہم السلام مع حضور ﷺ کے سب ایک جگہ جمع ہوں تم یہ سوچو کہ وہ اپنے مفہومین تفاضل کے متعلق اس مجلس میں بھی سب حضرات کے سامنے پڑھ سکتے ہو یا کہہ سکتے ہو۔ اس معیار کو صحیح رکھ کر کے وہی کلام منہ سے لالو جس کو سب کے سامنے بلکہ حساب کے روز حق تعالیٰ کے سامنے بھی عرض کر سکو یہ ایک مراقبہ ہے یہ میں نہیں کہتا کہ نیت بھی تنقیص کی ہے مگر وہ کیا یہجے کہ اس کا مد اول کیا ہے۔

اسی سلسلہ میں فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک چشتی اور ایک قادری میں بھگڑا ہوا کہ حضرت غوث پاک کا مرتبہ افضل ہے یا خواجہ احمدیری صاحب کا حضرت نے فیصلہ فرمایا کہ بھائی یہ بھگڑے کی بات نہیں قادر یوں کے تو حضرت غوث پاک باپ ہیں اور خواجہ صاحب پچھا۔ اور ہشتنیوں کے حضرت خواجہ صاحب باپ ہیں اور حضرت غوث صاحب پچھا تعلق خواہ باپ سے زیادہ ہو مگر تنقیص پچھا کی بھی جائز نہیں۔ ان قادری صاحب نے کہا کہ جب حضرت غوث پاک نے فرمایا قدموں ہذہ علی رقب اولیاء اللہ ﴿ میرا یہ قدم اولیاء اللہ کی گرداؤں پر ہے ﴾ تو حضرت خواجہ صاحب نے گردن جھکاؤی اور فرمایا بل علی رأسی وعینی ﴿ بلکہ میرے سر آنکھوں پر ۱۲ ﴾ تو اس میں خود خواجہ صاحب نے اقرار

فرمایا ان کی فضیلت کا۔

حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اس سے تو اس کے عکس پر بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ ان کا عروج بڑھا ہوا تھا اور ان کا نزول اور طریق میں اور نزول افضل ہے عروج سے پھر فرمایا (یعنی صاحب مفتوذ نے) کہ اگر ان بزرگوں میں کسی وجہ سے لڑائی بھی ہو تو ایسا ہے جیسے دو شیر لڑتے ہیں اور گیدڑ صاحب فیصلہ کے لیے بچ میں کو دیں۔ اسی تقاضل کے سلسلہ میں فرمایا کہ ایک شخص حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے اور حضرت حاجی صاحب کی مجلس میں حاضر تھے ان کے دل میں خطرہ ہوا کہ معلوم نہیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں سے بڑا کون ہے اللہ کے نزدیک حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس خطرہ پر مطلع ہوئے فرمایا کہ میاں ایسا خیال بہت بڑی بات ہے تمہیں سیراب کرنے کے لیے تو دونوں کافی ہیں تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے کون بادل بڑا ہے اور کس میں پانی زیادہ ہے۔

ملفوظ ۳۱۰: ایک مصیبت پر تین شکر

فرمایا کہ آج ایک جگہ سے افطار کی دعوت آئی ہے مگر میں مخدوہ ہوں کہیں آنے جانے سے اس آنت کی تکلیف کیوجہ سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو بڑی تکلیف ہے فرمایا اس سے زائد نہیں یہی محل شکر ہے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تین وجہ سے شکر واجب سمجھتا ہوں ایک تو یہ کہ اس سے زائد نہ ہوئی دوسرے یہ کہ دین پر کوئی آفت نہ آئی قیصرے یہ کہ جزع فزع نہ کیا اللہ تعالیٰ نے صبر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ! بالکل صحیح ہے۔

ملفوظ ۳۱۱: سب مسلمان ولی ہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میرانمہب یہ ہے کہ سب مسلمان بزرگ ہیں اور ولی ہیں اللہ ولی الذین اهتو اسے تمام اہل ایمان کی ولایت عامہ ثابت ہوتی ہے اور بڑا گروہ یہی ہے ان کا نور ایمان اگر ذرہ برابر بھی متمثل ہو جائے تو چاند اور سورج ایک دم اس کے سامنے ماند ہو جائیں۔

لفظ ۲۱۲: ہر مسلمان میں نور ایمان ہے

ایک مولوی صاحب کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہر مسلمان میں نور ایمان ہے گواں کے آثار پورے طور پر ظاہرنہ ہوں اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی حسین اپنے چہرہ کو سیاہی مل لے اور اس کا حسن مستور ہو جائے مگر جس وقت صابن سے دھوئے گا چاند سماں کھڑا نکل آئے گا ایسے ہی بعض مسلمانوں کا نور ایمان بوجہ محضیت کے مستور ہے مگر جس وقت تو بہ کرے گا اور کثرت استغفار کریں گا ان شاء اللہ تعالیٰ قلب منور نظر آنے لگے گا۔

لفظ ۲۱۳: وسوسوں کی مثال آئینہ پر مکھی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ وسوسے آتے ہیں قلب میں، میں نے کہا کہ وہ اندر نہیں ہوتے باہر ہوتے ہیں کیونکہ اندر تو صرف عقائد ہوتے ہیں اور میں نے یہ مثال بیان کی کہ جیسے آئینہ پر مکھی بیٹھے تو بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اندر ہے مگر حقیقت میں وہ اندر نہیں ہوتی باہر ہوتی ہے مگر جو حقیقت سے بے خبر ہے وہ یہی سمجھے گا کہ اندر ہے باقی تکلیف میں خیال کو بہت بڑا دخل ہے مگر خیالی ایذاؤں کا علاج خیال ہی سے ہوتا ہے خیال کو بدل دینے سے بڑی تکلیف سے نجات مل جائیگی لیس یہ خیال کرو کہ وساوس قلب کے اندر نہیں باہر ہیں اور اگر اندر ہی فرض کر لیا جائے تو یہ مت سمجھو کر وساوس باہر سے اندر آ رہے ہیں۔ بلکہ یہ سمجھو کہ اندر سے باہر نکل رہے ہیں اسلئے کہ نکلنے کی وقت بھی تو گھر کے دروازہ پر ہجوم نظر آتا ہے اور اصل علاج تو یہ ہے کہ چاہے آرہے ہوں یا جارہے ہوں ان کی طرف التفات ہی نہ کرو نہ جلبائے سلبی۔ اکثر لوگ خطوط میں وساوس کی شکایت لکھتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اختیار سے آتے ہیں یا بدلوں اختیار اور ان کو برائی سمجھتے ہو یا اچھا وہ لکھتے ہیں بدلوں اختیار کے آتے ہیں اور ہم برائی سمجھتے ہیں۔ میں لکھ دیتا ہوں کہ لس بے فکر ہو۔

ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار وضو کے بعد یہ وسوسہ ہوا کہ تو موزوں کا مسح کرنا بھول گیا حضرت نے دوبارہ مسح کر لیا۔ اگلے وقت پھر وہی وسوسہ

اب ایک بلا بیچھے لگ گئی اس پر حضرت فرماتے تھے کہ ایک بار یعنی مصلی پڑھنے و سو سہ ہوا خیال ہوا کہ یقیناً یہ شیطانی و سو سہ ہے، آج اس پر عمل نہ کرنا چاہیے۔ شیطان سے مکالمہ شروع ہو گیا وہ کہتا ہے کہ مسح نہیں ہوا کرو۔ مولانا فرماتے ہیں نہیں ہوا نہ کہی کہتا ہے جب مسح نہیں ہوا تو وضو نہ ہوا مولانا کہتے ہیں وضو نہیں ہوا نہ کہتا ہے کہ جب وضو نہ ہوا تو نماز نہ ہو گی مولانا کہتے ہیں کہ نماز نہ ہو گی نہ کہتا ہے کہ گنہگار ہو گے۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں آپ کی خیرخواہی سے باز آیا جہاں اور بہت سے گناہ ہوتے ہیں ایک یہ بھی کہیں کہ بس تر کی ختم پھر کبھی وہ وسو سہ نہ آیا تو ایسی صورت میں یہی مناسب ہے بعض مرتبہ رکعت کی تعداد میں نماز پڑھتے ہوئے گزیر کر دیتا ہے اس کی طرف التفات نہ کرنا چاہیے ورنہ ہمیشہ کے لیے ایک مرض لگ جائیگا۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ ایسا کرنا حضرات فقہاء کی تفصیل کے خلاف ہو گا۔ فرمایا کہ فقہاء فرماتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو وساوس کے مرتضی نہیں اور صوفیان کے متعلق تجویز کرتے ہیں جو وساوس کے مرتضی ہیں اس میں کوئی تعارض نہیں اور نہ کوئی شبہ وارد ہوتا ہے۔ بلکہ خود روایات فہریہ حضرت مولانا کے عملدرآمد کے موافق پائی جاتی ہیں فی الدار المختار شک هل کسر للافتاج اولاً او احدث اولاً او مسح راسه اولاً استقبل ان کان اول مرة والا لا فی رد المختار عن الذخیرۃ فی آخر العبارة ان کان ذالک اول مرة استقبل الصلاۃ والا جازله المضی ولا یلزمہ الوضوء وهو اول شک غسل ما شک فیہ وان وقع له کثیر الہم یلتفت الیہ وہذا اذا شک فی خلل وضوئه فلو بعد الفراغ منه لم یلتفت الیہ ادا آخر باب ہجودا ہو۔

ایسی سلسلہ میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم کا قصہ بیان فرمایا کہ اس کو اس قدر وہم تھا کہ غسل خانہ میں پا جامد اتار کر استنبپاک کیا کرتا تھا حضرت اس سے مرا حاضر فرمایا کرتے تھے کہ

سگ بہ دریائے ہنگانہ بشوئے ☆ چوں کہ ترشد پلید تر باشد

دوسری یہ واقعہ بھی دیوبندی کا ہے۔ مدرسہ کے ایک فارغ التحصیل کو وہم ہو گیا تھا کہ میرے سر نبیس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنگر پہنچے اور دریافت فرمایا کہ تمہارے سر نبیس عرض کیا کہ حضرت نبیس حضرت نے جوتا نکال کر سر پر مارنا شروع کیا اس نے واڈیا مچایا کہ حضرت مر گیا چوت لگتی ہے فرمایا کہ کہاں چوت لگتی ہے عرض کیا کہ حضرت سر میں فرمایا کہ سرتو ہے ہی نبیس چوت کے کیا معنی عرض کیا کہ حضرت سر ہے فرمایا کہ اب تو بھی نہ کہو گے کہ سر نبیس عرض کیا کہ نبیس چھوڑ دیا وہ وہم جاتا رہا اور ساری عمر بھر بھی بھی یہ مرض وہم کا نہ ہوا یہ حضرت حکیم تھے حقیقت کو سمجھتے تھے حضرت مولانا غصیارے مشہور ہیں مگر نہایت بنس مکھ اور نہایت خوش اخلاق تھے۔

۲۳ رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم دو شنبہ

ملفوظ ۲۱۳: ایک صاحب کی حضرت سے کتابوں کی فرماش

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے اس میں میرے نام کتابوں کی فرماش لکھی ہے ایسے بیہودہ اوگ ہیں اور جواب کے لیے کارڈ بھی نہیں یہ سمجھے ہو گلے کہ جب کتابیں منگارہا ہوں تو جوابی کارڈ کی کیا ضرورت ہے بندہ خدا نے یہ خیال نہیں کیا کہ کیا انہوں نے میرے نام کا کوئی اشتہار دیکھا تھا کہ جو میرے نام کتابوں کی فرماش بھیجی کچھ نہیں تھا کوئی اصول ہے تھا کوئی قاعدہ جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں مجھ کو اس کا بھی فلک ہے کہ یہ تین پیسے ان کے فضول ہی خراب گئے۔

ملفوظ ۲۱۵: طلب صادق

فرمایا کہ ایک دیکھی صاحب ہیں ان کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میرا تنار و پیسے بیک میں ہے اب یہ تحقیق ہوا کہ ناجائز ہے وین کا خسارا ناقابل برداشت ہے دنیا کا خسارہ گوارا کرلوں گا فرمایا کہ جب دین کا خیال ہوتا ہے انسان سب کچھ کر لیتا ہے مگر لوگوں کی کچھ عادت ہو گئی ہے کہ بلا تحقیق کام کر دیشے ہیں پھر مشکل ہوتی ہے بعض طبیعتیں بکھیرا پسند ہوتی ہیں۔ صفائی طبیعتوں میں بہت کم

ارہ گئی ہے خواہ مخواہ لوگ جھگڑے مول لیتے ہیں اور بعض تو ایسی طبیعت کے لوگ ہیں کہ دوسروں کے کاموں میں گھستے پھرتے ہیں یہی صاحب جن کا خط آیا ہے ان کی بھی یہی حالت ہے ایسی باتوں سے بعض اوقات دین بر با وہ جاتا ہے ایسے شخص کو ضرورت ہے کہ تھوڑے دنوں کے لیے تو بالکل بیکار ہو کر کسی مصلح کے پاس رہ لے۔ لوگ دونوں کندھے ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں مگر کیسے ہو سکتا ہے مولا نا اسی کو فرماتے ہیں ۔

ہم خدا خواہی و ہم دنیاے دوں ☆ ایں خیال است و محال است و جنون

﴿تم حق تعالیٰ کا قرب (بدرجہ کمال جس قدر بندہ کی قدرت میں ہے) بھی چاہتے ہو۔ اور دنیا کو بھی (درجہ کمال) حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ شخص خیال اور جنون ہے ۱۲﴾

خوبجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مجھ کو اس تصور سے وحشت ہوتی ہے کہ پھر نوکری پر چلے جائیں گے وہاں جا کر پھر وہی بکھیرا سر پڑے گا فرمایا کہ جو چیز غیر اختیاری ہے یا ضرورت کی ہے وہاں تو بندہ مجبور ہے اور اس سے دین پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا اور جو اختیار میں ہے اور ضروری بھی نہیں اس سے تو بچنا چاہیے۔ کام کرنے والوں کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک وزیر تھا باادشاہ کا وہ کسی بزرگ کی زیارت کو حاضر ہوا۔ بزرگ نے وزیر سے باادشاہ کا مزاج دریافت کیا وزیر نے عرض کیا کہ حضرت باادشاہ کا مزاج معلوم کرتے کرتے تو عمر گذر گئی یہاں پر تو آیا تھا اپنا مزاج معلوم کرنے مگر یہاں پر بھی باادشاہ ہی کے مزاج کی پرستش ہوئی بزرگ صاحب نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دل جوئی کی غرض سے پوچھ لیا تھا پھر کبھی ایسا نہیں ہوا اور وزیر کی اصلاح و تربیت شروع فرمادی۔ دیکھنے وزیر کو طلب صادق تھی کیسی خوش نہیں کی بات کی۔

القصیر فی التفسیر کی تسهیل

ملفوظ ۳۱۶:

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت التفسیر فی التفسیر کی تسهیل اگر ہو جائے تو بہت نافع ہو فرمایا کہ نافع تو سب کچھ ہے مگر آجکل تو وہ گز بڑھی ہوئی ہے کہ کس کس چیز کی اکیلا انسان اصلاح کر لے بہت ہی مشکل ہے اس کے لیے تو ایک خاص اور مستقل مکمل کی ضرورت ہے۔

ملفوظ ۲۱۷: مسان کے تعویذ کیلئے عامل کا پتہ بتانا

ایک صاحب نے حضرت والا کی خدمت میں پرچہ پیش کیا حضرت والا نے ملاحظہ فرمائیا کہ مسان کا تعویذ مجھے نہیں آتا اگر کہ تو ایک اور مولوی صاحب ہیں جو مسان کا تعویذ جانتے ہیں ان کا پتہ لکھ دوں بذریعہ خط ان سے تعویذ منگالیتا۔ عرض کیا کہ حضرت پتہ لکھ دیں حضرت والا نے پتہ لکھ دیا۔

اسی سلسلہ میں فرمایا کہ یہ کام عاملوں کا ہے مجھے ان چیزوں سے مناسب نہیں اور تعویذ سے تو میں گھبراتا ہوں ویسے کوئی آجاتا ہے لکھ دیتا ہوں مگر اس باب میں عوام کو بڑا غلو ہو گیا ہے اور یہ عاملوں کی بدولت کہاں تک کسی کی اصلاح کی جائے اور کس کس چیز کی اصلاح کی جائے اونٹ رے اونٹ تیری کوئی کل سیدھی کروں سرے پیر تک ایک سے ہو گئے ونائف عملیات کی یہ ہی حالت ہے اس سے تو لوگوں کے عقائد تک خراب ہو گئے اثر نہ ہونے پر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں بھی اثر نہیں اور ان باتوں پر اگر روک ٹوک کی جائے تو بدنام کرتے ہیں مگر کریں بدنام حق کو کیے مخفی رکھا جا سکتا ہے۔

ملفوظ ۲۱۸: ہندوؤں کی خبائث اور مسلم لیڈروں کی حماقت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ کشمیر کے مسلمانوں کو تو خود ہندوؤں نے مشتعل کیا ہے وہ بیچارے تو امن و امان سے بیٹھے تھے اب انصاف ملاحظہ ہو کہ تمام ہندو اخبارات مسلمانوں ہی کے سر الزامات تھوپ رہے ہیں مسلمانوں کا سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی حامی اور مددگار نہیں اور ان کو اور کسی کی ضرورت بھی نہیں۔ میں چ عرض کرتا ہوں کہ اگر مسلمانوں میں لظم ہوا اور دین ہوتا تو تمام دنیا کی غیر مسلم اقوام اس ضعف کی حالت میں بھی انکا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتیں لیکن مسلمان ویسے تو بہت کچھ گزبر کرتے ہیں مگر جو اصل تدبیر ہے اور کام کی تدبیر ہے جس سے پہلوں کو کامیابی میسر ہو چکی ہے وہ نہیں کرتے وہ تدبیر یہ ہے کہ اپنے خدا کو راضی کرنے کی فکر کریں اب تو بڑی تدبیر ان کی مشرکوں کی تعلیم یہ عمل کرتا ہے ان کو لوگ عاقل سمجھتے ہیں بھلا ایسا شخص کیا عاقل ہو گا

جس کو انجام کی خبر نہیں اگر ایسے لوگ عاقل ہوتے تو آخرت کی فکر کرتے پہلے ایمان لاتے ہاں آکل ہیں روپیہ اور ملک کی فکر ہے۔ سو ایسے پہلے بھی بڑے بڑے گذر چکے جو خدا تعالیٰ تک کا دعوٰ ہے کر گئے شدزادہ فرعون قارون وہ کون چیز ہے جو نہ تھی جس کے نہ ہونے سے بد عقل اور بد فہم کہلانے بس یہی دین نہ تھا تو ان لوگوں کو تودنیا میں بھی اتنی شرودت اور جاہ نصیب نہیں جیسے پہلوں کو نصیب ہو چکی **كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ مَكَنُوهُمْ فِيمَا أَنْ مَكَنَّا لَهُمُ الْآيَةُ** اور ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں میں قدرت دی تھی کہ تم کو ان باتوں میں قدرت نہیں دی یہ مگر ان کا جو انجام ہوا **خَسِيرَ الدُّنْيَا وَالآخرَةِ وَهُوَ الظَّهِيرَةُ مِنَ الشَّمَسِ** ہے اور ایسے لوگوں کی طرف جو کچھ بھی مسلمانوں کو میلان ہوا ہے یہ سب بد دین لیدروں کی بدولت اور وہی اس کے ذمہ دار ہیں ہزار ہا مسلمانوں کے ایمان کو خراب اور بر باد کر دیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

ملفوظ ۳۱۹: کسب حلال کے سلسلہ میں فتوے اور تقویٰ

فرمایا فیروز پور چھاؤنی سے ایک وکیل صاحب کا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ وکالت جائز ہے یا نہیں میں نے جواب میں لکھا ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش ہے اب دیکھنے کیا جواب آتا ہے جیسا وہاں سے جواب آئے گا ویسا یہاں سے جواب جائیگا۔ کسب حلال کے سلسلہ میں فرمایا کہ حضرت احمد بن حنبل سے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت ایک روز گھر میں تسل نہ تھا ایک رئیس کی سواری شب کو مکان کے سامنے سے گذری سلسلہ دراز تھا میں نے اپنے دروازہ میں بیٹھ کر اسی روشنی میں چرخہ چلا یاد معلوم وہ تسل حلال تھا یا حرام اس سوت سے نفع حاصل کرتا جائز ہے یا نہیں۔ دریافت فرمایا کہ تم کون ہو عرض کیا کہ میں بشرخانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہوں فرمایا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو اجازت دیدیتا بشرخانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کو اجازت نہیں دے سکتا۔

ملفوظ ۳۲۰: واجد علی شاہ کی ظرافت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ واجد علی شاہ اور دھیش و نشاط میں پڑ کر واجد علی نہ رہا تھا فاقد علی ہو گیا تھا۔ مگر بعضے باتیں اس کی بڑی ظرافت میں ہوتی تھیں بعض انگریزوں نے اس سے

پوچھا کہ تم اپنی حیات تک وظیفہ چاہتے ہو یا بعد مرنے کے بھی پسمندوں کے لیے وظیفہ چاہتے ہو کہا کہ صرف اپنی حیات تک ورش نے کہایہ کیا کہا کہ سب میرا مرنا تکتے اب سب دعاہ کریں گے کہ یہ بیخوار ہے میں نے دعاً گومفت کے حاصل کر لیے عجیب ظرافت ہے اور انہیں کی حکایت ہے کہ کتب خانہ پر تو ایک کہار کو ملازم رکھا اور باور پی خانہ پر ایک مولوی صاحب کو۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کہ کہار کو علم سے کیا نسبت وہ جالی ہے کہ تابیں شرح آئے گا اور مولوی ایماندار ہیں اسلئے یا اور پی خانہ پر ان کی ضرورت ہے کہ کوئی زہر وغیرہ کھانے میں نہ دیدے وہاں ایماندار ہی کی ضرورت ہے۔

مَفْوَظٌ ۳۲۱: حضرت پرثاں مثال کا الزام

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں بہت دنوں سے حضرت والا سے بیعت کی درخواست کر رہا ہوں مگر حضور ہمیشہ حیله حوالہ کرتے رہے ہیں میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ ایسے مکار و بے رحم پیر سے تعلق رکھتا ہی بیکار ہے فرمایا ایسے لکھنے سے انگلی اصلاح مقصود ہے تاکہ آئندہ ایسے الفاظ لکھنے سے باز رہیں اگر تاویلات سے کام لوں تو اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ اگر طبیب بیننا ہوا مرضیوں کے امراض میں تاویلات کیا کرے تو لکھ چکا تھا! اور ہوا یہ علاج۔

مَفْوَظٌ ۳۲۲: فرضی صورتوں کے بارے میں تجویز کرنا

فرمایا کہ ایک خط آیا ہے لکھا ہے کہ چھپلے دنوں تخفیف کی خبر تھی آپ نے دعا فرمادی تھی رہ گیا تھا۔ اب پھر تخفیف کی خبر ہے پھر دعا کرو اور اگر میں تخفیف میں آگیا تو تھانہ بھون کی اجازت دو وہاں آ کر رہوں میں نے لکھ دیا کہ دعا تو کرتا ہوں باقی یہاں آنے کے متعلق جو لکھا ہے تو فرضیات پر تجویزیں کرنے کی ایسی مثال ہے کہ اگر لڑکا ہو گا اس کا کیا نام ہو گا اور کس حافظ کے پر دہو گا کہاں شادی ہو گی اور لڑکی کے متعلق بھی ایسی ہی شقیں نکلنے سکتی ہیں ابھی سے کس فکر میں پڑے میاں جو ہو گا ہو رہے گا خواہ تھواہ پہلے سے پہلے ہی خیالی پلاو پکانا اس کی ضرورت ہی کیا ہے نیز یہ فرض ایسا ہے جیسے ایک لڑکی کی شادی ہوئی ماں نے رخصت کے وقت وصیت کر دی کہ میں

سas کے گھر جا کر بولنا مت۔ اب بہو ہے کہ بولتی ہی نہیں ساس نے کہا کہ بہو بولتی کیوں نہیں کہا کہ میری ماں نے منع کر دیا تھا کہ ساس کے گھر بولنا مت۔ ساس نے کہا کہ ماں تیری بے وقوف ہے تو بول کہا کہ بولوں! ساس نے کہا کہ ضرور بول کہا کہ میں پوچھتی ہوں کہ اگر تمہارا بیٹا مر گیا اور میں بیوہ ہو گئی تو مجھ کو یونہی بھلا نے رکھو گی یا کہیں نکاح بھی کر دو گی۔ ساس نے کہا کہ تیری ماں نے سچ کہا تھا تو تو خاموش رہ۔ تو صورتیں فرض کر کے حساب کتاب لگانا محض ایک وہم پرستی ہے۔

حضرت حاجی صاحب کی مقبولیت ملفوظ ۲۲۳:

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب^{رحمۃ اللہ علیہ} کی مقبولیت اس قدر اظہر من الشتمس ہے کہ موافق اور مخالف سب ہی حضرت کے کمالات کے معترض ہیں اور حضرت کی مقبولیت کے ساتھ حضرت کی طرف نسبت رکھنے والی چیزوں کی بھی مقبولیت کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ بھائی اکبر علی مرحوم کے مکان کے اندر حضرت حاجی صاحب^{کے} مکان کا حصہ جزو ہو کر آگیا ہے مگر عجیب بات ہے کہ وہ جس بیت پر تھا جزو ہو کر بھی اسی پر رہا حالانکہ قبل سے اس کا نقشہ آزادی سے بنایا گیا تھا۔ بلکہ اس وقت اس کی خبر بھی نہ تھی کہ یہ قطعہ حضرت کا مسکن تھا یہ بعد میں معلوم ہوا۔ اسی طرح حضرت کی طرف اور بھی بعض عمارت منسوب ہیں وہ بھی اسی طرح اپنی بیت پر باتی ہیں۔ میں تو یہ شعر پڑھا کرتا ہوں۔

اگر گیق سراسر باد گیرو ☆ چراغِ مقبلان ہرگز نہ میرد

(اگر ساری زمین میں آندھیاں جیسیں مقبلان الہی کا چراغ ہرگز نہیں بجھ سکتا ۱۲)

ابلِ نجد میں وجد کی کمی اور شاہ سعود کا اعذر ملفوظ ۲۲۴:

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ ابلِ نجد کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے میں نے کہا کہ رائے یہ ہے کہ وہ نجدی ہیں وجدی نہیں صرف یہی ایک کسر ہے نجدی ہونے کے ساتھ اگر وجدی بھی ہوتے تو اچھا ہوتا اس وقت ان کے پاس سے آئیوالوں سے میں یوں کہا کرتا۔

بازگو از نجد و از یاران نجد ☆ تادر و دیوار را آری بوجد

﴿نجد اور یاران نجد کا قصہ بیان کرو۔ تاکہ درود دیوار کو وجود میں لے آؤ۔﴾

فرمایا کہ ابن سعید اپنی ذات سے بہت غنیمت ہیں اگر کوئی شکایت لوگوں کو ہے تو انکی قوم کی ہے مگر یہ شکایت کرنے والے ہی کون سے پاک صاف ہیں یہ بھی وہاں جا کر گڑبر کرتے ہیں وہ انکی حرکات کو تشدید سے روکتے ہیں یہی ناگواری کا سبب ہے۔

ملفوظ ۲۵: تبرکات میں عوام کا غلو

حضرت والا جلال آباد میں جو جپہ شریف مشہور ہے اس کے متعلق بیان فرمائے تھے کہ عوام کے غلو کا اندیشہ ہے اس لئے ضروت ہے کہ عوام کے دین کا تحفظ کیا جائے اس پر ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یعنی شریف کا نقشہ یا حلیہ ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ کیا آپ کو بولنا ہی زیادہ آتا ہے اس وقت یہ سوال ہی آپ کا ہے جوڑ ہے اب ہندی کی چندی کہاں تک کرو جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام بڑھنہ جائیں ان کے دین کی حفاظت کی ضرورت ہے اس میں سب کا جواب آگیا۔

خلاصہ میرے بیان کا یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور نے زیادہ کس چیز کا اہتمام کیا اسی کا ہم کو بھی اہتمام چاہیے۔ یہ سوال تو اس وقت کرنا چاہیے تھا کہ میں نبی میں غلو کی قید نہ لگاتا تو نبی کا مولو ہم ہو سکتا تھا باقی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضور کی ہر چیز ایسی ہے کہ اس پر جان قربان کر دی جائے مگر عوام کے دین کی حفاظت بھی تو فرض ہے کہ وہ حدود سے نہ نکل جائیں ایک طرف تو لوگوں کی نظر ہوتی ہے اور دوسری طرف کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔

ملفوظ ۲۶: تصوف کا ہر راز آشکارا کر دیا گیا

تصوف کے متعلق ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ابھی حضرت کس کا راز اور کس کا اختفاء۔ فن کو تو علی الاعلان پکار پکار کر بیانگ دہل ظاہر کرنا اور شائع کرنا چاہیے اس کی ہر بات صاف ہے میں تو فروع اور اصول سب کھلم کھلا ظاہر کر دیتا ہوں اس کی ضرورت ہے

اور سخت ضرورت ہے ہزاروں لاکھوں قسم کی گمراہیوں اور تلبیسوں میں لوگ بنتا ہو رہے ہیں اور لاکھوں راہ زن اس راہ پر لگئے ہوئے ہیں اسلئے اظہارِ حقیقت کر کے ان کے مصنوعی مسدودوں کو خاک میں ملا دینے کی ضرورت ہے انہوں نے گمراہ کیا ہے اللہ کی مخلوق کو۔

۲۲۳ صبح یوم سہ شنبہ ۱۳۵۰ھ مجلس خاص بوقت صبح ۱۳ مصان المبارک

ملفوظ ۲۲۷: دو رہاضر کے بڑے بڑے القاب و آداب

ایک سلسلہ گفتگو میں بعض مختصر القاب کے متعلق فرمایا خبیر نہیں لوگ کس عیش اور فضولیات میں بنتا ہیں اس سے ان لوگوں کے مذاق کا پتہ چلتا ہے کوئی شیخ الحدیث ہیں کوئی استاد الحدیث کوئی شیخ الفقیر کوئی شیخ الجامعہ۔ یہ اس قسم کے جھگڑے ابھی شروع ہوئے ہیں ہمارے بزرگوں میں تو ان چیزوں کا نام و نشان بھی نہ تھا یہ سب جاہلی ہے۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی شیخ الہند کہتا ہے تو میرے دل پر ایک تیر سالٹا ہے اسلئے کہ شیخ العالم کو اور شیخ الاسلام کو شیخ الہند کہتے ہیں بہت ہی بر امعلوم ہوتا ہے اس میں حضرت کی تنقیص معلوم ہوتی ہے ان بد عیان محبت نے حضرت کی شان ہی کوئی پہچانا ہند کوئی سلطنت اسلامیہ ہے کہ جس کی وجہ سے شیخ الہند کہنے پر فخر ہے اور سب سے زیادہ اچھی اور خوبی کی بات تو وہی ہے جو پہلے اپنے بزرگوں میں تھی سادگی اسی میں برکت ہے ان چیزوں میں برکت کہاں ہے سب نئی روشنی کا اثر ہے۔

ملفوظ ۲۲۸: شیخ الاسلام کا لقب معروف ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جو کتبہ ہے اس پر شیخ الاسلام لکھا ہے فرمایا کہ ہاں یہ لقب ایسا ہے کہ پہلے سے اہل اسلام میں چلا آ رہا ہے مضافاً نہیں مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ حضرت کے مزار پر ایسا کتبہ ہے میں نے آج ہی سنائے۔

ملفوظ ۳۲۹: معتقدین کی افسانہ طرازیاں

فرمایا کہ آج کل تواہ زمانہ ہے کہ مردہ بزرگوں کو بھی اپنی بیہودگی سے بدنام کرتے ہیں اور یہ ساری بدنامی معتقدین کی بدولت ہوتی ہے مولانا محمد نعیم صاحب لکھنؤی نہایت مفعع سنت سادہ صاحب نسبت صاحب برکت تھے خود غرض لوگوں نے ان کی قبر کے متعلق مشہور کر دیا کہ یہاں پر بچھوت پریت جن اترتے ہیں اب ان کی قبر پر خوب مٹھائی پھول پتاشے چڑھتے ہیں۔ جیسے کچھوچھد میں یہ ڈھنگ اچھا نہیں معلوم ہوتا سید حاسادھار ہتنا چاہئے اسی باتوں میں پڑ کر آدمی مقصود سے رہ جاتا ہے اور وہ مقصود ہے تعلق مع اللہ!

ملفوظ ۳۳۰: حضرت شیخ الہندگی تو واضح اور حضرتؒ کی فناست

فرمایا کہ تضع تو بڑی چیز ہے اس کو تو کیا اختیار کرتے ہمارے حضرات تو تو واضح کا بھی پتہ نہ چلنے دیتے تھے ہنس کر ٹال دیا کرتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں مراد آباد کے جلسہ میں گیا تھا۔ حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے تھے واپسی میں اشیش پر سیوہارہ والوں نے حضرت سے درخواست کی کہ ایک وقت کی دعوت حضرت قبول فرمائیں حضرت نے قبول فرمائی پھر سیوہارہ والوں نے مجھ سے بھی درخواست کی میں نے عذر کر دیا کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے اسلئے میں معدور ہوں لوگ یہ سمجھے کہ وعظ کی وجہ سے کہہ رہا ہے طبیعت جو اچھی نہیں وعظ نہیں کہہ سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم وعظ نہ کھلا میں گے۔ میں نے کہا کہ جہاں وعظ نہ ہو وہاں کی تور وثیاں کھاتے ہوئے بھی شرم معلوم ہوتی ہے تو حضرت مولانا کیا فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی ایسے بے شرم تو ہم ہی ہیں مفت کی روٹیاں کھاتے ہیں۔ بس حضرت میں تو پانی پانی ہو گیا اور اس قدر شرم دامن گیر ہوئی کہ معافی کی بھی درخواست نہ کر سکا اور یہی خیال کیا کہ خاموشی ہی بہتر ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت تو جواب دے سکتے تھے فرمایا کہ بقاء کا ظہور تو برا بر والوں کے ساتھ ہوتا ہے بڑوں کے ساتھ تو فنا ہی میں خیر ہے اور یہی ادب ہے۔

ملفوظ ۳۳۱: اپنے بارے میں کسی خاص معمول کا پابند نہ ہونا

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میرے یہ معمولات جو اپنے

متعلق ہیں ان میں تو میں بہت ڈھیلا ہوں کوئی پابندی نہیں اور یہ جوانظام کی صورت نظر آتی ہے۔ یہ ان امور میں ہے کہ جن کا تعلق دوسروں سے ہے باقی اپنے متعلق تو یہ ہے کہ جہاں دونوں شفیعیں مباحث ہوں کبھی اس پر عمل کر لیا کبھی اس پر عمل کر لیا۔ حاصل یہ ہے کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں۔ ہاں اس کی ضرور کوشش کرتا ہوں کہ مباحث کی حد تک عمل رہے شریعت کے خلاف نہ ہو اور میں اپنی حالت صاف صاف اسلئے بتلادیتا ہوں کہ کسی کو دھوکہ نہ ہو۔

عمل میں سہولت پسندی اور فضول مدقائقات سے تفریق: ۲۳۲ ملفوظ

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت استغفار میں جو سب سے بہل صیغہ ہے وہ کون ہے فرمایا کہ میرا تو یہ مسموں ہے اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي پڑھ لیتا ہوں اور کبھی اللَّهُمَّ ارْحَمْنِی ملا لیتا ہوں اور اس میں اپنی کھانسی اور ضعف سب کی نیت کر لیتا ہوں۔ عرض کیا کہ یہاں توبہ ہی رحمت ہے بڑی سہولت ہے فرمایا جی ہاں! طبیعت سہولت کو پسند کرتی ہے کہ کام کم اور مقصود سب حاصل! عرض کیا کہ اگر یہ پڑھ لیا جایا کرے رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ فرمایا بالکل مناسب ہے ہمارے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس عرضی کا مضمون حاکم خود بتائے اس کی منظوری میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو صینے منصوص ہیں ان پر عمل کرنے میں عدم قبول کا اختال ہی نہیں وہ بتائے ہی گئے ہیں قبول کے لئے! ایک مولوی صاحب نے اس پر کوئی اشکال پیش کیا اس پر فرمایا کہ ابھی کام کرنا چاہئے ان مدقائقات میں کیا رکھا ہے کیوں وقت ضائع کیا جائے۔ بعضی علماء ان تحقیقات اور مدقائقات ہی میں اپنی ساری عمر دے بیٹھتے ہیں اور جب نتیجہ کا وقت آتا ہے اس وقت خالی رہ جاتے ہیں اس وقت ان سے وہ عامل اچھا نظر آتا ہے جو عالم نہیں مگر اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس کے علم نے کیا نقش پہنچایا جب عمل ہی نہیں کیا اور ان تحقیقات ہی میں عمر گزار دی اگر محض تحقیقات ہی مقصود ہوتیں تو حضور ﷺ مسئلہ قدر میں گفتگو کرنے کو کیوں صحابہ کو منع فرمادیتے حضور ﷺ جیسے سمجھانے والے اور صحابہ جیسے سمجھنے والے وہ سمجھا سکتے تھے وہ

سمجھ سکتے تھے مقصود اس سے تعلیم تھی صحابہ کو۔ کہ غیر ضروری چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہونا چاہئے کام میں لگنا چاہئے۔

آن کل کی تحقیقات کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے میں نے سن ہے کہ دہلی کی جامع مسجد میں جو حوض ہے یہ ایک ہی پتھر کا ہے اس میں دوسرے پتھروں کو جھوڑ کر نہیں بنایا گیا۔ بلکہ ایک ہی پتھر کو کھو دا گیا ہے تو اب ایک شخص اس کی تحقیقات شروع کرے کہ اس وقت ریل نہ تھی تو اتنا بھاری پتھر جو پورا اور بیکار نیز سے کس طرح آیا ہوگا۔ یہ تحقیقات تینیں رہ جائیں گی اور یہ حضرت ختم ہو جائیں گے کام میں لگنا چاہئے فضولیات کو جھوڑ دینا چاہئے۔ ہاں کام میں لگ جانے کے بعد یہ سب چیزیں بھی انشا اللہ تعالیٰ بقدر کافی مکشف ہو جائیں گی۔ گو مقصود اس وقت بھی نہ ہوں گی۔ کہاں کی تحقیقات اور تدقیقات یہ کوئی چیز نہیں کام کرنا چاہئے بڑی چیز کام ہے فرماتے ہیں۔

کارکن کار گذار از گفتار ☆ اندریں راہ کار باید کار

﴿بَاتِمَسْجِدُكَرَكَامَمِنْلَوْكَرَرَاهَقَمِمِنْعَلَهِبَهِيَكَامَآتَاهِ-۱۲﴾

شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

قدم باید اندر طریقت نہ قدم ☆ کہ اصلے ندارد دم بے قدم

﴿طریقت میں عمل کی ضرورت ہے باتوں کی ضرورت نہیں کہ بے عمل کے باتوں کی۔

کوئی وقعت نہیں ۱۲﴾

ملفوظات: ۳۳۳ مہوکات کو مسخر کرنے کی خواہش اور

حضرت مولانا یعقوب صاحبؒ کا جواب

فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی دل میں گزر گئی از دل خیز دبر دل ریز د کا مصدقہ ہے۔ حالانکہ وہ زمانہ بچپن کا تھا کچھ زیادہ ایسی باتوں کا ہوش نہ تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت کوئی ایسا بھی عمل ہے کہ جس سے مہوکات مسخر ہو جائیں فرمایا ہاں ہے اور آسان بھی ہے کہ بھی سکتے ہو۔ میں بتلا بھی سکتا ہوں مگر تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم

خدا بننے کو پیدا ہوئے یا بندہ بننے کو۔ مجھ کو اسی وقت سے ان باتوں سے نفرت ہو گئی اب جو کوئی تعویذ وغیرہ کو آتا ہے لکھ تو دیتا ہوں اور وہ بھی اسلئے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی تعویذ وغیرہ کو آیا کرے لکھ دیا کرنا۔ لیکن ان چیزوں سے مجھ کو منابعہ قطعاً نہیں مسئلأ کسی کو سخر کرنا کسی کو تابع بنانا کسی پر زور چلانا حکومت کرنا کیا یہ عبدیت ہے عبدیت تو اسی میں ہے کہ نہ کرو۔ عاجزی اکساری اختیار کرے حق تعالیٰ کے یہاں اسی کی قدر ہے حق تعالیٰ کی ذات تو ہی رحیم اور کریم ہے مخلوق بھی عاجزی ہی کو پسند کرتی ہے۔ اس پر ایک حکایت یاد آئی۔ ایک بہا جن کی لڑکی پر ایک جن عاشق تھا بڑے بڑے عامل آئے مگر ناکامیاب رہے بعض جن بڑا ہی سرکش اور قوی ہوتا ہے جو عامل جاتا صحیح سلامت واپس نہ ہوتا اکثر یہ حرکت کرتا کہ ہاتھ پکڑ کر چھٹت ابھار کر اس میں دبادتا۔ اب یہ چارہ عامل ہے کہ لڑکا ہوا ہے ایسا خالم تھا کسی نے اس مہا جن سے ویسے ہی بطور سخر کے کہدیا کہ فلاں مسجد میں جو موذن ہیں بہت بڑے ہی عامل ہیں وہ مہا جن ان بے چاروں کو جا پڑایا ہر چند قسم کھاتا ہے مگر مہا جن ہے کہ پیروں پر گرا پڑتا ہے خوشامد کر رہا ہے جب یہ عاجز ہو گیا اس نے کہا کہ منظور! یہ سمجھا کہ دو ہی باتیں ہیں یا تو کام بن گیا نے کہا کہ جو کہو کہا کہ پانچ سور و پیلی راحت اور عیش سے گذریگی اور اگر مار دیگا تو اس مصیبت سے اور پریشانی و ناداری کی زندگی سے مر جانا ہی بہتر ہے بے چارہ غریب تھا۔ اسم اللہ پڑھ کر مہا جن کے ساتھ ہو لیا اس کے مکان پر پہنچا اس جن نے نہایت زور سے ڈائٹا کہ کیسے آیا ہے ہاتھ جوڑ کر قدموں میں گر گیا کہ حضور کی رعیت کا جولا ہا ہوں حضور نہ میں عامل ہوں نہ گل چلانے آیا ہوں ایک جاہل اور غریب آدمی ہوں یہ مہا جن جا کر سر ہو گیا ہر چند عذر کیا نہ مانا اس لئے مجبوری کو چلا آیا حضور کی پڑی پرورش ہو گی اگر حضور پانچ منت کے لیے اس لڑکی سے جدا ہو جائیں مجھ کو پانچ سور و پیلی جائے گا میں غریب آدمی ہوں میرا بچلا ہو جائیگا اور حضور کا کوئی نقسان نہ ہو گا۔

پھر اگر دل چاہے آجائے۔

یہ سن کر جن بڑے زور سے قہقہہ مار کر ہنسا اور یہ کہا کہ ہم تیری خاطر سے ہمیشہ کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت اس موذن کی شہرت ہو گئی کہ بہت بڑا اعمال ہے عمر بھر کی روشنیاں سیدھی ہو گئیں۔ اور عوام کے اعتقاد کا۔ یہی قاعدہ ہے کہ ایک مرتبہ رجسٹری ہو جائے کسی کے کمال کی پھر تو عقد فتح ہوتا ہی نہیں یہ بات کا ہے کہ بدولت نصیب ہوئی صرف عاجزی کی بدولت! عاجزی بہت ہی عجیب چیز ہے۔

ملفوظ ۲۳۳: حضرت کے ماہ رمضان کے معمولات معلوم کرنے کی خواہش
 کسی نے یہاں کے ایک مقیم بزرگ کو خط بھیجا تھا کہ مولانا کے معمولات مجھ کو لکھ بھیجو اس اطلاع پر یہ فرمایا کہ معمولات بزرگوں کے ہوتے ہیں میرے کیا معمولات ہوتے نہ میرا کوئی معمول نہ مجھ میں کوئی کمال۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس کو خواہ کمال کہیے فضیلت کہیے گرائے کہیے وہ یہ کہ اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ معلوم ہے اور بتلا بھی سکتا ہوں۔ لب اور مجھے کچھ نہیں آتا نہ کچھ کرتا ہوں رہے معمولات۔ سو معمولات یہ ہیں کہ کچھ معمولات نہیں البتہ ایک معمول زائد ہے وہ یہ کہ آجکل کھانی کی تکلیف ہے ساری رات اسی خیال میں گذر جاتی ہے کہ اب نیند آجائے رات ختم ہو جاتی ہے باقی میرے رمضان المبارک کے معمولات سو وہی معمولات ہیں جو غیر رمضان میں تھے۔

بعض حضرات کے یہاں روزہ کی افطاری میں خاص معمولات ہیں کہ بھجور سے یا زمزہ سے روزہ افطار کرنے کا اہتمام ہے میرا اس کے متعلق یہ معمول ہے کہ جو چیز روزی افطاری کے وقت قریب ہو چاہے وہ بھجور ہو زمزہ ہو گرم پانی ہو امر وہ وہ اس سے روزہ افطار کر لیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر میں جھوٹ کہدوں کہ میں تمام شب جا گتا ہوں اور تہجد میں پانچ پارہ پڑھتا ہوں اس میرے کہنے کا کوئی ملذب بھی نہ ہو گا۔ مگر اس سے کیا وہ معمولات ہو جائیں گے۔ سو ایسی حالت میں خود صاحب معمولات پوچھنا مخفی بے معنی ہے اور اصل یہ ہے کہ کسی کے معمولات پوچھنا ہی غیر مفید ہے اس کی ایک مثال ہے کہ ایک آم کا درخت ہے اس پر نہایت

خوشما اور خوشنود اذالۃ آم آر ہے لوگ کھار ہے ہیں اور ایک شخص ہے وہ یہ تحقیق کرتا ہے کہ وہ درخت کس قدر اونچا ہے گے فٹ لمبا ہے۔ شانصیں اس میں کس قدر ہیں رنگ اس آم کا کیسا ہے موٹائی کتنی ہے کس تاریخ اور ماہ و سال میں لگایا گیا۔ آپ ہی بتائیں ان میں عاقل کون ہے جو تحقیقات میں مصروف یا جو کھار ہا ہے۔ ظاہر ہے تو کام لگنا چاہیے ان فضولیات میں کیا رکھا ہے۔

ملفوظ ۳۲۵: حضرت کا اپنے معمولات کے بارے میں خیال

فرمایا کہ ایک شخص نے ایک جانماز میرے پاس بھیجی کہ اس پر چالیس روز تجد پڑھ کر واپس فرمادیں۔ میں نے جواب بھیجا کہ اول تو یہ معلوم کر لیتے کہ مجھ کو دوام و استمرار کی بھی توفیق ہوتی ہے اور معلوم کرنے کا اچھا ذریعہ یہ ہے کہ میرے معمولات فلاں شخص سے (ایک شخص کا نام جو خوش اعتقادی کے بعد بد اعتقاد ہو گیا تھا) پوچھ لیے جائیں وہ صحیح بتلادیگا وہ بتلوے گا کہ میرا عمل عزادم پر نہیں رخص پر ہے۔ نقلیں کم پڑھتا ہوں کبھی نوافل بینٹھ کر پڑھ لیتا ہوں۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جیسے معمولات تو دوسروں کو نصیب بھی نہیں فرمایا ابھی حضرت یہ توجیہات ہیں مجھ کو ہی اپنی حالت خوب معلوم ہے۔

ملفوظ ۳۲۶: حضرت کی اپنے بارے میں توضیح

خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت تراویح کے وقت جو مصلی بچھاتے ہیں اس میں سجدہ کی جگہ مصلی سے خالی رہتی ہے پیچھے کو نکلا ہوا رہتا ہے فرمایا کہ نہ معلوم آپ اس پر کیا کیا حاشیہ چڑھائیں گے۔ میں اس کی حقیقت بیان کئے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیچھے کی جانب چٹائیوں کے درمیان جگہ کھلی ہوتی ہے میں رضائی اوڑھ کر کھڑا ہوتا ہوں اس خیال سے مصلی پیچھے ہٹا کر بچھاتا ہوں کہ پیچھے جو حصہ رضائی کا گرے اس پر مٹی نہ لگے یہ حکمت تھی اس میں آپ نہ معلوم کیا خیال کر رہے ہوں گے عرض کیا کہ واقعی میں تو قسم قسم کے خیال کر رہا تھا (مثلاً یہ نکتہ گڑھا ہو گا کہ سجدہ زمین پر ہو فرش پر نہ ہو) فرمایا کہ حقیقت کے بے خبر ہونے سے ایسا ہی ہوتا ہے پھر امتحان و تحقیق کے بعد قلعی کھل جاتی ہے اس پر حضرت والا نے ایک حکایت فرمائی کہ ایک بادشاہ نے چارست کی

عورتوں کے جمع کرنے کا اہتمام کیا تھا تو اک انکے سلیقہ کا امتحان کرے۔ شب بھر ان کے پاس بسر کی صبح کو سب سے دریافت کیا کہ یہ بتاؤ اب شب کتنی باقی ہے اس پر تو سب کا اتفاق ہوا کہ صبح ہو گئی مگر وجہ مختلف بیان کی چنانچہ ایک بولی نتھے کے موڑی ٹھنڈے معلوم ہوتے ہیں یہ اس نے اسلئے کہا کہ صبح صادق کے ساتھ ایک ہوا چلتی ہے اس کی خاصیت ہے کہ ہر چیز میں ٹھنڈ پیدا کر دیتی ہے وہ عجیب و غریب ہوا ہوتی ہے اس سے بڑی فرحت ہوتی ہے۔ دوسری نے کہا کہ پان کا مزابدл گیا۔ تیسری نے کہا کہ شمع پھیلی پڑ گئی چوتھی نے کہا کہ گود آ رہا ہے تو ہم تو اس میں سے ہیں کہ گود آ رہا ہے تو حضرت پیرے کی حفاظت مقصود چھی ن کوئی راز تھا نہ حکمت۔

ملفوظ ۲۳۳: اپنے پیر سے مناسبت اور اس پر اعتقاد

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس سے کچھ حاصل کرنا ہو یہ دیکھ لے کہ میرے کام کا بھی ہے یا نہیں وہ چاہے کامل نہ ہو میرے ایک ماموں صاحب نے اپنے ایک شیخ کی حکایت بیان کی جو کامل تون تھے مگر صادق تھے یعنی دکاندار نہ تھے اور لوگوں میں ان کے متعلق طرح کی بدگمانیاں تھیں بعض کا خیال ان بزرگ کے متعلق یہ تھا کہ ان کے پاس روپیہ بہت آتا ہے جو ہون میں محفوظ ہو گا اسی بنا پر ان کے انتقال کے بعد ان کا جمرہ کھو دا گیا کہ شاید روپیہ جمع ہو۔ بعض کا خیال تھا کہ ان کے پاس رات کو رندیاں آتی ہیں غرض کہ اس قسم کے خیالات ان کے متعلق لوگوں کو تھے۔

ایک شخص نے ماموں صاحب سے جو کہ ان کے مرید تھے کہا کہ پیر کے متعلق کچھ خبر بھی ہے پوچھا کیا کہا کہ شب کو ان کے پاس رندیاں آتی ہیں انہوں نے کہا کہ خدام تم کو جزاۓ خیر دے بڑی عجیب بات سنائی مجھ کو پیر صاحب کے متعلق بہت عرصہ سے ایک شب تھا وہ آج آپ کی وجہ سے جاتا رہا وہ شب یہ تھا کہ پیر صاحب نے کسی وجہ سے نکاح نہ کیا تھا اس سے میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ بزرگ عنین ہوں اور حالت یہ ہے کہ یہ حضرات وارث ہوتے ہیں ان بیانات کے اور ان بیانات ہر پہلو سے کامل ہوتے ہیں ان کمالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرد ہو۔ سو نکاح نہ ہونے سے جو شب تھا

عنین ہونے کا جو کہ نفس ہے آج آپ نے اس شبہ کو رفع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ پیر کامل ہیں۔ اب رہا یہ کہ رثیاں آتی ہیں یہ ایک گناہ ہے تو اس گناہ سے توبہ کر کے پاک صاف ہو جائیں گے۔ جہاں اس طرف اللہُمَّ اغْفِلْنِی کہا اس طرف صاف ہوئے وہ مفترض ہے چارہ تو اپنا سامنہ لے کر رہ گیا۔ وہ تو یہ سمجھے ہوئے تھا کہ پیر کی ایسی بات سن کو پیر سے الگ ہو جائیں گے۔

اس حکایت سے میرا یہ مقصود نہیں کہ جو پیر افعال شنیدہ کا مرتكب ہوتے ہوں ان سے دین کا تعلق رکھوں اس کا لحاظ تو شرط اعظم ہے طریق کی اور اس حکایت میں جو جواب منقول ہے وہ محض تبکیت (خاموش کرنا) ہے مفترض کے۔ ورنہ سید حا جواب تو یہ تھا کہ اس تہمت کا کیا ثبوت پھر اصل مقصود یہ ہے کہ مصلح کے خفیف افعال پر بشرطیکہ وہ مباح کے درجہ تک ہوں یا احیاناً کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے اس سے بد اعتقاد نہ ہو جائے بلکہ اپنے فہم اور عقل کا قصور سمجھ کر خاموش ہو جائے خصوص جس شخص کی نظر چہار طرف ہو اور مفترض کی نظر ایک ہی چیز پر ہے اسلئے اس کے اقوال و افعال کو سمجھنا بڑے تی داش مند کا کام ہے۔

ملفوظ ۳۲۸: معمولات برآہ راست مجھ سے پوچھیں

معمولات پوچھنے والے کے متعلق سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ان پوچھنے والے کو لکھ دیجئے کہ اس سے معمولات کے سوالات کا ذکر کیا تھا اس نے کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے بلا واسطہ پوچھو اور خود ذکر کرنسکی وجہ وہی لکھ دیجئے گا جو واقعی ہے یعنی ذکر کرنسکی وجہ یہ ہوئی کہ بعض معمولات تو مجھ کو معلوم تھے اور بعض کی مجھ کو خبر نہ تھی خود اسی سے پوچھنے سے معلوم ہو سکتے تھے اسلئے ذکر کیا گیا۔ اس سے انکو یہ بھی معلوم ہو جائیگا کہ اس کو علم ہو گیا اور ناؤں گوار ہوا اور اب وہ ناؤں گوار ہو گیا (مراد سائبن ہے) میرے معاملہ کو مجھ ہی سے معلوم کرنا چاہئے دوسروں کو کیا خبر؟ میں اپنی حالت کو خود جس طرح بتلا سکتا ہوں یا ادا کر سکتا ہوں دوسرا بے چارہ کیا بتا سکتا ہے اور کیا ادا کر سکتا ہے اس کو معلوم کب ہے۔ پھر فرمایا میرے معمولات ہی کیا جلوٹ کا حال تو سب کو معلوم ہے کہ لوگوں سے لڑتا بھڑتا رہتا ہوں اور خلوٹ میں میں رہتا ہی نہیں بس یہ معمولات ہیں۔

۲۲ رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم سہ شنبہ

ملفوظ ۳۳۹: ماہوار رسالہ کے نام رکھنے کا مشورہ

ایک مولوی صاحب نے (جن کا خیال غالباً کوئی ماہواری رسالہ جاری کرنیکا تھا) عرض کیا کہ حضرت رسالہ ماہواری کا نام تجویز فرمائیں جس میں حضرت کے ملفوظات اور وہ تصنیفات شائع ہوا کریں جو کم یاب ہو گئیں ہیں۔ فرمایا کہ اکثر پہلے سے آج تک یہ معمول رہا ہے کہ رسالوں کے نام اپنے بزرگوں کے نام پر رکھے گئے ہیں مثلاً القاسم، النور، الامداد، الرشید، الہادی، سواس کا نام المعین مناسب معلوم ہوتا ہے یا معین الدین اس میں حضرت خوجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی بھی رعایت ہے اور ہے بھی با معنی۔ دین کا معین۔ عرض کیا کہ حضرت کے نام سے اگر جاری کیا جائے فرمایا کہ میرا نام رسالہ کے اعتبار سے با معنی نہیں۔ اگر با معنی کہا جائے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ سب سے افضل و اشرف رسالہ اور یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے مفہامیں کو سب مولفات پر ترجیح دی جائے اور پھر میں ہی خود تجویز بھی کروں اس سے تو زبان میں گدگدی سی اٹھے گی یہ ہی المعین یا معین الدین نام مناسب ہے، بہت پاکیزہ نام ہے اور با معنی ہے عرض کیا کہ المعین اور معین الدین ان دونوں میں سے کون سا بہتر ہے فرمایا کہ جو مناسب خیال فرمایا جائے اچھا تو مفرد ہی معلوم ہوتا ہے جیسے "النور" "الامداد" ایسے ہی المعین اور اس نام میں ایک قسم کی تواضع بھی معلوم ہوتی ہے کوئی دعا نہیں معلوم ہوتا۔ کیونکہ اعانت تو ایک خدمت ہے کوئی کمال نہیں۔

دوسرائنتہ اسکیں یہ ہے کہ اوپر کی طرف بڑھتا چاہئے الامداد، النور، الہادی، المعین، یہ سب اوپر ہی کی طرف کو سلسلہ ہے عروج ہی مناسب ہے۔ غرض یہ نام جامع اور با معنی ہے اور اس کو ظاہر بھی کر دیا جائے کہ اس نام سے حضرت کے نام کی برکت لینا بھی مقصود ہے تاکہ لوگوں کو اس نام کی وجہ بھی معلوم ہو جائے۔ عرض کیا گیا کہ اپنے نام پر حضرت تجویز نہ فرمائیں خود ہی حضرت

کا نام تجویر کر لیا جائے گا فرمایا کہ میں تو الحمین ہی کے نام سے ذکر کیا کروں گا یا میرے لیے کچھ اور تجویر کرو یا جائے کہ وہ نام لیا کروں۔

ملفوظ ۲۲۰: حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی عظمت

خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ چشتیوں کے بادشاہ ہیں چشتیت تو ہند میں وہیں سے جاری ہوئی فرمایا کہ ہندوستان میں تو سلطنت ہی چشتیوں کی حضرت کی وجہ سے ہے ایک انگریز نے ہندوستان سے انگستان میں جا کر کہا تھا کہ ہندوستان کے تمام سفر میں ایک بات عجائبات میں سے دیکھی کہ ایک مردہ اجمیر کی سرز میں میں پڑا ہوا تمام ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے فرمایا کہ لوگوں کے قلوب میں حضرت خواجہ صاحب کی بڑی عظمت ہے حتیٰ کہ ہندوؤں تک کے قلوب میں عظمت ہے اجمیر میں تو اکثر ہندو حضرت کے نام کی قسم کھاتے ہیں۔ سلاطینِ اسلام کے قلوب میں عظمت کا یہی حال تھا اکبر بادشاہ نے کئی بار دارالخلافہ سے اجمیر تک پیدل سفر کیا ہے۔ یہ عظمت نہ تھی تو اور کیا تھی اور یہ جو اکبر بادشاہ کے بد دینی کی باتیں مشہور ہیں یہ سب اس کی پالیسی کی باتیں تھیں ورنہ اس کے قلب میں اہل علم اور اہل دین کی عظمت اور محبت ضرور تھی اور مرنے کے وقت تو اہل علم کو بلا کرتوبہ کی ہے اگر توبہ کے بعد بضرورت پھر کوئی دنیا کے متعلق بات کی تو دوبارہ علماء کو بلا کرتوبہ کی اس کو بھی پسند نہ کیا کہ دنیا کی بات پر جان دوں۔ ذکر اللہ میں مشغول ہو کر جان دی ہے کیا خبر ہے، کسی کو کوئی کیسا ہے اسلئے میری ہمیشہ سے رائے ہے کہ سلاطینِ اسلام کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔

ملفوظ ۲۲۱: شاہانِ اسلام کو موئر خین نے بدنام کیا ہے

فرمایا کہ بعض موئر خین نے جھوٹی جھوٹی تواریخ لکھ کر شاہانِ اسلام کو بدنام کیا ہے۔ محض اپنے مصالح کی غرض سے ورنہ شاہانِ اسلام کی مراءاتِ عدل آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت عالمگیر کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے بہت بھی بڑے بزرگ کا نام لیا کرتے ہیں۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت شاہ جہان کے زیادہ معتقد تھے فرمایا کرتے تھے شاہ جہاں سلطنت کے زیادہ مناسب تھے۔ ایک صاحب کو حضرت عالمگیر پر کچھ تاریخی شبہات تھے وہ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کئے مولانا نے سب شبہات کا جواب دیا اور فرمایا کہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بارہ ہزار احادیث کے متن یاد تھے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کی نسبت فرمایا کہ انکو چھ ہزار متن یاد تھے۔ ایک صاحب تھے متولی عبد الرحمن صاحب انہوں نے مولانا سے عرض کیا کہ حضرت کو کس قدر یاد ہیں فرمایا پھر جواب دونگا یہ مزید احتیاط کی بناء پر فرمایا ایک ماہ کے بعد فرمایا کہ مجھ کو تین ہزار حدیث کے متن یاد ہیں اس سے عالمگیر کے کمال کا اندازہ کر لیجئے۔

ملفوظ ۳۲۲: کتابوں کا زبانی یاد کر لینا

ایک صاحب نے اس گذشتہ ملفوظ پر عرض کیا کہ اتنی حدیثیں زبانی یاد کیں فرمایا اور کیا کتاب میں دیکھ کر آپ بھی عجیب ہیں۔ عرض کیا کہ قرآن شریف کے متعلق تو یہ خیال تھا کہ زبانی یاد ہو جاتا ہے مگر حدیث شریف کے متعلق یہ خیال نہ تھا فرمایا کیوں؟ عرض کیا کہ پھر قرآن شریف کی یاد میں کیا امتیاز رہا فرمایا یہی امتیاز ہے کہ پہلوں تک کو یاد ہو جاتا ہے اس میں زیادہ فہم اور حافظہ کی ضرورت نہیں یہ اس کی ممتاز برکت ہے اور یہ کہاں لکھا ہے کہ علاوہ قرآن شریف کے اور کوئی چیز یاد نہیں ہو سکتی یہ تو محض آپ اپنا خیال ظاہر فرمائے ہیں یہ کوئی بات نہیں۔ حضرت سلطان جی نے مقامات حریری حفظ یاد کر لی تھی یہ عالم بھی تھے مقامات حفظ کرنے کے بعد فرمایا کہ یوں ہی عمر برپا کی پھر اس کے کفارہ میں مشارق الانوار حفظ یاد فرمائی اس پر حضرت والا نے ظراحت سے فرمایا کہ دونوں طرح صاحب مقامات تھے۔ پھر اپنی نسبت فرمایا میں نے بھی سراجی یاد کی تھی اس خیال سے کہ سخت ضرورت کی چیز ہے اور درس میں ایک ہی کتاب ہے مگر اسی یاد ہوئی تھی کہ مدرسے پر چھٹے والی مسجد تک پہنچنے میں تو سبق حفظ پڑھ لیتا تھا مگر جہاں فجر کی نماز پڑھی سب غائب۔

ملفوظ ۳۲۳: بزرگ شاعر بھی ہو سکتے ہیں

خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کیا شاعر بھی بزرگ ہو سکتے ہیں فرمایا کہ عنوان کو

بد لیئے یوں کہیئے کہ کیا بزرگ بھی شاعر ہو سکتے ہیں فرق یہ ہے کہ پہلے جملہ کے معنی یہ ہیں کہ جس پر شاعری کا غلبہ ہو گیا وہ بزرگ ہو سکتا ہے سو اس کا جواب خود سوال سے ظاہر ہے کہ نقی میں ہے دوسرے جملہ کے معنی یہ ہیں کہ جس کی اصلی صفت بزرگی ہو کیا اس سے شاعری کا صدور ہو سکتا ہے سو ظاہر ہے کہ یہاں کوئی امر مانع نہیں یہ تفاوت ایسا ہے کہ جیسے ایک طالب علم نے مدرسہ کا نپور میں دوسرے طالب علم کی کتابیں کچھے چوری کر کے نکال لیے پولیس میں اطلاع کر دی سب انکشیر آپنے اور مجھ سے کہنے لگے کہ طالب علم بھی چوری کرتے ہیں میں نے کہا ہرگز نہیں کہنے لگے کہ یہاں تو مشاہدہ ہے میں نے کہا کہ مشاہدہ تو صحیح ہے لیکن حقیقت اس کی آپ نہیں سمجھے۔ کہنے لگے وہ کیا میں نے کہا حقیقت اس کی یہ ہے کہ چور بھی طالب علمی کرنے لگتے ہیں۔

حاصل یہ کہ جو اصل میں طالب علم ہو گا وہ چوری نہیں کریگا ابتدہ چور طالب علم بن سکتا ہے تاکہ مدرسہ میں چوری آسانی سے کر سکے اسلئے یہ کہنا غلط ہے کہ طالب علم چوری کرنے لگے۔ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا ہنس کر کہنے لگے کہ صاحب مولا یوں کے گھر کی بات ہے جس طرح چاہیں بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح شاعر تو بزرگ نہیں ہو سکتے ہاں بزرگ شاعر ہو سکتے ہیں۔

غیر نبی کا فعل جحت نہیں ملفوظ ۳۳۳:

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ عالم ہو کر اتنی موٹی بات نہ سمجھ سکے کہ غیر نبی کا قول جحت ہے جب شرائط پائے جائیں مگر فعل جحت نہیں حالانکہ یہ مسلمات سے ہے۔

ملفوظ ۳۳۵: اپنے معمولات میں دوسروں کی راحت کی تدبیر

فرمایا کہ میں نے تو اپنے معمولات میں راحت کی تدبیر اختیار کر رکھی ہیں یہی میرا اصل مذاق ہے کہ دنیا کی بھی راحت اور آخرت کی بھی اور صرف اپنی ہی راحت مقصود نہیں دوسروں کی راحت کا بھی خیال رکھتا ہوں اس سے زیادہ دوسروں کی راحت کا کیا خیال ہو گا کہ راستہ چلنے میں بھی اس کی رعایت رکھتا ہوں کہ اگر پشت کی جانب سے کسی آنے والے کی آہت معلوم ہوتی ہے تو میں سڑک کے کنارہ ہو جاتا ہوں تاکہ اس آئیوا لے کو راستہ کی کوئی تنگی نہ ہو۔ آزادی سے چلا جائے

حالانکہ بعض مرتبہ وہ آنیوالا بھنگلی ہوتا ہے چمار ہوتا ہے مگر میں اس کا انتظار نہیں کرتا کہ وہ نج کرنکل جائے گا۔ بلکہ خود ہی نج جاتا ہوں۔ میں محمد اللہ ہر امر میں لحاظ رکھتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی پر ذرہ برادر گرانی نہ ہو۔ پھر جب میں خود دوسروں کا اس قدر خیال رکھتا ہوں تو دوسرے میرے ساتھ ایسا برتابہ کیوں کرتے ہیں کہ جس سے مجھ کو گرانی ہو یا تکلیف پہنچے پھر فرمایا کہ بعضے بزرگ بھولے پن کے سبب دوسرے کی تکلیف و راحت کی رعایت نہیں کرتے وہ معذور ہیں مگر دوسروں کو تو ضرر پہنچتا ہے اس پر ایک حکایت فرمائی۔ کہ دیوبند میں ایک بزرگ بھلی میں سوار ہو کر چلے ایک معتقد بھی ساتھ بیٹھے اتفاق سے راستے میں بھلی الٹ گئی اور نقشہ یہ ہوا کہ وہ معتقد صاحب جس طرف بیٹھے تھے اس طرف کو بھلی لوٹی وہ پیچے اور بزرگ صاحب اس کے اوپر۔ بزرگ ہیں کہ معتقد کی کمر پر بیٹھے اس نے عرض کیا کہ حضرت ہیئے میں تو مرا جاتا ہوں وہ فرماتے ہیں نہیں مرد گے نہیں ہم جو ہے پہن لیں ہمارا جو ہے لا اوس نے کہا کہ حضرت اتنے جو ہے آئے گا میرا تو خاتمہ ہو جائیگا فرمایا کہ نہیں ہم نگے پیرز میں پر نہیں رکھتے مٹی لگ جائیگی میں عادت نہیں نگے پیرز میں پر رکھنے کی۔

اس بے چارے کی کمر سے نہیں اترے جب گاڑی بان نے جو ہے دیا تب پہن کراتے مگر اس شخص کے چوٹ بالکل نہیں آئی خیر یہ تو بھولے بزرگوں کی باتیں ہیں۔ باقی بعضے تو مرید کو اپنی ملک سمجھتے ہیں۔ الحمد للہ! مجھ کو تو حق تعالیٰ نے اس کی توفیق دی ہے جس کی برکت سے مریدوں کے ساتھ تو ایسا برتابہ کیا کرتا اور حق بھی کیا ہے مجھ کو ایسا کرنے کا جن کے ساتھ اس قسم کا حق بھی ہے اور وہ ملکوم بھی ہیں اور محبت کی وجہ سے کسی خدمت پر گرانی کا شہر بھی نہیں ہو سکتا اور ایسے لوگ گھروالے ہیں میرا تو ان کے ساتھ بھی بھی معمول ہے کہ مثلاً کھانا کھا کر بھی گھروالوں سے یہ نہیں کہتا کہ برلن اٹھا لواں وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ ممکن ہے اپنے کسی کام میں مصروف ہوں اور شخص میری وجہ سے ان کو اپنا کام چھوڑ کر اس کام کو کرنا پڑے بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اٹھواں۔ اب آگے ان کا کام ہے کہ وہ خود اٹھائیں یا کسی نو کرنی وغیرہ سے اٹھوائیں میں اپنی طرف سے ان پر اتنا بار بھی نہیں ڈالتا۔ غرض کہ اپنی راحت اور دوسروں کی راحت یہ میرا معمول ہے۔ اسی وجہ سے مجھ کو دوسرے کی بے فکری سے

تاریخی ہوتی ہے مزاحا فرمایا پھر ناگوار ہو جاتا ہوں (مراوسات پر ہے) کہ جب میں اتنی رعایتیں دوسروں کی کرتا ہوں تو میں بھی ان سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ کو مت ستاؤ۔

ملفوظ ۲۳۶: راستہ میں ساتھ ہو جانا

فرمایا کہ ایک اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض لوگ جو راستہ میں ساتھ ہو جاتے ہیں آزادی بالکل بر باد ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ استنبخ کی ضرورت ہوتی ہے یا آنت اتر جاتی ہے تو اپ ان حضرات کے ساتھ ہونے کی وجہ سے چلنے میں رعایت کرنی پڑتی ہے کہ جب تک بات پوری نہ ہو جائے دروازہ پر کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ ایک یہ کہ چلتے وقت طبعاً اس کا خیال رہتا ہے کہ یہ اچھی جگہ میں چلیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اس وجہ سے میں خود ایک طرف ہو کر چلتا ہوں غرض کے سخت کلفت ہوتی ہے اور ایسے واقعات کلفت کے مختلف پیش آتے ہیں جزئیات کا احاطہ مشکل ہے مسلمان کا نہ ہب تو یہ ہونا چاہئے

بہشت آنجا کہ آزارے بنا شد ☆ کے رابا کے کارے بنا شد
یہ سب آزادی ان مجددوب صاحب کی نظر روحانی کی برکت ہے جن کی دعا سے میں پیدا ہوا ہوں یہی خدا کا فضل ہے کہ جو اس گمنہیں ہوئے مگر آزادی ضرور محبوب ہے۔

ملفوظ ۲۳۷: ایک صاحب کی عرض کا لطیف جواب

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے جو اس وقت تقریر فرمائی ہے اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا لطیف المراج بنایا پھر ہم جیسے گدوں سے واسطہ پڑا پھر کیا ہو فرمایا کہ جواب عرض کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے جو کچھ فرمایا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں یعنی گدھے کی تشبیہ کو۔ پس اس کے لیے آپ کا علم ہی کافی جواب ہے۔

ملفوظ ۲۳۸: فکر و اہتمام نظر آئے تو ناگواری نہیں ہوتی

فرمایا کہ اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو اہتمام ہے راحت پہنچانے کا اور پھر اس سے کوئی فروگذاشت ہو جائے اس پر ناگواری نہیں ہوتی۔ ہاں اگر راحت پہنچانے کا اور فکر ہی نہ ہو

تو بے شک ناگواری ہوتی ہے اس پر میں موافقہ کرتا ہوں کہ یہ حرکت کیوں ہوئی پھر لوگوں نے ایک آسان سبق نکال رکھا ہے جواب میں کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی اس پر میں یہ پوچھتا ہوں کہ سب اس غلطی کا کیا ہے آیا بے فکری سبب ہے بعضے تو کہتے ہیں کہ بد فہمی اور یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا کہ سبب اس کا بے فکری ہے تو موافقہ بڑھ جائیگا کہ بے فکری کیوں اختیار کی۔ ایسی چیز کا نام لو کہ جو غیر اختیاری ہے اسلئے بد فہمی کا عذر رپیش کرتے ہیں مگر میں اس پر کہتا ہوں کہ اگر بد فہمی اس کا سبب ہے تو مجھ کو اپنے تعلق سے معاف کرو کیونکہ بد فہم آدمی سے مناسبت ہونا اور اس کی اصلاح ہوتا اور زیادہ مشکل ہے اسلئے کہ بد فہمی ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ جو تمہارے اختیار سے بھی باہر اور میرے اختیار سے بھی۔ بس تعلق ہی ختم کرو اور اگر کہے کہ سبب اس کا بے فکری ہے تو میں کہتا ہوں کہ اچھا باب مجھے یہ شکایت ہے کہ بے فکری کیوں اختیار کی۔ مگر پھر بھی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس سے فکر سکتا ہے اسلئے کہ حکما اختیاری ہے تو اس وقت معافی چاہ لے اور آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ اب ایسا نہ کرو نگاہ تجھشی ہوئی گویہ ضرور ہے کہ اس وقت اس عذر پر موافقہ میں بظاہر تجھتی ہوگی کہ اختیار سے کوتاہی کی مگر انعام کے اعتبار سے چونکہ اختیاری چیز ہے امید ہے کہ آئندہ اگر چاہے گا تو ایسی غلطی نہ کریگا اور اصلاح کی بھی امید ہے اور مجھ کو خدا نخواستہ کینہ تھوڑا تھا ہے ہاں! یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آدمیت پیدا ہو سیوانیت اور جانور پن دور ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر قرآنی حالات سے یہ معلوم ہو جائے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دینے کا اہتمام ہے اور راحت کا قصد ہے پھر اگر گز بڑھی ہو جائے تو ایسے کی گز بڑھی ذرہ برا بر بھی اگر اتنی نہیں ہوتی۔ گو بفرض اصلاح روک نوک اس وقت بھی کی جائے مگر اس وقت کی اصلاح کا طریق جدا ہو گا۔

شرع کی جگہ شرح

ملفوظ ۳۲۹:

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ امام صاحب سید ہیں مگر حالات یہ ہے کہ سر پر انگریزی بال ڈاٹھی خلاف شرع مگر شرح کو شرح لکھا ہے اس پر فرمایا کہ متن تو ہے مگر شرح نہیں۔

ملفوظ ۲۵۰: اپنے متکبر ہونے کا خیال

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر کسی شخص کو اپنی نسبت یہ خیال ہو کہ میں متکبر ہوں تو کیا کرے فرمایا کہ مصلح سے رجوع کرے وہ آثار سے معلوم کر کے بتا دیں گا کہ متکبر ہے یا نہیں باقی اجتماعی جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں تو تکبر و غیرہ تو بلا نے سے آتی ہیں خود نہیں چھٹی پھرتیں۔ یہ تردود دلیل ہے متواضع ہونے کی اور اس کی کہ وہ متکبر نہیں مگر یہ دلیل اکثری ہے۔

ملفوظ ۲۵۱: انجام کا کسی کو علم نہیں

ای سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ خدا کے یہاں اس کا پسندیدہ ہوتا ضروری نہیں جو بندوں کو پسندیدہ ہے کسی کو کیا خبر ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے پھر فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں یہ امراحتماں کے درجہ میں بھی ہو کہ شاید اس کا انجام میرے انجام سے بہتر ہو تو تکبر اور بڑائی کے علاج کے لیے کافی ہے اور ظاہر ہے کہ اتنا خیال رکھنا اختیاری ہے اور واقع بھی ایسا ہو گا کہ جن کو یہاں پر لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں وہاں ان کو وہ چیزیں ملیں گی کہاں عقلاء منہ تکتے ہی رہ جائیں گے عجیب دربار ہے کسی کی سمجھیں ان کی حکمتیں آئندیں سکتیں۔

ملفوظ ۲۵۲: کلیات سے سوال کافی نہیں

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کیا یہ بھی متواضع ہے کہ سب سے اخلاق سے ملا چاہئے فرمایا کہ گول سوال ہے جزئیات کا سوال سمجھنے کلیات کا سوال کر کے کیا رسالہ تصنیف کرنا ہے جب بہت سی جزئیات کا علم ہو جائیگا کلیات خود سمجھیں آجائیں گی اور کلیات تو آپ کو معلوم ہیں ہی جس کی بیٹھنے بیٹھنے کلیاں کر رہے ہو۔

ملفوظ ۲۵۳: بیعت نہ کرنے پر خود کشی کی دھمکی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہاں پر ایک شخص نے خود کشی کر لی تھی ایک میرے عزیز بھائی کو الگ بلا کر لے گئے اور کہنے لگے کہ اب تو بیعت سے انکار نہ کرو گے۔ میں نے کہا کہ یہ سبق

اس واقعہ سے آپ نے غلط سمجھا اول تو اس واقعہ کا یہ سبب نہیں ہوا۔ یہ تو ایک بزرگ سے بیعت تھا دوسرے اگر یہی سبب ہوتا تب تو اس دروازہ کو اور تنگ کر دینا چاہیے ورنہ لوگوں کو اچھی دھمکی ہاتھ آجائے گی کہ خود کشی کرلوں گا۔ میں ایسی باتوں سے ڈرنے والا نہیں کام قائدہ ہی سے ہوتا ہے۔

حضرت کی حالت شکر و رضا ملفوظ ۳۵۴:

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اپنے دوستوں کے ہجوم اور محبت کی وجہ سے ممکن تھا کہ عجب پیدا ہو جاتا۔ مگر اس کا علاج غیر سے یہ ہوا کہ کھانے کی تکلیف ہو گئی کھانے کھانے وقت گذر جاتا ہے۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کو بہت تکلیف ہے کھانی کی اور اس کی وجہ سے آنت کی تکلیف بڑھ گئی حضرت والائے قبسم فرماد کہ مزاہ فرمایا کہ کمانی موجود ہے اللہ نے قوت دی ہے چڑھانے کی پھر کیا تکلیف اس پر ایک حکایت فرمائی۔

کہ عرب میں ایک کرایہ کے گھر میں ایک خنی رہتا تھا بڑا ہی مخیر تھا ہزاروں سائل آتے تھے سب کو دیتا تھا وہ جگہ مشہور ہو گئی۔ اتفاق سے وہ خنی تو مکان چھوڑ کر اور کہیں چلا گیا اور صاحب آکر رہے وہ بخیل تھے مگر سائل عادت کے موافق برابر آتے تھے اور یہ شخص جواب میں اللہ کریم کہہ دیتا۔ عرب میں اب تک دستور ہے کہ سائل کے جواب میں جہاں اللہ کریم کہا سائل لوٹ جاتا ہے۔ ایک روز گھر میں بینہ کر کہنے لگا کہ کیا مٹھانہ ہے اس مکان پر کتنے سائل آتے ہیں اس شخص کی لڑکی نے کہا کہ گھبرانے کی کیا بات ہے جب تک اللہ کریم یاد ہے کیا فکر ہے تو حضرت جب تک کمانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قوت چڑھانی کی دی ہے تب تک کیا فکر۔ اور کوئی تکلیف نہیں اللہ نے راحت کا سامان عطا فرمایا احباب دل بستگی کو دیئے جو بڑی نعمت ہے کچھ کرنا نہیں پڑتا مزدوری کرنی نہیں پڑتی۔ میئھے بھائے کھانے کو دیتے ہیں خوب جو صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ان اعمال باطنی کو کوئی نہیں دیکھا مزاہ فرمایا کہ باطنی کو تو دیکھتے ہیں آنت باطن ہی سے اترتی ہے۔

ایک غیر مقلد کے خط کا جواب ملفوظ ۳۵۵:

فرمایا کہ ایک غیر مقلد کا خط آیا لکھا ہے کہ میں نہ بہا تو الہدیث ہوں مگر آپ سے تلقین

چاہتا ہوں کچھ ایسے کلمات بتلا دیجئے جس سے خدا تعالیٰ کی محبت ہو اور نہماز وغیرہ میں ذوق پیدا ہو۔ میں نے جواب لکھا ہے کہ کلمات کو اس میں داخل نہیں اس کے کچھ اور طرق ہیں جن کو تدایر سمجھنا چاہئے۔ اور میں نے اس سے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں آئی فرمایا کہ یہ معلوم کر کر کے آگے چلو یا کہ پہلے ٹول تو لوں کبھی آگے چل کر جھکڑا پڑے۔

۲۵ رمضان المبارک ۱۳۵۷ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم چہارشنبہ

لطفوظ ۲۵۶: دوسرے کے معمولات کی جستجو مناسب نہیں

فرمایا کہ کل جو ایک مولوی صاحب کا خط آیا تھا جس میں میرے معمولات کو دریافت کیا تھا کل سمجھ میں نہیں آیا تھا اس کے بعد خیال ہوا کہ کل کہوں گا وہ یہ کہ طالبین کی حالت جدا ہوتی ہے تو سب ایک ہی عمل کیسے کر سکتے ہیں۔ اسلئے اتباع کی غرض سے تو معمولات کا ضبط کرتا غیر مقید شہرا اور اس قسم کی تحقیق کی دو ہی غرض ہو سکتی ہیں ایک تو اتباع اس کا حال تو معلوم ہو گیا اور ایک یہ کہ شخص مشتری کرنا ہو یہ بھی شخص غیر مقید پہلی غرض کے متعلق مثال عرض کرتا ہوں مثلاً ایک شخص یہاں ہے اس نے تمام عمر پڑھ کر نہماز پڑھی اگر مرید کہے کہ میں بھی پڑھ کر نہماز پڑھوں تو یہ کیسے پڑھ سکتا ہے جب نہیں پڑھ سکتا۔ تو شیخ کا معمول معلوم کرنا بیکار ہی تو ہوا۔ ایک اور بات یاد آئی تھی بات ہے قرآن شریف میں ہے لا تجسسوا۔ اور یہ بھی ایک قسم کا تجسس تو اس تعلیم قرآنی کے بھی خلاف ہوا اگر کہا جائے کہ یہ عیوب کے باب میں ہے تو سمجھو کہ علت اس کی کیا ہے شخص ناگواری۔ اگر کسی کو اطلاع علی الاعمال ہی مکروہ معلوم ہوتا ہے تو یہ لا تجسسوا۔ کی نہیں میں داخل ہو گا۔ عیوب ہی کے ساتھ خاص نہیں جو بھی اس کی ناگواری کا سبب ہو وہاں یہ علت پائی جائے گی اور بھی بہت سی چیزیں اسی ہیں کہ اس پر مطلع ہونے میں ناگواری ہوتی ہے یا مطلع کرنا نہیں چاہتا۔

دیکھئے مالدار ہوتا عیوب کی بات نہیں مگر مجھ میں مجھے ہی سے کوئی پوچھنے کہ تمہارے پاس کس قدر بال ہے میں بتانے کو تیار نہیں اگر عموم لفظ سے بھی داخل نہ ہو مگر اشتراک علت سے داخل ہو سکتا ہے نیز کبھی کذب بھی لازم ہو گا مثلاً کسی کا ایک معمول ہے اکثریت کے ساتھ دائی نہیں اور کسی نے اس کو دائی لکھ دیا تو یہ کذب ہو گا۔

لفظ ۲۵:

تجدد بد تصور و سلوك

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تصوف کو جاہل صوفیوں نے بدنام کیا ہے ورنہ تصوف تو وہ چیز ہے کہ بدلوں اس کے نجات ہی مشکل معلوم ہوتی ہے جس کے ایک جزو میں تو یہ حکم ظاہر ہے یعنی اعمال مقصودہ ایک میں ظہر ہو سکتا ہے یعنی مجاہدات غیر مقصودہ سو حقیقت میں ایسے مجاہدات عبادات نہیں بلکہ معالجہ ہے اور ظاہر ہے کہ عادۃ بدلوں معالجہ بدنی کے جیسے ظاہری زندگی مشکل ہے ایسے ہی باطنی زندگی بدلوں باطنی معالجہ کے دشوار ہے معالجہ کے جس قدر طرق ہیں وہ سب مذاہیر کا درجہ رکھتے ہیں خود قربات نہیں ان مذاہیر سے داعی الی الشر کو منکر کرنا اور مطیع ہانا ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو اب بتائیے ان کے متعلق کیا اعتراض رہا کیا جو چیزیں داعی الی الشر نہیں ان کے توڑنے اور کم کرنے کی ضرورت نہیں ان مذاہیر کو خود بـلا واسطہ قرب میں داخل نہیں ہاں بـواسطہ قرب کے اسیاں ہیں سوان کو عبادت مقصودہ سمجھنا بے شک بدعت ہے اور جو معالجہ سمجھ کر کرے وہ بدعت کیے ہو سکتا ہے اس کی مثال سہل کی مثال ہے دیکھو اس میں طبیب چلنے پھر نے بولنے سونے کھانے پینے کی ممانعت کر دیتا ہے تو کیا ان مذاہیر طبیب کو کوئی بدعت کہہ سکتا ہے ایسے ہی طریق میں بھی ان مجاہدات کا درجہ مذاہیر ہی کا ہے مثلاً تقلیل الطعام تقلیل الكلام تقلیل المقام مذاہیر طبیب میں اور ان مجاہدات میں فرق کیا ہے۔ اگر ایک شخص نے مجاہدہ کر کے ملاکات کو رائخ کر لیا کیا حرج ہوا۔

بھی مذاہیر جانتا فن ہے جس سے اہل فن اور غیر اہل فن میں فرق ہو جاتا ہے اہل فن کی مثال فن دان کشتو گیر کی ہے جو ذرا سے پیغ میں گردیتا ہے اس طرح فن دان نفس اور شیطان کا مقابلہ داوے کرتا ہے اور دوسرا شخص جو فن دان نہیں وہ گھونسوں سے دھکوں سے گراتا ہے جس میں مشقت ہوتی ہے تو اس صورت میں فن دان پر اعتراض ہی کیا ہے اور میں توسع کر کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صاحب مجاہدہ کو جو مذاہیر ہی کے درجہ میں لگا ہوا ہے گو وہ مذاہیر فی نفسہ موجب اجر نہیں لیکن اس کی نیت پرو ہتی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے اسلیے کہ گو وہ عبادت نہیں مگر عبادت کا مقدمہ تو

ہے اور وہ عبادت کے کامل کرنے کی نیت سے اس میں لگا ہوا ہے تو عبادت بغیر و تو ہو گیں اور اس پر بھی ثواب ملنا معلوم ہے۔ حضرت اعتراض کر دینا تو آسان ہے کہ مجاہدات غیر منقول ہیں اسلئے بدعت چیز گزرا ان کو کر کے دیکھو انشاء اللہ آنکھیں کھل جائیں گی کہ ان سے دین میں سکولت کتنی ہوتی ہے اور بدؤں ان کے عادۃ کا میابی نہیں ہوتی لیکن ان میں بھی خود رائی نہ کی جائے کسی کا اتباع ضروری ہے مولا نارحمۃ اللہ اسی کو فرماتے ہیں ۔

چند خوانی حکمت یونانیاں ☆ حکمت ایمانیاں راہم بخواں

صحت ایں حس بجوسید از طبیب ☆ صحت آں حس بجوسید از جبیب

صحت ایں حس ز معموری تن ☆ صحت آں حس ز تحریب بدنا

(یونانیوں کی حکمت کب تک پڑھتے رہو گے ایمان والوں کی حکمت بھی پڑھو۔

بدن کی صحت تو طبیب کے پاس تلاش کرو اور باطن کی صحت محبوب سے حاصل کرو۔ ظاہری صحت تو بدن کی تیاری اور فربہی سے حاصل ہوتی ہے اور باطن کی صحت ظاہری بدن کو خراب کرنے سے حاصل ہوتی ہے)

حاججو! اس میں ہر گز شک و شبہ نہ کرو۔ آزمائے ہی کے طریق پر چند روز کر کے دیکھو

او۔ اسی امتحان کو فرماتے ہیں ۔

در بہاراں کے شود سر بزر سنگ ☆ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ

سالہا تو سنگ بودی دل خراش ☆ آزموں رایک زمانے خاک باش

(موسم بہار میں پتھر کب سر بزر ہوتا ہے خاک بن جا۔ تاکہ رنگ برنگ کے پھول

کھلیں۔ برسوں سے تو دخراش پتھر تھا آزمائش کے لیے کچھ روز کے لیے خاک ہو جا۔ ۱۲۔)

آجکل کام کرنے کی طرف تو توجہ ہے نہیں محض بیٹھے ہوئے اعتراضات گھڑا کرتے

ہیں مگر جن پر تم اعتراض کرتے ہو وہ تو کچھ کرتے بھی ہیں اور تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا کس منہ سے

اعتراض کرتے ہو کسی نے خوب کہا ہے اور ایسوں کی حالت کا فوٹو کھینچا ہے کہتے ہیں ۔

سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہن ☆ بازی اگرچہ پانہ سکا سر تو کھو سکا
کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز ☆ اے زو سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا
مگر اس کے حصول کا طریق صرف یہی ہے کہ اپنی عقولوں کو بالائے طاق رکھ کر کسی کے
اتباع میں عمل کر کے دیکھو معلوم ہو جائیگا کہ قابل اعتراض کون تھا اسی کو مولا نافرمانے ہیں
آزمودم عقل دور اندیش را ☆ بعد ازیں دیوانہ سازم خوش را
﴿میں نے عقل دور اندیش کو آزمانے کے بعد اپنے کو دیوانہ بنایا ہے ۱۲﴾
آج کل تو بڑی دوڑی ہے کہ رسولی سے بچتے کے لیے پانچ وقت کی نماز پڑھلی اور
رمضان شریف کے روزے رکھ لیے اگرچہ باطنی حالت یہی ہو جیسا کہا گیا ہے
ا زبروں چوں گور کافر پر حلل ☆ داندروں قهر خدائے عزو جلن
ا زبروں طعنہ زنی بر باریزید ☆ وز درونت ننگ میدارو بیزید
﴿ظاہر میں تو کافر کی قبر کی طرح خوب بنے سورے ہو اور اندر قہر الہی بھرا ہوا
ہے۔ ظاہری حالت تو ایسی ہے کہ باریزید پر بھی طعن کرتے ہو اور تیرے باطنی حالات سے
بیزید کو بھی شرم آتی ہے ۱۲﴾

اب رہی یہ بات کہ ان تدبیر کو ان امراض کے ازالہ میں دخل کیوں ہے اور اس کی لم کیا
ہے۔ یہ سوال ہی افوہ ہے اس لئے کہ ممکن ہے کہ موثر بالکل غیثت نہ ہو بلکہ اس میں بالخاصة یہ اثر ہو
جیسے مقناطیس میں لو ہے کو جذب کر لینے کا اثر ہوتا ہے اور یہ سوال تو ایسا ہے کہ کوئی مریض طبیب
سے یہ سوال کرے کہ اس تدبیر خاص کو مرض کے ازالہ میں کیا دخل۔ میں نے ابھی جو اوپر تفصیل
بیان کی ہے اس کے عدم استحضار سے بعض بڑے لوگوں کو شبہات پیدا ہو گئے۔

چنانچہ ابن تیمیہ نے اللہ اللہ کرنے کو بنا بر عدم نقل بدعت کہہ دیا ہے لیکن اگر میں اس
وقت ہوتا یا وہ اس زمانہ میں ہوتے تو میں ان سے عرض کرتا اور وہ انشاء اللہ تسلیم کرتے کہ ایک شخص
قرآن شریف حفظ کرتا ہے اور ایک لفظ کا بار بار اعادہ کرتا ہے مثلاً اذالسماء انفطرت کو اس
طرح یاد کرتا ہے کہ اذالسماء و اذالکو سو مرتبہ کہا اور فطرت فطرت کو سو مرتبہ

کہا پھر ملا کر کہا تو میں ابن تیمیہ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جائز ہے یا بخشنہ اسلئے کہ منقول نہیں ناجائز ہے ابن تیمیہ کے پاس سوا تعلیم جواز کے کوئی جواب نہ ہوتا۔ کیونکہ حقیقت اس کی صرف یہ ہے کہ نذکور کو حافظہ میں راح کرتا ہے اب جس بیان سے ہو اور گودہ بیان منقول بھی نہ ہو پس اسی طرح ذاکر کا مقصود قلب میں توجہ الی اللہ کو راح کرتا ہے پس مقصود کو قلب میں راح کرنے کو کون منع کر سکتا ہے نیز رسوخ اور سہولت کے اثر کا ایک اور راز ہے وہ یہ کہ تجربہ سے اس طریق کا لذت بخش ہونا مشاہد ہے اور الفاظ میں جس تدریذت ہو گی اسی قدر جلد اور سہولت سے اس کو مددوں کے مستمکن ہونے میں کامیاب ہو گا لفظ اللہ کے تکرار میں بڑی لذت ہوتی ہے۔

تو کل شاہ صاحب کا واقعہ ہے جسم کھا کر کہا کرتے تھے پنجابی زبان میں کہ ذکر کے وقت میرامند میٹھا ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ویسی بات نہ بھجننا بلکہ ایسا میٹھا ہو جاتا ہے جیسے مٹھائی کھائیں۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شریعت ترمدون ہے اس کے لیے تو سوال کے بعد مجدد کی ضرورت ہے اور تصوف کے لیے تو پچاس برس کے بعد ہی ضرورت پڑے گی کیونکہ مددوں نہیں اسلئے اس میں تغیر جلد ہو سکتا ہے اسلئے چلدی مجدہ و کی ضرورت واقع ہو گی۔ فرمایا کہ اللہ کا لا کھلا کھر ہے کہ یہ بھی مدقائق ہو گیا۔ اب صدیوں کے لیے یہ طریق زندہ ہو گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ طریق اصلاح مردہ ہو چکا تھا اب از سر اور زندہ ہوا ہے مگر غیر مجتهد اس کو انجام نہیں دے سکتا تھا۔

حضرت حاجی صاحب اس فن کے مجتهد تھے ان کے علوم سے اس کی حسب ضرورت تدوین ہو گئی پھر فرمایا کہ یہ جو اسرار پر کتابیں لکھے گئے ہیں ان سے زیادہ گز بڑ پھیلی ان حضرات کو کیا خبر تھی کہ ایسے بدفهموں کا بھی زمانہ آنے والا ہے۔ سو واقع میں اہل اسرار کی کتابیں اہل اسرار کے لیے ہیں اشرار کے لیے نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہیں بالکل صاف ہو گیا لوگوں نے ہوا بنا رکھا تھا حالانکہ آدم ہے اور اس اشاعت کے بعد خواہ تعبیر بھی نہ کر سکے مگر مقصود حاصل ہے کیونکہ مقصود حقائق کا ذہن میں اتر جاتا ہے اگر کوئی شخص اصلاح مددوں کی دوا کھا کر بچوں گیا تو بلا سے یاد نہ

رہے لیکن عمر کو بھر دو وقت دس روٹیاں کھلانے کا اثر کر گئی۔ بلکہ میں تو اس یاد نہ رہنے کو حق تعالیٰ کی رحمت سمجھتا ہوں اگر یہ علوم یاد رہتے تو مقصود پر نظر نہ رہتی جیسے نحو کی ضرورت پڑتی ہے مگر عبارت پڑھتے وقت اگر اس کا استحضار کریں تو عبارت غلط پڑھنا شروع کر دیگا۔

ملفوظ ۲۵۸: گورنمنٹ اور صوفیہ کی نگرانی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک عیسائی نے لکھا تھا گورنمنٹ کو کہ سب کی نگرانی کی جاتی ہے خصوص علماء کی نگرانی نہیں ہوتی حالانکہ یہ زیادہ نگرانی کے قابل ہیں کیونکہ نہ معلوم چکے چکے کیا تعلیم کرتے ہیں وہ یہ سمجھا ہو گا کہ جہاد کی تعلیم کرتے ہوئے جس سے گھبرا تے ہیں۔ اس غریب کو یہی خبر نہیں کہ تعلیم کے خفیہ ہونے کی کیا مصلحت ہے۔

ملفوظ ۲۵۹: علماء بھی کم مجاہد نہیں کرتے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں نے زمانہ نو عمری میں ماموں ابداد علی صاحب سے عرض کیا کہ کیا بات ہے طریق میں علماء کو مجاہدہ کم کرنا پڑتا ہے فرمایا نہیں بھائی وہ جو آنکھیں سینکتے ہیں برسوں اور دھواں کھاتے ہیں اس کو ما کر دیکھو یہ سب مجاہد ہی تو ہے تو بے مجاہد کسی کو کچھ نہیں ملتا واقعی صحیح فرمایا۔

۲۵ رمضان المبارک ۱۳۵۹ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم چہارشنبہ

ملفوظ ۲۶۰: فن تصوف کا مجتہد

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت والا نے صبح کی مجلس میں فرمایا تھا کہ اس فن میں مجتہد کی ضرورت ہے بدوں اس کے اصلاح طالبین کا کام نہیں چل سکتا تو پہلے وہ مجتہد ہو کر اس کام کو کرے یا کام کو شروع کر دے پھر مجتہد ہو جائے گا فرمایا کہ پہلے مجتہد ہو چکے اب اس کو شروع کرے۔ البتہ خود مجتہد ہونے کی شرط یہ ہے کہ اپنی اصلاح باتفاق ارشاد شروع کر دے کبھی اس سے اجتہاد کا درجہ بھی میسر ہو جاتا ہے لیکن شرط علات نہیں کیونکہ اس سے اجتہاد میسر ہونا ضروری نہیں۔

ملفوظ ۳۶۱: آج کل اجازت شیخ کی حیثیت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ جواہازت شیخ کی طرف سے ہوتی ہے یہ کس وقت ہوتی ہے فرمایا کہ جیسے ایک سند توجہ دی جاتی ہے طالب علم کو جب پوری مہارت ہو جائے۔ حدیث میں۔ اور ایک توقع پر دی جاتی ہے کہ اگر آئندہ خیال رکھا اور مطاوعہ کیا تو مہارت ہو جائیگی۔ اس طرح اجازت شیخ میں دونوں طریق میں آجکل آکثر دوسرا طریق مستعمل ہے مگر ضروری مناسبت ہر حال میں شرط ہے۔

ملفوظ ۳۶۲: محبت اور مناسبت میں فرق

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت محبت اور مناسبت میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا فرمایا کہ فرق ہے بعض کو محبت ہوتی ہے مناسبت نہیں ہوتی۔ مناسبت سے مراد ہے کہ جانبین سے ایسا اتعلق ہو کہ ہر بات ایک دوسرے کے مذاق کے موافق ہو۔

ملفوظ ۳۶۳: عامل کی ناقدری نہ کرنا

فرمایا کہ ایک خط آیا ہے لکھا ہے کہ ایک تعویذ کی ضرورت ہے جن کا اثر ہے میں نے لکھ دیا ہے کہ میں عامل نہیں ہوں اگر چاہو گے تو عامل کا پتہ لکھ دوں گا خود پر اسلئے نہیں لکھا کہ عامل کی بے قدری نہ ہو۔ پوچھنے کے بعد بتلانے میں قدر ہوگی۔

ملفوظ ۳۶۴: حد ایا کی واپسی اور شان توکل

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں پاش روپیہ بھیجننا چاہتا ہوں اور آئئے کی اجازت چاہتا ہوں اب ملاحظہ ہو کہ ناگواری ہو یا نہ ہو دونوں کو جمع کیا ہے اصل میں ہم لوگوں کو طنزاء اور حریص سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے ان حرکات کی۔ میں بھی ایسا جواب دوں گا انشاء اللہ کہ طبیعت خوش ہو جائے گی۔

ایسی طرح ایک صاحب ہیں کسی مقام میں ایک سال کچھ روپیہ مدرسہ میں بھیجا میں نے

وصول کر لیا غالباً و سور و پسیہ تھا۔ اگلے سال لکھتے ہیں کہ معمول کے موافق روپیہ بھیجا ہوں اگر سال گذشتہ کی طرح اسال بھی رسید نہ آئی تو آئندروپسیہ بھیجا بند کر دوں گا۔ میں نے منی آرڈر وصول نہیں کیا انکار لکھ دیا اور لکھ دیا کہ تم آئندہ سال بند کرو گے ہم اسال ہی بند کرتے ہیں۔ رسید یہاں سے نہیں روانہ کی جائیگی پھر فرمایا کہ رسید تو وہ بھیجے جو تحریک کرے یا مانگے یہاں پر تو محض تو کل پر معاملہ ہے۔ اگر کسی کو ہم پر اعتماد ہو بھیجو ورنہ مانگنے کوں جاتا ہے۔ رہایہ خیال کہ پھر مدرسہ ایسے چلے گا جیسے اب تک چل رہا ہے اور زائد سے زائد یہ ہو گا کہ نہ چلے گا آمد نہ ہو گی بند کر دیں گے کوئی فرض و واجب تو ہے ہی نہیں اور بہت سے دین کے کام ہیں اور بہت سی دین کی خدمتیں ہیں ان میں لگ جائیں گے حساب کتاب آمد و صرف کا انتظام باقاعدہ ہے مگر دوسروں کو کیا حق ہے کہ وہ مطالیہ کریں اگر ہم پر اعتماد نہیں نہ بھیجیں اور رسید ہی سے کیا ہوتا ہے جو کھانے والے ہیں اور گڑبرڑ کرنے والے ہیں وہ حساب تھی میں خوب کھاتے اور گڑبرڑ کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میں طامع بھی ہوں حریص بھی ہوں مگر جن کو محبت کا دعا ہے ہے ان کو تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے اگر میں عیب دار ہوں تو ان کو عیب دار سمجھنا چاہئے۔

ملفوظ ۳۶۵: عقلی محبت کی زیادہ ضرورت ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ زیادہ تر عقلی محبت ہی کی ضرورت ہے اس میں دوام ہے ثابت ہے اختیاری ہے عجیب چیز ہے عقلی محبت اور طبیعی محبت دونوں بھی جمع ہو سکتی ہیں مگر غالب عقلی ہی کو ہوتا چاہیے محبت طبیعی کے غالب میں حد و محفوظ نہیں رہتے۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ طبیعت کو عقل پر غالب نہ آئے اور عقل کو شریعت پر غالب نہ آئے وے فرمایا کہ بالکل صحیح ہے ساری دنیا کے عقلاں حقیقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے تو ذوب ہی رہے ہیں اس بے خبری میں انہوں نے عقل کو دین غالب کر دیا ابتدئے عقل کو طبیعت پر غالب رکھنا ضروری ہے پس ہمیشہ رہنے کی چیز تو صرف عقل ایمان ہی ہیں باقی سب میں آمد و رفت رہتی ہے۔

ملفوظ ۳۶۶: رمضان میں بیعت نہ فرمانا

خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک صاحب لوباری سے آئے ہیں بیعت کے لیے درخواست کرتے ہیں فرمایا کہ رمضان شریف میں اتنی فرصت نہیں کہ اس کے متعلق گفتگو بھجو کر سکوں بعد رمضان المبارک کے آئیں میں انشاء اللہ تعالیٰ اس کے متعلق گفتگو کروں گا ان سے پوچھیئے کہ سمجھ بھی گئے یا نہیں عرض کیا کہ سمجھ گئے اس پر فرمایا کہ رمضان شریف میں تو پہلی ہی بیعت رہ جائے تو غنیمت ہے اس کے ہی حقوق ادا نہیں ہوتے۔

ملفوظ ۳۶۷: اللہ کا واسطہ دیکر حیر سوال

خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک جگہ ایسا ہوا کہ سائل نے اللہ کا واسطہ دیکر دوپیے مانگے فرمایا کہ بے وقوف تھا میں روپے نہ مانگے۔

ملفوظ ۳۶۸: اس طریق کا ادب اپنی رائے کا فتا کرنا ہے
ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ انسان اپنی تمنا کو اپنی تجویز کو بالکل فنا کر دے یہ ہے ادب اس طریق کا۔

ملفوظ ۳۶۹: فیض شیخ کی کیفیت بیان میں نہیں آسکتی

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ فیض شیخ سے جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کوئی بیان میں نہیں لاسکتا۔

ملفوظ ۳۷۰: عشق کے لئے ادب لازمی ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ طرقِ الحُقْرِ کلمہ آداب۔ اگر آداب نہیں تو وہ طریقِ عشق ہی نہیں۔

ملفوظ ۳۷۱: اول ہی میں تمام مراحل طے کروادینا

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک خط آیا تھا لکھا تھا کہ مجھ کو بیعت کرلو اور خدمت میں

حاضری کی اجازت دیدو۔ خواہ مان نہ مان میں تیرا مہماں۔ چپری اور دودو یعنی خود ہی اپنی مصلحتیں اور پھر دودو تجویز کر لیں اور بجائے درخواست کے فرماں شکرانہ پکانے کا ارادہ ہے دودھ حکایت ہے ایک گاؤں میں مرید کے گھر گئے مرید نے کہا پیر جی شکرانہ پکانے کا ارادہ ہے دودھ سے کھاؤ گے یا گھنی سے۔ پیر جی نے کہا کہ میاں بے سوادوں کا کیا سواد۔ اول گھنی لگا لیں گے اور کیا سے دودھ ڈال کر کھالیں گے۔ میں نے جواب میں لکھ دیا تھا کہ کیا بیعت ضروری چیز ہے اور کیا بدلوں بیعت کے نفع نہیں ہو سکتا اور یہاں پر آئے کی غرض لکھو۔ میں اول ہی میں تمام مراحل طے کر لیتا ہوں تاکہ کوئی بات مبہم نہ رہے پھر ساری عمر پر یہاں پاس نہیں آتی اسلئے کہ مقصود معلوم ہو جاتا ہے گو وقت صرف ہوتا ہے اور بعض اوقات تک وغیرہ میں تھوڑا سا خرچ بھی ہوتا ہے اور قل تحقیق ایک گونہ تا گواری بھی ہوتی ہے مگر وہ تا گواری ایسی ہی ہے جس کو فرماتے ہیں

طفل ہی لرزد نیش احتجام ہے مادر مشق ازان غم شاد کام
﴿پچہ انجلشن لگنے سے کامپتا ہے۔ اور ماں اس تکلیف سے خوش ہے (کہ یہ

تکلیف موجب صحت ہو گی)﴾

پھر اس کو برداشت کر لینے کے بعد تو یہ حالت ہوتی ہے جیسا فرماتے ہیں
کوئے نو میدی مرو کامید ہاست ☆ سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست
﴿نا امیدی کے کوچہ میں مت جاؤ کہ بہت زیادہ امیدیں ہیں اور تاریکی کی طرف
مت جاؤ کہ بہت روشنیاں ہیں ۱۲ بھی﴾

ملفوظ ۲۷: چھوٹی چھوٹی باتوں میں احتیاط

پختہ گردھی سے ایک شخص نے کچھ کپی ہوئی اشیاء حضرت والا کی خدمت میں بطور ہدیہ
ایک شخص کے ہاتھ بھیجیں حضرت والا نے اپنے خادم سلیمان سے فرمایا کہ دیکھو بڑے گھر ان
چیزوں کو پہنچا دو اور یہ کہہ دینا کہ یہ یعنی ہوئی نہیں ہیں اور جن برتوں میں یہ چیزیں ہیں اانے والے
کے سامنے گئیں کر اور دکھلا کر لے جائیں اور واپس لا کر پھر گنوادینا۔ تاکہ گڑ بڑتے ہو۔ پھر حضرت

والا نے دریافت فرمایا کہ گن لیا عرض کیا جی گن لیا۔ چار برتن ہیں مزاحا فرمایا کہ اچھی طرح پھر دیکھ لو ورنہ کبھی تمہارا اچار بنے فرمایا کہ میں ایسی چیزوں میں ضرور مدائلت کرتا ہوں اور وہ اسلئے کہ لوگوں کے مزاج میں اختیارات نہیں۔ اسلئے ہر شخص پر اعتقاد نہیں ہوتا۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں فاتح فارس ہیں جب غلام کو کھانا پکانے کے لیے اشیاء دیتے تو سب کا وزن فرمائ کرو اور گوشت کی بوشیاں گن کر دیتے تھے وہ معلوم کرنے پر فرمایا کہ میں کسی مسلمان کی طرف سے کیوں بدگمانی کروں اسلئے گن کر دیتا ہوں اور گن کر لیتا ہوں۔ ورنہ یہ وسوسہ ہو سکتا ہے کہ میں معلوم کس قدر رکھایا اور کس قدر لایا۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ یہ ہے مغز تھوف اور یہ ہیں علوم دقیقہ یہ علوم تو ہم کو نصیب بھی نہیں کہاں تک ان حضرات کی نظر پہنچتی تھی کیسی دقيق بات ہے یہ ہیں اعمال باطنہ کیوں نہ ہو صاحب! آخر محبت کس کی تھی اگر ان حضرات کے ایسے علوم نہ ہوتے تو اور کس کے ہوتے۔

عجیب حضرات تھے دینی حدود کی حفاظت میں اس کی بھی پرواہ نہ تھی کہ لوگ کیا کہیں گے لا یخافون فی اللہ لومہ لائم پر عمل کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ فرمایا ان ہی چیزوں کے لیے شیخ کی ضرورت ہے اور شیخ بھی کامل جو جامع میں الا ضد او ہو علماء ظاہر مخفی اعمال ظاہرہ کی اصلاح کرتے ہیں اور شیخ کامل ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کرتا ہے اور ویسے تو کتابوں میں سب ہی کچھ ہے مگر ایسا ہی جیسے کتابوں میں تو نہیں بھی ہیں پھر خود کیوں نہیں علاج کر لیتے بس جو ضرورت طبیب کی ہے وہی ضرورت شیخ کی ہے۔

ملفوظ ۳۷: سہل علاج کی درخواست پر حضرت کا جواب

فرمایا کہ ایک خط آیا ہے کہ کوئی سہل علاج تجویز فرمائیں اس پر فرمایا کہ یہ تو طبیب کی شفقت ہے کہ وہ سہل علاج تجویز کر دے یا ایسی دوا تجویز کر دے کہ وہ تلخ نہ ہو۔ جیسے حکیم محمد مصلحتی صاحب نے گذین کا مزہ بدل دیا ہے لیکن اگر طبیب اس کی رعایت نہ کرے تو مریض کو اس فرمائش کا کیا حق ہے کہ میرے لیے ایسی ایسی دوا تجویز کر دے کہ وہ تلخ نہ ہو۔ پھر ضروری مراحل تو انسان

ٹے کر لے پہلے سے پہلے ہی حکم ہوتا ہے کہ ہل علاج تجویز کر دو۔ ان نالائقوں کے بیگاری میں نا حکومت کرتے ہیں۔ ان خردماخنوں کو یہ معلوم کرانے کی ضرورت ہے کہ ملاؤں میں بھی اسپ دماغ ہیں۔ آخر اس بیہودہ لکھنے سے تو خاموش ہی رہتے تو اچھا ہوتا ممکن ہے کہ اس پر کوئی یہ فہر کرے (اسلئے کہ آجھل عقلاء سے زماں ہے) کہ اگر نہ لکھتے اور خاموش رہتے تو اصلاح کیسے ہوتی پہلے تو یہ معلوم کر لو کہ شیخ کے ذمہ کون سی اصلاح ہے بہت سی چیزیں تو فطری ہیں ان کی اصلاح کا شیخ ذمہ دار نہیں۔ اب یہاں پر لوگ آتے ہیں۔ میں کسی کوتا ہی یا غلطی پر موافقہ کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اصلاح ہی کی غرض سے تو حاضر ہوئے ہیں۔ یہ گویا بڑی ذہانت کا جواب ہے۔ میں جواب میں کہا کرتا ہوں کہ حوض کے کنارے پر پاجامہ کھول کر پاخانہ پھرنے بیٹھ جانا اور باز پرس کرنے پر کہہ دینا کہ اصلاح ہی کی غرض سے تو آئے ہیں۔ سواس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں خوب سمجھ لو۔ شیخ ان چیزوں کی اصلاح کا ذمہ دار ہے جو تمہاری سمجھ میں نہ آئیں اور اسی مولیٰ باتوں کی تو اصلاح کر کے آنا چاہئے۔

پھر تعلیم سے پہلے شیخ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں انقیاد اور طلب بھی ہے یا نہیں اور اس طریق کی حقیقت اس کے ذہن میں کیا ہے ویسے ہی ہل علاج بننے پھرتے ہیں۔ واللہ! مجھ کو تو چاپلوی کرتے ہوئے یا ایسا عنوان اختیار کرتے ہوئے جس سے چاپلوی کا شہ بھی ہو غیرت آتی ہے اور میں صح عرض کرتا ہوں کہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ طریق کی بے قعی اور بے حرمتی سے غیرت آتی ہے کم بخت دکانداروں نے اس طریق کو بدنام کر دیا اور بے وقت بنا یا اب تو اللہ کا شکر ہے کہ اکثر لوگ حقیقت سے باخبر ہو گئے۔

ملفوظ ۲۷: دوسرے کے برتوں میں کھانا کھانے میں احتیاط

ایک سلسلہ فتنوں میں فرمایا کہ اگر کہیں سے کھانا آتا ہے تو جن برتوں میں کھانا آتا ہے ان میں کھانا کھانے کو علی الاطلاق جائز نہیں سمجھتا کیونکہ اس میں فتنی تفصیل ہے وہ یہ کہ گھر ہیں دو طرح کے۔ ایک تو ایسے کہ وہاں برتوں کی واپسی کا اہتمام آسان ہے یعنی ان کو دوسرے برتن میسر

ہیں اور ایک ایسے گھر ہیں کہ اہتمام واپسی کا آسان نہیں یعنی ان کو میسر نہیں اور بھیجنے والوں کو بھی اس کا علم ہے تو جن گھروں میں بالمعنی المذکور اہتمام واپسی کا ہے ان کو تو آئے ہوئے برتوں میں کھانا جائز نہیں صرف ایک صورت مستثنی ہے وہ یہ کہ برتن بد لئے میں کھانے کا لطف جاتا رہے گا اور جن گھروں میں بالمعنی المذکور واپسی کا اہتمام نہیں اور بھیجنے والوں کو علم ہے ان کو جائز ہے کیونکہ دلالت اذن ہے اور یہ امور شرعیہ الحمد للہ میرے امور طبعی ہیں اور مجھ کو ان پر امید اجر کی ہے۔

ملفوظ ۲۷۵: جنت کی امید پر نماز پڑھنا

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر اس خیال سے کوئی شخص نماز پڑھنے کر جنت ملے گی تو اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی فرمایا کہ کمی کی کیا وجہ اور میں ایک اور بات بیان کرتا ہوں جو اہل اسرار کے اصول پر ہے کہ ہم نے جو اس امید پر نماز پڑھی کہ جنت ملے گی تو وہ جنت یہی نماز تو ہے تو اس شخص نے نماز سے نماز ہی کو تو طلب کیا۔

ملفوظ ۲۷۶: مہتمم دار العلوم دیوبند حضرت مولانا رفع الدینؒ کے کمالات باطنی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مجھ کو شقة راوی سے پہنچا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ رفع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت فرمایا تھا اور غالباً ایک صاحب نے اپنی بعض تحریرات میں لکھا بھی ہے کہ وہ کمالات باطنی میں مولانا شیداحمد صاحب گنگوہی سے کم نہیں صرف فرق یہ ہے کہ وہ ظاہری عالم بھی ہیں یہ عالم نہیں۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ ایک مرتبہ دیوبند میں مدرسہ کا بہت بڑے پیمانہ پر جلسہ ہونے والا تحصیل میر اطالب علمی کا زمانہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ مولانا شاہ رفع الدین صاحب نہایت اطمینان سے ثہل رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ اس طرح پر اطمینان سے ثہل رہے ہیں اور اتنا بڑا انتظام درپیش ہے فرمایا کہ یہ انتظام تو کون بڑی چیز ہے اگر سلطنت بھی ہمارے پرداز ہو جائے اسی طرح اطمینان سے اس کا انتظام بھی کر سکتے ہیں۔

اسی سلسلہ میں فرمایا کہ دہلی میں ایک مرتبہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے وعظ فرمایا۔ اس میں ایک انگریز بھی شریک تھا بعد وعظ کے اس انگریز نے عام خطاب کی صورت میں مسلمانوں سے دریافت کیا کہ مسلمانوں کی سلطنت کیوں گئی مسلمانوں نے جواب مختلف دیے مگر اس کی تسلی نہ ہوئی پھر خود اس انگریز نے کہا کہ جو لوگ سلطنت کے اہل تھے وہ تو تجھہ نہیں ہو گئے جیسے یہ شاہ صاحبؒ ہیں اور جنہوں نے اس کو ہاتھ میں لیا وہ اہل نہ تھے۔

۲۶ رمضان المبارک ۱۴۵۰ھ مجلس خاص بوقت صحیح یوم پنجشنبہ

ملفوظ ۲۷: غیر مقلدین اور ہم

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ابن تیمیہ نے بعض سائل میں بہت بی تشدید سے کام لیا ہے جیسے توسل وغیرہ کے مسئلہ میں۔ اسی طرح اہل ظاہر نے بھی۔ مثلاً انہوں نے قیاس کو حرام کہا ہے اور ہم پھر بھی ان کے اقوال کی تاویل کرتے ہیں۔ مگر وہ ہمارے اقوال جوان کے خلاف ہوں۔ بلا تاویل رد کر دیتے ہیں۔ غرض ہم تو ان کی رعایت کرتے ہیں اور وہ ہماری رعایت نہیں کرتے۔ چنانچہ ہم ترک تقليد کو مطلقاً حرام نہیں کہتے اور وہ تقليد کو علی الاطلاق حرام کہتے ہیں اس سے وہ اس درجہ میں آگئے ہیں **تَحْبُّونَهُمْ وَلَا يُحَبُّونَكُمْ**۔ ہاں بعض قیاس کو حرام کہنا جا سکتا ہے جیسا ابلیس نے کیا تھا یعنی نص کے مقابلہ میں ورنہ قیاس شرعی کو حرام کہنا تمام امت کی تحلیل ہے کیونکہ ائمہ مجتہدین کے تمام فتاویٰ کے کو جمع کر کے دیکھئے اس میں زیادہ حصہ قیاسات و احتجادات ہی کا ہے ان کو مگر اہ کہنا تمام امت کو مگر اہ کہنا ہے۔

خود صحابہ کو دیکھئے زیادہ تر فتویٰے قیاس ہی پر بنی ہیں البتہ وہ قیاس نصوص پر بنی ہے۔ آجکل تارکین تقليد میں بھی اس رنگ کے لوگ ہیں اور بگشتر دیکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں بڑی جرأت ہوتی ہے بے دھڑک بدلوں سوچے سمجھے جو چاہتے ہیں فتویٰ دے دیجئے ہیں خود ان کے بعض مقنداوں کی باوجود تجویز کے یہ حالت ہے کہ جس وقت قلم ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھتے۔

سب سے عجیب بات یہ ہے کہ مخالف کے ادله کو نقل کرتے ہیں مگر ان کا جواب تک نہیں دیتے۔ بعض کے وسیع النظر ہونے میں شک نہیں مگر نظر میں عمق نہیں۔ ایک ظریف نے بیان کیا تھا ایک مرتبہ کہ تاجر کی دو تسمیں ایک کدو تاجر اور ایک مچھلی تاجر۔ کدو تاجر سارے دریا میں پھرتا ہے مگر اور اپر اور مچھلی عمق میں پہنچتی ہے۔ تو ان لوگوں کا تاجر ایسا ہے جیسے کدو تاجر کے اور اپر پھرتے ہیں اندر کی کچھ خبر نہیں۔

ملفوظ ۲۷۸: ایک صاحب کی بد فہمی اور وعدہ کی مخالفت کا واقعہ

فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی کو کچھ نہ کہوں اور نہ کوئی ایسی بات ہو جس سے بے الطیف پیدا ہو۔ مگر کیا کیا جائے دوسراے بالکل ہی بے فکر ہیں اسلیے کوئی نہ کوئی واقعہ ناقابلِ تائیج ہو جاتا ہے۔

ایک صاحب آج صحیح ہی آکر میرے پاس بیٹھ گئے میں اس وقت مشغول تھا۔ میں اپنا کام چھوڑ کر انگلی طرف متوجہ ہوا۔ اب پوچھتا ہوں کہ جو کہنا ہو کہہ لیجئے۔ میں تنگی نہیں کرتا کہ اس وقت فرصت نہیں پھر آنا اسلیئے کہ ممکن ہے کہ کوئی فوری اور ضروری ضرورت ہو کچھ بولنے نہیں۔ آخر چند بار کے دریافت کرنے پر ایک پرچہ نکال کر میرے آگے کر دیا۔ اور زبان سے اب بھی کچھ نہ کہا حالانکہ آگے معلوم ہو گا کہ پرچہ ہی پیش کرنا مخالفت تھی۔ اور تمباشایہ ہے کہ اس کے متعلق دو شخصوں سے مشورہ بھی لیا تھا انہوں نے واقعہ معلوم کر کے منع بھی کیا تھا۔ اب بتلائیے کیا تاویل کروں اور اگر ہر بات میں تاویل ہو سکتی ہے تو پھر اصلاح کیسے ہو۔ اب سوائے اسکے اور کیا کہوں کہ میں ایسے لوگوں کی خدمت سے معذور ہوں ان لوگوں میں نہ رحم نہ انصاف کچھ نہیں۔ ایک یہ شخص دھوکا دینا چاہتے تھے اور ابہام کے ذریعہ سے پرچہ کا جواب حاصل کرنا چاہتے تھے حالانکہ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کو پرچہ لکھنے تک کی اجازت نہ تھی۔ یہ بھائیوں پھوٹا کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا تم نے مکاتبت کی اجازت حاصل کر لی ہے۔ یہ خیال اسلیے پیدا ہوا کہ ایسے بد فہم کو مکاتبت کی کیسے اجازت دیدی گئی ہو۔ جو بار بار پوچھنے پر بھی کچھ جواب نہ دے اس پر انہوں نے سب پرچے ایک

جگہ جمع کر کے مجھ کو دیدیے۔ اتفاق سے ان میں وہ پرچہ بھی تھا جس میں مکاتبت اور مخاطب کی ممانعت تھی تب بات کھلی۔ اللہ تعالیٰ نے معلوم کر دیا۔

خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ پرچہ دکھلانے کا بڑا ہی اچھا و ستور العمل ہے کہ جس کی وجہ سے چور پکڑا گیا فرمایا کہ جیسے انہوں نے مکاتبت کی ممانعت پر پرچہ دیا۔ اسی طرح بعض مخاطب کی مخالفت زبانی شروع کر دیتے ہیں اور یہ یوں سمجھتے ہیں کہ بدوسیوں کے لفڑی نہیں ہو سکتا ممانعت پر مخالفت کرنا کس قدر بدینہی کی بات ہے ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ بعض ایوں بولوں ہوتا ہے جب انکل جاتا ہے بستہ بھی ناپاک، کپڑے بھی ناپاک خود بھی ناپاک، چارپائی ناپاک۔ پھر اس پر یہ حالت ہے کہ لوگوں نے صرف ایک سبق سیکھ لیا ہے یعنی مجھ کو بدنام کرنے کا۔ اور ان لوگوں کی حرکتوں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ ظالم کے افعال کی تو تاویلیں کی جاتی ہیں مگر مظلوم کی پرواہ نہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ خود طبیعت میں ظلم اور بے انسانی کا مادہ ہے۔

ملفوظ ۹۷: حضرت مولانا عبدالحی لکھنؤی کا علمی کمال

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ غیر مقلدوں کے متعلق مولوی عبدالحی صاحب لکھنؤی کی رائے اول نرم تھی مگر اس مناظرہ سے جو تواب صدیق حسن خان صاحب سے انکا خود ہوا سخت ہو گئے تھے ورنہ بہت تیز تھے بڑے صاحب کمال تھے عمر تقریباً ۲۸ یا ۳۰ سال کی ہوئی کسی نے جادو کر دیا تھا۔ مولوی صاحب کے سر بانے سے ایک شیشی خون کی دبی ہوئی نکلی تھی اس سے شہر ہوتا ہے کہ کسی نے سحر کیا۔ اس میں انتقال ہو گیا۔ اس تھوڑی سی عمر میں بہت کام کیا سمجھ میں نہیں آتا۔ وقت میں بہت ہی برکت تھی ہر قن سے مناسبت تھی اور ہر قن کی خدمت کی۔

ملفوظ ۹۸: فتن تصوف

خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت والائے توصاصا رج کے کام کو اس سر توزندہ فرمادیا۔ خدمت سے کسی نے اس کی ایسی خدمت نہ کی۔ صدیوں سے فتن تصوف مردہ ہو چکا تھا فرمایا کہ ستر

نے قائد و بغدادی لے لیا ہے جو سب میں چھوٹا کام ہے بڑے بڑے حضرات بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور میں نے سب سے چھوٹی چیزیں ہے جس کو سب چھوٹا سمجھتے ہیں فرمایا کہ لوگ بے وضو نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ میں وضو کرو اکر نماز پڑھوانا چاہتا ہوں۔

ملفوظ ۲۸۱: پکجھ کرو خالی مت رہو

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جو آپ فرمائے ہیں یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ بھائی پکجھ کرو خالی مت رہو۔ اور جو لوگ پکجھ نہ کریں وہ کم از کم سمجھتے رہیں کہ ہم پکجھ نہیں کر رہے ہیں یہ بھی ایک درجہ ہے اس پر فرمایا کہ میں نے تو اپنے جیسے کم ہمتوں کے لئے ڈھونڈ ڈھانڈ کر حضرت سعید ابن المسیب تابعی کا ایک قول نکالا ہے وہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے پر شب قدر کی فضیلت میسر ہو جاتی ہے (کذافی جم جم الغواہ بروایہ مالک) پھر فرمایا کہ صاحب ہم جیسے ضعیفوں کے لیے تو یہ بڑی نعمت ہے پھر قوت وضعف کے تفاوت سے اعمال کی کثرت و قلت کے مناسب یہ واقعہ بیان فرمایا کہ یہ روایت سنی ہے مولوی محمد لیثین صاحب یعنی مولوی محمد شفیع صاحب کے والد الفضل روزے بہت رکھا کرتے تھے اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جا کر افطار کیا کرتے تھے۔ ایک روز مولانا نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ نہ سمجھنا کہ میں روزے رکھتا ہوں اور یہ نہیں رکھتے ہم نے بھی بہت روزے رکھے ہیں۔

ملفوظ ۲۸۲: شیخ سے عقیدت میں کمی پر نفع میں کمی

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ بالکل صحیح ہے شیخ کے ساتھ جس قدر عقیدت کم ہوگی اسی قدر نفع کم ہوگا۔

ملفوظ ۲۸۳: ایک صاحب کی خاموشی پر موآخذہ

ایک نوار شخص سے اس کی غلطی پر حضرت والا نے موآخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں نے صرف یہی تو پوچھا تھا کہ جو میں نے اس پر چہ میں لکھا ہے وہ تم کو منتظر ہے یا نہیں جس پر

جواب ندارد ہے یہ کون اسی ایسی باریک بات اور حقیق سوال تھا جس پر آپ خاموش ہیں اور اگر جواب دینا بھی آپ کو کسر شان معلوم ہوتا ہے یا مجھ کو قابل جواب دینے کے نہیں سمجھا جاتا تو یہاں تشریف لانے کی ضرورت ہی کیا تھی گھر بیٹھے رہے ہوتے کوئی بلا نے تھوڑا ہی گیا تھا۔ اس پر وہ شخص کچھ بولے مگر نہایت دسمی آواز سے۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ ارے بھائی! ہاتھ منہ سے ہٹاؤ ایک تو آواز نہیں اور اس پر ہاتھ منہ پر رکھ لیا کم از کم ایسے طریق سے بولو کہ دوسرا سن کر جواب دے سکے اس شخص نے ہاتھ تو منہ سے ہٹا لیا مگر آواز میں کوئی تغیر نہ ہوا۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ اب بتلائیے کہ بار بار کے کہنے پر بھی جب اثر نہیں تو کیا تاویل کروں اور ایسی حرث پر مجھ کو تغیر ہو یا نہ ہو۔ آخر کوئی پتھر کا بات تو ہوں نہیں کہ حس ہی نہ ہو۔ یہ فرمائ کر حضرت والا نے نہایت بلند آواز اور تیز لمحے میں فرمایا کہ جاؤ خبردار! جو ہمارے پاس آئے ایسے بدفهموں کا یہاں کام نہیں ایسے بولتے ہیں جیسے کوئی نواب صاحب ہیں یا والی ملک ہیں بدنصیب خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور مجھ کو بھی پریشان کرتے ہیں پہلے تو میں ایسے بدفهموں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتا تھا زیادتی سن کا اثر ہے کہ ضروری رعایت کرتا ہوں اب جاؤ بذریعہ خط کے معاملہ طے کرنا اس وقت نے بہت ہی ستایا ہے دل دکھایا ہے اس وقت کام نہیں ہو سکتا وہ شخص اٹھ کر چلا گیا فرمایا کہ میں تو عتاب میں بھی مصالح پر نظر رکھتا ہوں۔ اس شخص نے سیدھی اور صاف بات کو کس قدر الجھایا ہے لاحول ولا قوہ الا باللہ اور مجھے تو ایسے بر تاؤ سے شرم آتی ہے مگر ان لوگوں کو قطعاً احساس نہیں۔ میں جو کچھ کرتا ہوں سبب سے! اور یہ کرتے ہیں بلا سبب میں نے اس شخص سے یہی تو پوچھا تھا کہ جو کچھ میں نے اس میں لکھا ہے وہ تم کو منظور ہے یا نہیں۔

اب انصاف سے فرمائیے یہ کوئی غامض بات ہے جس کا جواب نہ دیا گیا اس حالت میں زیادتی کس کی ہے۔ تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ اس کا اہتمام ہی نہیں کہ دوسرے کو اپنے سے اذیت نہ پہنچے میں تو کہا کرتا ہوں کہ پیروں کو تو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہیں اپنے کوفا کر چکے ان کو کسی بات کا احساس نہیں ہوتا چاہے کوئی ڈنڈوت کرے یا پائچ جو تے نکال کر لگا دے دونوں ان کے نزدیک یکساں ہیں اور یہ سب خرابیاں رسمی پیروں ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں ان کو اصلاح کی

طرف توجہ ہی نہیں ان کے یہاں تو بڑی معراج یہ ہے کہ آکر مرید ہو جائیں اور چڑھاوے چڑھا جائیں سواں میں انکا تو بھلا ہو گیا مگر ناس تو ان کم بختوں کا ہوا۔

ایک مرتبہ ڈھا کہ جانا ہوا وہاں پر میں نے پا گیروں کا علاج کیا دشگیروں کا علاج تو کرتا ہی ہوں۔ وہ یہ کہ بنگال میں یہ معمول ہے لوگوں کا کہ دوڑے اور پیر کپڑے لیے میں نے منع کیا کہ پاؤں کپڑنا مناسب نہیں مصانعہ کرتا سنت ہے یہی کافی ہے مگر نہ مانے میں نے یہ کیا کہ جو میرے پیر کپڑتا میں اس کے پیر کپڑتا۔ جب دوچار کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے لوگوں نے چھوڑا۔ میں نے کہا کہ اب آدمی بننے سے باز نہیں آئے۔ بعض لوگوں کے جب میں نے پیر کپڑے تو کہنے لگے ابی حضرت یہ کیا؟ میں کہتا ہوں کہ ابی حضرت یہ کیا کہنے لگے کہ آپ تو بزرگ ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس اس کی کیادیلیں ہے کہ میں تم کو بزرگ نہیں سمجھتا۔ بڑے گھرائے کہتے ہو نگے کہ کوئی دیہاتی ہے۔

ملفوظات: ۳۸۳: غیر مقلدوں کا تشدد و اور فساد

ایک سالہ نفلتوں میں فرمایا کہ بعضے غیر مقلدوں میں تشدد بہت ہوتا ہے طبیعت میں شر ہوتا ہے اور مجھے تو الاماشاء اللہ ان کی نیت پر بھی شبہ ہے سنت سمجھ کر شاید ہی کوئی عمل کرتے ہوں مشکل ہی سامعلوم ہوتا ہے اسی لیے عمل کچھ ہو مگر جس نیت سے کیا جاتا ہے اس کا اثر دوسرے پر ضرور ہوتا ہے حاضرین میں سے ایک صاحب نے بیان کیا کہ ایک مقام پر آمین بالجہر پر جھگڑا ہوا۔ مقدمہ عدالت میں پہنچا ایک ہندو شہر کو تو اسکی تحقیقات پر تعینات ہوا آدمی سمجھدار تھا اس نے اپنی رپورٹ میں غیر مقلدین نہیں پر فساد کا الزام ثابت کیا اور یہ لکھا کہ یہ جماعت شورش پسند اور مدد جماعت ہے بلا وجہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو استعمال ہو۔ آمین بالجہر محض قساد اور شورش پیدا کرنے کے لئے کہتے ہیں اس رپورٹ پر غیر مقلدوں نے بڑا شور کیا۔ اور یہ کہا کہ آمین بالجہر مکہ میں بھی ہوتی ہے اس ہندو کو تو اس نے جواب دیا کہ آمین مکہ میں مکن اللہ کے یاد کی غرض سے اور سنت سمجھ کر کہی جاتی ہو گی فساد کے لیے نہ ہوتی ہو گی یہاں

پھض فساد کے لیے ہوتی ہے۔

دوسرًا واقعہ خود فرمایا کہ ایسا ہی ایک اور واقعہ ہے ایک نو عمر طالب علم میرا شریک بھرہ بیان کرتا تھا کہ کسی ریاست میں ایک مقام پر آمین بالجہر کے معاملہ کی تحقیقات ایک انگریز نے کی اور آخر میں روپورٹ کے اندر عجیب و غریب تحقیقات بیان کی گویا کہ حقیقت کا فونڈو ہی کھینچ کر رکھ دیا اس نے یہ لکھا کہ آمین کی تین قسمیں ہیں ایک آمین بالجہر جو مسلمانوں میں ایک فرقہ کا مذہب ہے اور حدیثیں اس میں وارد ہیں اور ایک آمین بالسر یہ بھی مسلمانوں کے ایک فرقہ کا مذہب ہے اور یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے اور ایک آمین بالثر یہ مذہب ہے غیر مقلدوں کی لہذا اس سے روکا جانا چاہیے۔

اسی سلسلہ میں فرمایا کہ مولوی سلیمان صاحب بچلواری نے ایک حکایت بیان کی تھی نظریف آدمی ہیں کہ ایک غیر مقلد نے کسی شہر میں پہنچ کر آمین بالجہر پڑھی ایک گاؤں کا شخص بھی اس وقت نماز میں شریک تھا اس نے کہا کہ ہمارے یہاں آؤ تو تم کو مزہ چکھاویں۔ یہ غیر مقلد صاحب اس گاؤں میں بھی پہنچنے نماز میں آمین بالجہر کا کہنا تھا کہ چہار طرف سے رفع یدیں شروع ہو گیا دونوں طرف جہالت تھی۔

اوپر کی حکایت کے سلسلہ میں جس میں ایک انگریز نے تحقیقات کی تھی فرمایا کہ بعض انگریز بھی سمجھ دار ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک دوسری حکایت ہے کہ بھوپال میں ایک عورت کے مسلمان کر لینے پر ایک شخص پر مقدمہ چلا یا گیا حاکم باوجو دیکہ مسلمان تھا مگر اس نے انحواء کے ازام میں مسلمان کو حکم سزا کا دیا اس کا اپیل ایک انگریز حاکم کے یہاں کی گئی اس نے عجیب بات فیصلہ میں لکھی کہ جو شخص ارشاد اور انحواء میں فرقہ نہ کر کا وہ قابل حکومت نہیں۔ ایک شخص نے اپنے مذہب کو حق سمجھ کر اس کی رغبت دلاتا ہے گویا اچھی بات کی طرف دعوت دیتا ہے سو یہ تو ارشاد ارشاد ہے وہ ہرگز مجرم نہیں اگر کوئی زیور کا قصہ ہوتا یا شہروانی معاملہ ہوتا جو کہ ثابت نہیں وہ انحواء ہوتا نو مسلم کو مسلمان کرنے کے سلسلے میں فرمایا کہ مولوی نے بھوپال میں ایک بھنگن کو مسلمان کر لیا مقدمہ دائر

ہوا۔ حاکم نے خلوت میں بلا کر کہا کہ ثبوت تو کوئی ہے نہیں تم انکار کر دینا کہ میں نے مسلمان نہیں کیا انہوں نے کہا جو مناسب ہو گا جواب دوں گا جب باضابطہ بیان لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مسلمان تو وہ خود ہوئی اس کی درخواست پر میں نے اظہار اسلام کا طریقہ بتلا دیا اور یہ کوئی جرم نہیں حاکم نے کہا مسلمان کرنا قانوناً اس طریقہ اظہار کو کہتے ہیں انہوں نے کہا میں ایسے مہمل قانون ہی کوئی شخص قانون کی زد میں نہ آئے اس کو زبردستی کیوں لاتے ہو مقدمہ خارج ہو گیا۔ اس پر فرمایا کہ ذہانت بھی خدا کی ایک عجیب نعمت ہے۔

ملفوظ ۲۸۵: حضرت اور حضرت مولانا محمد یعقوبؒ کی پیشینگوئی

ایک سلسلہ نقشوں میں ایک مولوی صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت والا نے فرمایا کہ میرے پاس نہ حشم ہے نہ خدم ہے نہ علم ہے نہ فضل ہے نہ کمال ہے نہ جمال ہے (اور بطور مزح کے) تم فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہاں جلال ہے مگر جلال بھی وہ حلال ہے حدود سے گذر کر نہیں) ہاں مخفی ایک خدا کا فضل ہے۔

ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت کی معیت میں فرمایا تھا کہ تم جہاں جاؤ گے تم ہی تم ہو گے اس وقت کچھ ایسے وثوق اور دل سے فرمایا تھا کہ یہ احتمال ہی نہ ہوتا تھا کہ مولانا کو اس میں کچھ شہبہ ہے۔ یہ سب اسی دعا کی برکت ہے ورنہ میں ایسا ناکارہ ہوں کہ کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا۔ ادنیٰ بات یہ ہے کہ جتنا علم ہو رہتا گیا نفس اتنی ہی سہولت ڈھونڈتا گیا پہلے نقلیں پڑھتا تھا۔ مدینہ المصطفیٰ میں یہ دیکھ کر کہ منتخب کے نہ پڑھنے پر کوئی مواخذہ نہیں وہ بھی چھوٹ گئیں۔ میرے ایک خواب کی تعبیر میں ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ تمہاری روح اور نفس بلا مشقت ہی روشن ہو جائیں گے۔ اب اس کے وقوع کا انتظار ہے کہ وہ نور کب ہو گا۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ بہت سوں کو منور فرمادیا تو نور کے حصول میں کیا شہبہ ہے فرمایا کہ کیا انہا چھلکی نہیں ہوتا۔

ملفوظ ۲۸۶: حضرت حاجی صاحبؒ کی نظر میں پیری مریدی کا فائدہ

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس دینی تعلق میں دونوں کا فائدہ ہے اگر مرید گزر میں پھنس گیا تو پیر مدد کریگا اور اگر پیر پھنس گیا تو مرید مدد کریگا۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق کی مصلحت میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر پیر مرحوم ہوگا تو مرید کو جنت میں لے جائیگا اگر مرید مرحوم ہوگا تو پیر کو جنت میں لے جائیگا اور مغضوب میں یہ احتمال نہیں کہ وہ مرحوم کو لے جائیگا کیونکہ سبقت رحمتی علی غضبی۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ حضرت اس بناء پر تلوگوں کو بیعت خوب کرتا چاہیے فرمایا کہ اس رسمی بیعت سے کیا ہوتا ہے۔ یہ برکات روح بیعت کی ہیں جس کی حقیقت اتباع ہے یہ التزام اتباع بڑی چیز ہے بڑی دولت ہے بڑی نعمت ہے اور اپنی نسبت فرمایا کہ حضرت ایسے شخص کا کیا مرید ہو جسے یہ بھی نہ معلوم ہو کہ یہ شخص مجھ سے مرید ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے بیعت ہوتے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور سے ہیں اور بعض دوسروں سے ہوتے ہیں مجھ سے بیعت کا تعلق نہیں ہوتا مگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے ہیں مجھ کو یاد ہی نہیں رہتا مگر یہ مضر نہیں اصل اس طریق میں مناسبت اور تعلق ہے۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آجکل تو پیروں کے یہاں باقاعدہ رحلہ اور وفتر ہیں۔ تبسم فرمائیا کہ جی بائ کہیں وہ وفتر علیہن ہوتا ہے اور کہیں تھین ہوتا ہے۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ ان جاہل پیروں کی عجیب حالت ہے جسمی میں ایک پیر نے اپنی مریدی کے سامنے آؤ اس کو کچھ تامل ہوا تو فرمایا کہ اگر تم سامنے آؤ گی تو میں میدان محشر میں پہچانوں کہا کہ سامنے آؤ اس کو کچھ تامل ہوا تو فرمایا کہ اگر تم سامنے آؤ گی تو میں میدان محشر میں تو لوگ سنگے ہو نگے لہذا نگے نگے دیکھنا چاہیے کبھی یہاں پر کپڑے پہنے دیکھ کر دہاں سنگے ہونے کی بیعت میں نہ پہچان سکو۔ اسی طرح تم بھی سنگے ہو کر اپنے کو دکھلاؤ کبھی وہ کپڑوں میں دیکھ کر دہاں ننگا نہ پہچان سکے۔ کیا واہیات ہے خرافات! استغفار اللہ! وہاں تو معرفت تعلقات روحانی سے ہوگی۔ اس حصی اور بے پروردہ دیکھنے دکھلانے سے وہاں کی معرفت کو کیا تعلق وہ عالم ہی دوسرا ہے۔

۲۶ رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم پنجشنبہ

ملفوظ ۳۸۷: فضولیات میں پڑنے سے فہم مسخ ہو جاتا ہے

ایک صاحب نے اپنی غلطی کی معرفت چاہی کہ حضرت کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی اور حضرت مجھ سے ناراض ہو گئے فرمایا کیوں ناراض کیا کون سی پیچیدہ بات پوچھی تھی۔ صرف یہی تو پوچھا تھا کہ جو کچھ اس خط میں لکھا ہے یہ آپ کو منتظر ہے اتنی مولیٰ بات کا آپ جواب نہ دے سکے اور نہ سمجھ سکے یوں تو معاف ہے مگر آدمی کو مجھ سے کام لینا چاہیے اور کام میں لگنا چاہیے۔ فضولیات میں پڑنے سے آدمی کافہم بھی مسخ ہو جاتا ہے اور ضروری کاموں سے رہ جاتا ہے۔

ملفوظ ۳۸۸: کام میں لگا ہوا دیکھ کر خوش ہونا

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جن صاحب سے غلطی ہو گئی تھی وہ میرے واسطہ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں فرمایا کہ جناب ان کا قصور معاف ہوتا ذرا مشکل ہے وہ تو بہت ہی بدفهم واقع ہوئے ہیں اور واقع میں معاف ہونا کچھ مشکل بھی نہیں جب ان کو کام میں لگا ہوا دیکھوں گا آپ ہی خوش ہو جاؤ گا۔ میری طبیعت تو اس قسم کی واقع ہوئی ہے کہ کسی کو راہ پر لگے ہوئے دیکھتا ہوں جی خوش ہوتا ہے اور بے راہی پر دیکھ کر رنج ہوتا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ وہ کام میں لگیں خوشی تا خوشی کا بعد میں فیصلہ ہوتا رہے گا۔ میں اپنی غرض سے تھوڑا ہی موآخذہ یا رُوك ٹوک کرتا ہوں انہی لوگوں کی مصلحت سے ایسا کرتا ہوں کہ ان میں آدمیت پیدا ہو۔

ملفوظ ۳۸۹: توجہ کے طالب ایک مولوی صاحب کی درخواست معافی

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مولوی صاحب بہت ہی پریشان ہیں۔ مجھ سے فرماتے تھے کہ میں نے حضرت سے یہ عرض کیا تھا کہ توجہ وغیرہ کا جو بزرگوں میں معمول ہے وہ ہم جیسے ضعفاء کے لیے بہت تی مناسب ہے حضرت نے اس پر یہ فرمایا کہ اگر آپ کی رائے میں یہ ایسی نافع چیز ہے اور مجھے میں یہ قوت نہیں تو کسی اور جگہ سے حاصل کریں۔

اب مولوی صاحب میرے ذریعے سے معافی کے خواستگار ہیں اور یہ عرض کر۔ ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں نے ایسی بات حضرت سے کیوں عرض کی فرمایا آپ نے ہی گریا ہے آپ ہی نکالیں میری طرف سے کہہ دیجئے گا کہ مجھ پر ذرہ برابر ان کے اس کہنے سے اگر نہیں ہوئی انکو مطمئن فرمادیجئے گا کہ اس کا قلب میں وسوسة بھی نہ لائیں کہ مجھ پر کوئی خلاف کا ہوا تو بہ تو بہ مگر جب ان پر اس کا قدر را شہے تو ان کو ایسی بات کہنی ہی نہیں چاہئے تھی اور جب جب کہی گئی تو جو میرے ذہن میں جواب آیا عرض کر دیا مجھ سے مصالح پرستی تو آتی نہیں۔ بلکہ مصروف متعلق تو میرا یہ مذہب ہے کہ جس قدر ان کو پیسا جائے ہندیا مزے دار ہوگی۔ میں نے تو اتنے یہ عرض کر دیا تھا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جو کچھ میر پاس ہے دوستوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اگر کسی کو اس سے زائد کی ضرورت اور طلب کہیں اور سے حاصل کر لیا جائے۔ میں اپنا بندہ نہیں بناتا ہوں خدا کا بندہ بناتا ہوں اگر کوئی یہاں سے حاصل نہ ہو کہیں اور سے کسی کام ہوتا چاہئے۔

حضرت یہ فرمایا کرتے تھے اس ہی قبل سے میں نے عرض کر دیا تھا۔ میرے یہاں اس قسم کی باتیں ہیں ہی نہیں آپ کو تو معلوم ہے یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ آئندہ ایسی بات سے اخراجیں اور میرا مسلک تو کھلا ہے اس میں نہ ابهام ہے نہ اختفاء۔ اس پر اگر کوئی طلب کرے خدمت کرنے کو تیار ہوں۔

ملفوظ ۲۹۰: حضرت گنگوہی کی ادائیگانہ تھانہ بھون میں

مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہاں حاضر ہوتا تھا وہاں پر جو بات معلوم ہوتی تھی اب حضرت کے یہاں وہ بات میسر ہے فرمایا۔ آپ کا حسن ظن ہے ورنہ چراغ مردہ کجا نورِ آفتاب کجا۔

ملفوظ ۲۹۱: ایک مولوی صاحب کے تعریفی کلمات پر حضرت کا جواب

مولوی صاحب نے عرض کیا کہ اب کی مرتبہ حضرت کے یہاں آکر اس قدر اطمینان

ہوا ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہت سے شہادت کا اذالہ ہو گیا اور بہت سے افکار سے نجات ہو گئی حق تعالیٰ حضرت کو جز اے خیر عطا فرمائیں وہ با تین معلوم ہوئیں جو سوچنے سے بھی قیامت تک سمجھ میں نہ آتیں فرمایا کہ میری کیا معلومات اور کیا تحقیقات۔ آپ خود اللہ کے فضل سے عالم ہیں مفسر ہیں محدث ہیں فقیہ ہیں۔ مناظر ہیں مجھ کو تو کتابیں تک مختصر نہیں رہیں اور میں پنج عرض کرتا ہوں کہ میں تو خادم ہوں اور خادم ہی بن کر رہنے کو جی چاہتا ہے اور آپ نے جو کچھ فرمایا یہ سب آپ کی محبت کا اقتداء ہے۔

ملفوظ ۲۹۲: حق میں اطمینان قلب ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حق میں اطمینان ہی اطمینان ہے اہل باطل اس دولت سے قیامت تک کے لیے محروم ہیں یہ تو اللہ نے حق ہی میں خاصیت رکھی ہے کہ اس میں اطمینان اور سکون حاصل ہو جاتا ہے۔

ملفوظ ۲۹۳: راہِ سلوک میں دو چیزیں نعمت اور دو چیزیں راہبرد ہیں
ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ خون خود ایک نعمت ہے خون سے جس قدر جلد سلوک کے مراتب طے ہوتے ہیں اتنی جلد دوسرے مجاہدہ سے نہیں ہوتے یہ دو چیزیں بڑی ہی زبردست نعمت ہیں ایک فکر دین اور ایک خون۔ اور اسی طرح اس راہ میں دو چیزیں سخت راہبرد ہیں اس کی محققین صوفیہ نے تصریح کی ہے یعنی نا محروم عورتوں اور اماروں کے ساتھ اختلاط۔ حتیٰ کہ نرم گفتگو نا محروم عورت کے ساتھ کرنا بھی راہ زدن ہے سم قاتل ہے باطن کو بر باد کرنے والی چیز ہے۔

ملفوظ ۲۹۴: رشتہ دار عورتوں سے پردوہ

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ اکثر گھروں میں یہ رواج ہے کہ رشتہ دار عورتیں پردوہ نہیں کرتیں فرمایا کہ اس طرف کے قصبات میں بکثرت یہی رواج ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اس وقت میری عمر تھوڑی ہی تھی۔ میں نے اپنی پچھوپچی صاحبہ سے عرض کیا کہ اپنی لڑکیوں کو مجھ سے

پرده کراوہ میرے سامنے نہ آیا کریں۔ اس میرے کہنے پر پھوپھی صاحب خفا ہو گئیں اور فرمایا کہ آیا کہیں کامولوی قواوی۔ اس پر خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کومولوی قواوی کہا فرمایا کہ اول تو میرا اس وقت بچین تھا اور بچین نہ بھی ہوتا تب بھی ان کو حق تھا وہ جو چاہیں کہہ سکتی تھیں۔ میں نے بھی تیزی سے جواب دیا۔ جس پر وہ زیادہ بگزیں۔ اس واقعہ کی خبر والد صاحب کو ہوتی مجھ کو بلا کر فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ میری بہن ہے جو مرتبہ میرا ہے تمہارے اعتبار سے وہی ان کا ہے ان سے معافی چاہو اور ہاتھ جوڑ کر معافی چاہو۔ جناب میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہی۔ پھوپھی صاحبی محبت کی وجہ سے کھڑی ہو گئیں اور سینے سے لگالیا اور بہت روئیں مگر پرودہ لڑکیوں کا قائم رہا۔ اس میں کامیابی ہوئی اس میں انہوں نے خدا کے فضل سے مزاحمت نہیں کی تو یہ امر تو اکثر خاندان والوں کو بہت ہی تاگوار ہوتا ہے پھر اس کے بعد ان لڑکیوں نے مجھ سے اجازت چاہی سامنے آنے کی میری عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی اور وہ بھی بڑی عمر کی ہو گئیں تھیں انہوں نے یہ کہا کہ اور ہمارا کون ہے اور اب تو عمر بھی زائد ہو گئی اس وقت میں نے سامنے آنے کی حدود شرعیہ کے اندر اجازت دیدی تھی۔ اگر انسان مفبوط ہو اور مصالح کو سل پر پس دے اور کسی کے راضی یا ناراضی ہونے کا خیال نہ کرے سب کچھ ہو سکتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور حضرت راضی یا ناراضی ہونے کا خیال تو بندہ کو خدا کے ساتھ رکھنا چاہئے۔ دنیا کو کہاں تک رکھ سکتا ہے۔

ملفوظ ۲۹۵: جب خرابی کی ابتداء ہو گی بے پردگی سے ہو گی

فرمایا کہ ایک صاحب مجھ سے فرمانے لگے کہ پرده کے اندر بھی تو خرابیاں ہوتی ہیں میں نے کہا کہ پرده کے اندر تو قیامت تک بھی خرابی نہیں ہو سکتی آپ کے ذہن میں پرده کے معنی ہی غلط ہیں۔ آپ صرف چهار دیواری کے اندر بیٹھ جانے کو پرده سمجھتے ہیں گو سامنے ہی آیا کرے پس پرده کا مشہوم ہی آپ کے ذہن میں غلط ہے جب ابتداء خرابی کی ہو گی بے پردگی سے ہو گی پرده کے ساتھ مکرات جمع ہو ہی نہیں سکتے وہ صاحب مجھے گئے پھر کچھ نہیں بولے۔

مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے صحیح فرمایا کہ بے پردگی ہی سے خرابی ہو گی

کیونکہ بے پر دگی سے سامنا ہو گا اس میں فتنہ ہوتی گا فرمایا کہ جی ہاں اور پر وہ میں جب بعد ہو گا سفر ہے وہی نہیں سلتا۔ اس بارہ میں لوگوں میں احتیاط بالکل نہیں معمولی بات خیال کرتے ہیں حالانکہ بہت بڑی خطرناک بات ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی ہزار ہاوا قعات مشاہد ہیں۔

ملفوظ ۳۹۶: ایک بنگالی طالب علم کی تھانہ بھون رہنے کی خواہش

مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک طالب علم بنگالی میرے ساتھ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تھانہ بھون میں آ کر معلوم ہوا کہ تھانہ بھون ہی میں اسلام ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تھانہ بھون آ کر رہوں فرمایا اس کی ضرورت نہیں کہ تھانہ بھون میں آ کر رہا جائے بلکہ زیادہ فضیلت یہ ہے کہ دارالحرب میں رہے اور مسلمان رہے عرض کیا کہ میرا تو اسکی اس بات سے بڑا جی خوش ہوا یہ اس کی سمجھی بات ہے کہ اس نے محسوس کیا اور نہ حضرت اکثر بنگالی جو اس طرف آ کر مدارس میں پڑھتے ہیں یہ لوگ وطن واپس جا کر وہاں کارنگ دیکھ کر اپنے مصالح اور اغراض کی بناء پر ان ہی جیسا برداشت شروع کر دیتے ہیں ان کے علم سے لوگوں کو کوئی لفظ نہیں ہوتا فرمایا کہ اس کا مطلب خاص یہ ہے وہ یہ کہ جس قدر علوم ظاہری کے حاصل کرنے میں وقت صرف کرتے ہیں اس کا دسوال حصہ بھی اگر اپنی اصلاح باطن اور تربیت میں صرف کریں تو کارآمد ہوں بدؤں تربیت اور اصلاح کے کچھ نہیں ہو سکتا۔

ملفوظ ۳۹۷: انسان بننا مشکل ہے

فرمایا کہ آدمی زاہد بن سلتا ہے شیخ بن سلتا مگر انسان بننا مشکل ہے کسی نے کہا ہے ۔
زاہد شدی و شیخ شدی دانشدند ☆ ایں جملہ شدی و لے مسلمان نہ شدی
﴿تم زاہد اور شیخ اور عالم سب کچھ ہو گئے۔ مگر پختہ مسلمان نہ ہوئے ۱۲۔﴾
میں نے اس کو بدال دیا ہے

زائد شدی و شیخ شدی داشتند ☆ ایں جملہ شدی ولیکن انسان نہ شدی
سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن انسان ہوتا مشکل ہے۔
ملفوظ ۳۹۸: دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے دنیا کے کام کے واسطے وظیفہ دریافت کیا ہے میں
نے لکھ دیا کہ دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ عملیات میں ایک شان دعلے کی ہوتی
ہے اور دعاء میں احتیاج اور نیاز مندی کی شان ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ چاہیں گے تو کام ہو جائے گا
عملیات میں یہ نیاز و انتشار نہیں ہوتا بلکہ اس پر نظر رہتی ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا خاصہ ہے
کہ یہ کام ہوتی جائے گا مگر باوجود اس کے دعاء کو لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا عملیات کے پیچھے پڑھے
گئے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کیوں مستغفی ہو گئے۔

ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے اس کی طرف لوگوں کی نظر بہت بھی کم جاتی
ہے وہ یہ کہ اوراد و وظائف دنیا کے کام کے واسطے پڑھو گے تو اس پر اجر نہ ہو گا اور دعا اگر دنیا کے
واسطے بھی ہو گی وہ بھی عبادت ہو گی اور اجر ملے گا۔

ملفوظ ۳۹۹: موآخذہ کے وقت الہجہ سخت مگر دل زرم ہوتا ہے

ایک سلسہ لفظتوں میں فرمایا کہ جب میں کسی پر بغرض اصلاح موآخذہ کرتا ہوں یا کچھ کہتا
ہوں تو گواہجہ گو سخت ہوتا ہے مگر دل زرم ہوتا ہے مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اس کا تو
کوئی حرج نہیں کہ حضرت کا لبجہ تیز ہو جائے یا سخت ہو جائے حتیٰ کہ حضرت اگر مار بھی لیں تب
بھی گوارا ہے مگر یہ جو اخراج ہے یہ بڑی سخت چیز ہے اور ناقابل برداشت ہے تبسم فرمایا کہ مرا حا
فرمایا کہ حضرت اصل ثمرات اور نستان بحث اخراج کے بعد ہی ہوتے ہیں اگر اخراج نہ ہوتا تو دنیا
میں کوئی نتیجہ ہی نہ لکھتا۔

ملفوظ ۴۰۰: خاموش رہنے کی شرط کا فائدہ

فرمایا کہ میں جونے آئیوں لے لوگوں کے ساتھ شرط لگاتا ہوں کہ تھوڑے دنوں یہاں پر

خاموش رہونہ مکا تبیت کرو نہ منی طبیت اس کارازی ہے کہ پہلے مناسبت پیدا کرو جس کو لوگ ماننا سمجھتے ہیں حالانکہ مانانیسیں بے بلکہ جمانا ہے جمانے کو ماننا سمجھیں اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔

حضرت کی شفقت و زرمی ملفوظ ۵۰:

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ لوگ مجھ کو بدنام کرتے ہیں اور سخت مشہور کرتے ہیں آپ ہی بتائیے کہ صبح آپ دیکھ رہے تھے کہ میں نے ایسی کوئی سی بار یک بات پوچھی تھی جس کا وہ صاحب جواب نہ دے سکے دلقطنوں میں جواب تھا نعم یا لا چھٹی ہوئی! اب اتنی سی بات کا بھی جواب نہ ملے تو مزاج میں تغیرت ہوتا اور کیا ہو۔ مولوی صاحب نے عرض کیا واقعی حضرت پر فرمادی ہے میں یہ صاحب بریلی سے اسی وجہ سے آئے پہلے خط و کتابت ہو چکی طریقہ معلوم ہو گیا اور اسی طریقہ پر بات پوچھی مگر نہ کہ سکے سوائے رعب کے اور کیا چیز مانع ہو سکتی ہے بطور مزاج کے فرمایا بریلی سے پریل آئے کہ جلد منزل مقصود پر پہنچ جاؤں اور یہاں پر آ کر یہ گڑ بڑ کی کہ معاملہ کی بات پوچھی جاتی ہے بولتے ہی نہیں مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں تو سوچا کرتا ہوں کہ اگر موآخذہ ہم لوگوں سے بھی ہو تو جواب نہ دے سکتیں فرمایا کہ موآخذہ اور مطالبہ تو بعد میں ہوتا ہے پہلے تو سیدھی بات پوچھی جاتی ہے جب ٹیڑھا جواب ملتا ہے اس وقت میرا لہجہ بدل جاتا ہے۔

عرض کیا کہ حضرت حقیقت یہ ہے کہ حضرت نے جو کچھ فرمایا با کل صحیح ہے اس کا جواب کچھ نہیں لیکن یہ سب ہمارا یوں اسی وقت تک ہے جب تک حضرت محبت اور شفقت سے کام فرماتے رہتے ہیں ورنہ ضابطہ سے اگر حضرت موآخذہ فرمائیں تو ہوش گم ہو جائیں اور کوئی جواب نہ بن پڑے اسلئے کہ جب حضرت دوسروں سے موآخذہ فرماتے ہیں تو ان سوا اول کا جواب میں خود سوچتا ہوں اس نیت سے اگر مجھ سے یہی موآخذہ ہو تو میں کیا جواب عرض کروں مگر کچھ سمجھیں میں نہیں آتا فرمایا ابھی حضرت آپ تو کبھی اس کا وسوسہ بھی قلب میں نہ لائے گا میں تو خادم ہوں حضرت والا کے اس فرمائے پر ان مولوی صاحب کے آنکھوں میں آنسو بھرا ہے اور نہایت عاجز اتہ لہجہ میں عرض کیا کہ حضرت ہم کیا چیز ہیں ہم تو حضرت کے خادماں خادم اور غلامان غلام ہیں اور یہ سب حضرت کی بزرگانہ شفقت ہی شفقت ہے۔

ملفوظ ۵۰۲: طریقِ اصلاح کے استعمال کرنے میں مجبوری

فرمایا کہ میں مجبور ہوں طریقِ اصلاح کے استعمال میں۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ قرأت فی اصلوٰۃ کا لہجہ الگ ہوتا ہے اور تبلیغِ تکبیر کا الگ امام قرأت پڑھتا ہے نہایت نرم لہجہ میں اور مبلغ کہتا ہے بلند آواز سے اللہ اکبر تو اس پر کوئی کہے کہ یہ شخص بہت ہی سخت مزاج ہے اتنی زو سے بولا باوجود اس کے وہ زور سے بھی بولا اور لہجہ بھی سخت ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کو کوئی سخت کہے گا کہ ضرورت ہے۔ اسی طرح تادیب کا لہجہ معمولی کام سے الگ ہوتا ہے جس کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت یہ ہے کہ اگر نرمی سے کہا جائے تو وہ تادیب ہی نہ رہے گی جیسے مکبر نرمی کا لہجہ اختیار کرے تو بہت سے مقتدی رکوع ہی سے رہ جائیں۔ اب تادیب کا مضمون ہاتھ جوڑ کر تھوڑا کہا جاتا ہے وہ تو کہنے ہی کے طریق پر کہا جاتا ہے ایک اور مثال عرض کرتا ہوں بادشاہ کا پاسا دربار میں بادشاہ کے سامنے بول بھی نہیں سکتا۔ اور بول ہی کیا سکتا ہے چارے کا وہ جو دہی کیا ہے جس وقت شب آتی ہے اس وقت اس کی آواز سینے کس طرح نکلتی ہے ایک دفعہ کو تو محل میں بادشاہ بھی چونک اٹھنے کے اس پر وہ مامور ہے اس کا فرض منصبی ہے بلکہ جس قدر بادشاہ سے قریب ہوگا اسی قدر اس کی آواز بلند ہوگی اور زور سے پکارے گا۔ تاکہ بادشاہ خوش ہو کے اپنے فرض منصبی خوب ادا کر رہا ہے اگر اس وقت وہ نرم و پست لہجہ اختیار کر گا مجرم ہوگا۔

ملفوظ ۵۰۳: عین موآخذہ کرتے وقت حضرت کی اپنی حالت

فرمایا کہ میں بقسم عرض کرتا ہوں کہ عین موآخذہ اور تادیب کے وقت بھی یہ اعتقاد قائم میں متحضر ہوتا ہے کہ شاید عند اللہ یہ مجھ سے زیادہ مقبول ہو اور یہ دونوں چیزیں یعنی تادیب احتصار مذکور ایک وقت میں جمع بھی ہو سکتی ہیں۔

اس کی ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں وہ یہ کہ مثلاً شہزادے سے کوئی جرم ہوا بادشاہ بھنگی کو حکم دیا کہ شہزادے کو بیدلگاؤ وہ لگائے گا ضرور۔ کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے اگر نہ لگائے گا تو کے لگنے کا خوف ہے مگر عین بیدلگانے کے وقت بھی شہزادے سے اپنے کو افضل ہرگز نہ سمجھے

بلکہ اس وقت بھی اس کو یہی مسخر ہو گا کہ شہزادہ شہزادہ ہی ہے اور میں بھتی چ نبہت خاکِ را عالم پاک۔ جس سے کسی کو سزادلوائی جائے یا سیاست کرائی جائے۔ وہ اس سزا یا بکار کو اگر حقیر سمجھے یا اپنے کو افضل اس کا۔ اس کو کوئی حق نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بے وقوف کی بات پر بے وقوف ضرور سمجھے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کام تو کرے بے وقوفی کا اور سمجھا جائے غلطند۔ مگر اسی وقت یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ممکن ہے کہ اس کی بے وقوفی کسی عارض سے خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو اور تری غلطندی کسی عارض سے پسندیدہ نہ ہو۔ میں تاویب سے یہ چاہتا ہوں کہ اس میں خدا کی محبت اور خشیت اور تواضع پیدا ہو جائے۔

ملفوظ ۵۰۳: شیخ کو بھی لرزائی و ترساں رہنا چاہئے

فرمایا کہ کوئی کیا ناز کر سکتا ہے حضرت شیخ آدم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ شاہ جہاں بادشاہ کے زمانہ میں تھے یہ عالم بھی ہیں۔ ایک شخص مرید ہونے آیا جس کی وضع خلاف شریعت تھی آپ اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ اس وضع پر مرید ہوتے شرم نہیں آتی وہ چلا گیا فوراً الہام ہوا کہ اس کو بلا و درنہ تمہاری خیر نہیں اگر اس کی حالت خلاف شرع تھی اس کو تعلیم کر دیتے انکار چے معمٹی۔ آپ نے کسی دوسرے مرید کو بلانے بھی باہر بھی بگڑ چکا تھا کہا جاؤ ہم نہیں آتے کیا دنیا میں یہی ایک شیخ رہ گئے ہیں اور کوئی نہیں رہا۔ ہم کسی اور سے تعلق کر لیں گے مرید نے آکر واقعہ بیان کیا فرمایا اچھا پھر جاؤ اور اس کے کام میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو۔ دیکھیں کیسے نہیں آئے گا حضرت شیخ نے یہ اس ناز کی بناء پر کہا جو عین حالت عتاب میں ان کو حاصل تھا اس اس مرید کا جا کر ایک مرتبہ اللہ اکبر کام میں کہنا تھا کہ دھڑ سے زمین پر بے ہوش ہو کر گرا اور جب ہوش آیا کہتا تھا کہ خدا کے لیے شیخ کے پاس پہنچا وغرض حاضر ہوا اور بیعت ہو گیا۔ اس واقعہ میں اوہ شیخ کو چشم نہای کر دی گئی اور اس طالب کی گوشائی ہو گئی اور دونوں کو جوڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ حق تعالیٰ کا بڑا اور بارہے وہاں لرزائی اور ترساں رہنا چاہئے نہ معلوم کس کے ساتھ کیا معاملہ، کسی کو کیا خبر وہاں کی کری کسی کے نامزد نہیں کہ اپنی اپنی پر استحقاق تھا جا بیٹھو اور قطع نظر اس سے کہ بیٹھو جانے کے بعد بھی بدلتے

ہیں ہر وقت اختیار ہے قدرت ہے قوت ہے خدا معلوم کس کو کہاں بخاد دیں اور کس کو کہاں کوئی ویسا نے کا دربار تھے نہیں جو خود بھی ضابطہ کا حکوم ہے کہ کرسیوں پر دربار یوں کا نام کندہ ہے جس سے وہ بدیٰ ہی نہیں جاسکتیں۔

ملفوظ ۵۰۵: ہدیہ دینے والے اور لینے والے کا ایک واقعہ

فرمایا کہ حیدر آباد دکن سے ایک صاحب نے رومال بطور ہدیہ بھیجا ہے میں نے لکھ دیا ہے کہ قبول کرتا ہوں اور بے حد سرت ہوئی لیکن اگر ہدیہ روانہ کرنے سے قبل دریافت کر لیا جایا کرے تو زیادہ بہتر ہے اس پر فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی آتی ہیں کہ میرے یہاں ان کا کوئی مصرف ہی نہیں ہوتا۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جو فرماتے ہیں کہ پہلے دریافت کر لیا کرو اس کا معمول ہی نہیں نہ کسی نے آج تک اس کے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا۔ حالانکہ اصولی بات ہے طرفین کی راحت کا سبب ہے اسیے کہ اس میں خود بھیجنے والے کو بھی تو انتخاب میں تکلیف ہوتی ہے فرمایا کہ جی ہاں دریافت کر لینے میں سب مصائب کی رعایت ہے پھر فرمایا کہ ہدیہ قیمتی ہونا ضرور نہیں اس میں تو خلوص کی ضرورت ہے فلوس کی ضرورت نہیں۔

ایک بزرگ کسی دوسرے بزرگ کی ملاقات کے لیے چلے پاس کچھ نہ تھا محبت میں خیال ہوا کہ خالی ہاتھ نہ جانا چاہئے کچھ تو لے کر چلنا چاہئے راستے میں دیکھا کہ درختوں پر سے لکڑیاں سوکھ کر زمین پر پڑی ہیں ان کو جمع کر کے ایک گھڑی باندھاں بزرگ کی خدمت میں پہنچ اور عرض کیا کہ حضرت کچھ لکڑیاں لایا ہوں۔ حضرت کے یہاں ایک وقت کی روٹی ہی پک جائے گی۔ بطور جملہ مفترضہ کے فرمایا کہ اب تو کوئی ایسا کرے اور اس کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مہدی الیہ (جس کو ہدیہ پیش کیا گیا ہے ۱۲) بہت بڑا اپنے دل میں فرض کر لیا جائے اور چھوٹے درجہ کا لانے والا لیا جائے پھر سوچئے کوئی ایسا کر سکتا ہے اور اگر کوئی کربجی لے تو لوگوں کی نظر میں اس کی وقعت ہوگی۔ اب سنئے وہ بزرگ اس ہدیہ کی کیسی قدر فرماتے ہیں اور خادم کو حکم دیتے ہیں کہ یہ چیز خُب فی اللہ کی وجہ سے آئی ہے اس کی تحقیر نہ کرنا۔ ویسے ہی مت جلاڈانا

بلکہ اس کو محفوظ رکھو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے غسل کا پانی ان سے گرم کرنا وہ انشاء اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا ذریعہ ہو گا خلوص ہوتا ایسا ہو جیسا ان مہدی ہدیہ دینے والے ۱۲ؑ کو تھا اور قدر ہوتوا ایسی ہو جیسی ان مہدی ایسے نکی۔

ملفوظ ۵۰۶: ہدیہ میں خلوص کی ضرورت ہے فلوس کی نہیں

فرمایا کہ ایک مرتبہ نعمت اللہ خان صاحب جلال آبادی جو ریاست بھوپال میں اس وقت تحصیل دار تھے پھر ناظم ہو گئے تھے یہاں پر آئے اور بطور ہدیہ پچیس روپیہ میرے سامنے رکھ دیے میں نے ان میں سے دس روپیہ اٹھائے اور یہ کہا کہ پچیس زائد ہیں انہوں نے اصرار بھی کیا مگر دل نے قبول نہیں کیا جب وہ چلے گئے ان کے ایک ہمراہی سے جو رہ گئے تھے معلوم ہوا کہ پہلے انہوں نے ہدیہ کے دس ہی روپیہ تجویز کئے تھے پھر خیال ہوا کہ دس روپیہ تو تھوڑے ہیں میری حیثیت کے اعتبار سے بھی اور اس کی شان کے اعتبار سے بھی اس لئے پندرہ اور بڑھا لئے یہ حقیقت تھی اس پچیس روپے کی۔

اس پر فرمایا کہ ہدیہ میں شان وغیرہ کا خیال کرنا بڑی گذشتہ کی بات ہے اس میں تو زیادہ تر خلوص کی ضرورت ہے فلوس کی فکر نہ کرنا چاہیے خلوص دل سے چاہے پانچ سال میں کے ڈھلنے ہی ہوں کوہ استثنی کے کام آئیں گے۔ پھر فرمایا کہ اس واپسی سے معلوم لوگ کیا خیال کرنے لگیں کہ شاید مجھ کو اس کا کشف ہو گیا ہو کہ پہلے انہوں نے دس روپیہ تجویز کئے تھے اس لئے وہی دس لیے یہ بات نہیں اس کی بھی حقیقت سن لیجئے۔ میں نے ایک روز قبل دس روپیہ کی لکڑیاں خریدی تھیں اور میری عادت قرض لینے کی نہیں ہے مگر اس وقت بعض درت قرض کیا گیا اس لئے میں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ! دس روپیہ دیلہ تجھے اگلے ہی روز وہ خان صاحب لے کر آگئے چونکہ مجھ کو دس ہی کی ضرورت تھی وہی میں نے لے لئے اور اس وجہ سے بھی لیے کہ حق تعالیٰ ناخوش نہ ہوں کہ نامحقول ایک تو مانگتا ہے اگر دیتے ہیں خرے کرتا ہے یہ حقیقت ہے اس واقعہ کی نہ کشف تھا نہ کرامت تھی۔

ملفوظ ۵۰۷: ہدیہ دینے والے کے بھی شرائط و آداب ہیں

فرمایا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ نماز میں شرائط ہیں روزے میں شرائط ہیں زکوٰۃ میں شرائط

ہیں جو میں شرائط ہیں مگر ہدیہ میں بالکل شرائط نہ ہوں وہ علی الاطلاق جائز ہو یہ کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بھی تو کچھ شرائط ہونے چاہئیں سو حدیثوں میں اس کے شرائط مذکور ہیں مگر اب تو سب آداب اور شرائط کی جگہ صرف ایک یہ رہ گیا ہے کہ چھلتا ہوا روپیہ ہو کیونکہ ہدیہ میں اکثر عادت بھی روپیہ چھاث کر دینے کی ہے۔ اسی طرح میں کھانے کے متعلق کہا کرتا ہوں کہ آجکل کھانا حلال ہونے کے لیے بس یہ شرط رہ گئی ہے کہ اس میں گھنی اچھا ہو مصالح خوب ہوں بس وہ حلال ہے اگر یہ نہیں حرام ہے۔

ملفوظ ۵۰۸: آج کل مولوی طماع کیوں ہونے لگے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آجکل مولوی طماع زیادہ کیوں ہونے لگے فرمایا کہ سب تو نہیں عرض کیا کہ اکثر فرمایا اس کی خاص وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عربی پڑھنے والے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو پہلے سے طماع اور مفلس ہیں بعد پڑھ لینے کے بھی ان کی وہی عادت رہتی ہے طبیعت میں سے وہ بات جاتی نہیں اسی لیے ان کی تبلیغ میں بھی غرض کا شبہ ہو جاتا ہے اگر عالی خاندان لوگ امراء حکام نواب رئیس اپنے بچوں کو عربی پڑھائیں اور پھر وہ لوگ تبلیغ کریں۔ وہی میختہ کیا اثر ہوتا ہے ورنہ واعظ کے افلاس میں یہی شبہ ہوتا ہے کہ چندہ مانگنا تو جانتے ہیں اور دنیا نہیں جانتے۔

میں جس وقت ڈھاکہ گیا تھا تو وہاں کے ایک مدرسہ کے پرنسپل نے مدرسہ میں مدعو کیا۔ میں گیا انہوں نے مجھ سے یہی شبہ پیش کیا کہ اکثر علماء میں یہ مرض ہے میں نے کہا کہ اس کی جزو انتخاب کی غلطی ہے اکثر غرباء کے بچے علم دین پڑھتے ہیں ان کا حوصلہ ان کا ظرف تو ویسا ہی ہو گا اگر امراء کے بچے علم دین پڑھتے ہیں ان کا حوصلہ ان کا ظرف ویسا ہی ہو گا۔ پرنسپل صاحب نے کہا کہ حضرت آج میرا ایمان محفوظ ہوا اور نہ مجھ کو اندیشہ اپنے ایمان کا ہو گیا تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ علم دین کا تو اثر نہیں میں نے کہا تو بہ کیجئے کیا علم دین ایسی چیز ہے اور اثر کی نسبت میں نے کہا کہ یہ امراء کے بچے انگریزی کے اثر سے تو بگز گئے اگر انگریزی نہ پڑھتے تو ان کے اخلاق اس حالت کی نسبت اچھے رہتے اور غرباء کے بچے علم دین پڑھ کر کسی قدر سنور گئے اگر عربی نہ پڑھتے ان کے اخلاق اس حالت کی نسبت اور زیادہ خراب ہو جاتے۔ مطلب میرا اس کہنے سے یہ تھا کہ

غرباً کے بچے جس قدر خراب ہونے چاہئیں تھے عربی کی بدولت اتنے خراب نہیں رہے اور امراء کے بچے جس قدر اچھے ہونے چاہئیں تھے انگریزی کی بدولت اتنے اچھے نہیں رہے اور یہ انتخاب کی غلطی مشاہدہ میں آرہی ہے کہ خود ایک ہی شخص کے پھول میں جو سب میں زیادہ بے وقوف کند ذہن بد فہم کم عقل بد صورت ہواں کو عربی پڑھانے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے اور جو سمجھ دار عقائد ذہین خوب صورت ہواں کو انگریزی کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔

اس گفتگو کے بعد اسی جلسے میں پہلی صاحب کہنے لگے۔ واقعی آپ نے سچ فرمایا۔

اس وقت جو میں ذہن میں مدرسہ کے رجسٹر کی جائیج کرتا ہوں تو قریب ڈھائی سو طلباء کے ہیں مگر جو عربی پڑھتے ہیں ان میں اکثر گاؤں کے اور کم درجہ کے لوگوں کے بچے ہیں اور انگریزی خواں خاندانی اور امیروں کے بچے ہیں۔ میں نے کہا کہ اب آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ ایسے لوگوں میں بلند حوصلہ ذی لیاقت غیر طماع کیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔

ملفوظ ۵۰۹: اب بھی رازیٰ و غزالیٰ پیدا ہو سکتے ہیں

فرمایا کہ اعتراض کر دینا کون مشکل کام ہے زبان ہلانی پڑتی ہے حقیقت کا سمجھنا مشکل ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ نہ معلوم آ جکل غزالی اور رازی جیسے کیوں نہیں پیدا ہوتے میں نے کہا کہاں سے پیدا ہوں دنی المطیح کم حوصلہ لوگ تو علم دین پڑھنے لگے اور جو لوگ خاندانی بلند حوصلہ عالی دیاں تھے انہوں نے علم دین پڑھنا چھوڑ دیا۔ انتخاب کا اختیار ہم کو دو۔ انتخاب ہم سے کراو پھردیکھو ہم غزالی اور رازی پیدا کر کے دکھلا دیں۔ ہے تو بے ادبی مگر میں بے ادبی نہیں سمجھتا اسلئے کہ یہ عرفاً بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ حقیقت میں بے ادبی نہیں وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے امام غزالی اور رازی سے افضل اس وقت موجود ہیں دیکھ لیجئے امام غزالی اور رازی کے سمجھنے مصنفات موجود ہیں اور اس وقت بعض بزرگوں کے سمجھی موجود ہیں موازنہ کر لیا جائے حضرت نبوت ختم ہوئی ہے علم اور ولایت ختم نہیں ہوئی۔

ملفوظ ۵۱۰: آج کل کچھ پیسرہ جمع کر کے رکھنا چاہئے

فرمایا کہ علماء کو تو ان جاہل واعظین نے زیادہ بدنام کیا ہے در بدر مانگتے پھرتے ہیں۔

وعظ میں دوسروں کو خدا پر بھروسہ کی تعلیم دیتے ہیں اور خود خدا پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اسی لئے کہا کرتا ہوں کہ آجھل پیسرے کی قدر کرنا چاہیے۔ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہی انسان بہت سی آفات میں بتا ہو جاتا ہے۔ یہ دین فروشی بھی اسی آفت کی ایک فرد ہے۔

ایک بزرگ کی حکایت ہے انہوں نے خدا سے دعا کی تھی کہ اے اللہ شیطان روزانہ وسو سے ڈالتا ہے کہ کہاں سے کھائے گا مجھ کو اندیشہ ہے اس سے کہ کہیں مجھ کو کسی آفت میں بتا لے کر دے اسلئے چاہتا ہوں کہ عمر بھر کا رزق مجھ کو ایک دم عطا فرمادیجئے۔ تاکہ میں اس کو ایک کوٹھڑی میں بند کر کے اور علی گڑھ کا تالا ڈال کر اطمینان سے بیٹھ جاؤں اور جب شیطان وسوسہ ڈالے کہے کہاں سے کھائے گا میں جواب دیدوں اس کوٹھڑی میں سے کھاؤں گا۔ شیطان غائب میں وسوسہ ڈالتا ہے مشاہد میں نہیں ڈال سکتا۔ کوٹھڑی کا ذخیرہ مشاہد ہو گا اور ذخیرہ منافی توکل تھوڑا ہی ہے توکل کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ —

گر توکل میکنی درکار کن ☆ کب کن پس تکیے بر جبار کن

گفت پیغمبر باواز بلند ☆ بر توکل زانوئے اشتربند

﴿اگر توکل کرتے ہو تو کام میں توکل کرو کہ کماو (اور اس پر نتیجہ میں مرتب ہونے میں) حق تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ حضور اقدس ﷺ نے صاف فرمادیا ہے کہ اونٹ کو باندھ کر خدا پر بھروسہ کرو (یعنی انسان جو سامان حفاظت کرتا ہے اس کے بعد بھی خدا پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے)﴾

ملفوظ ۱۱۵: دین و دنیا کی مفت خوری۔ حضرت کی توضیح

فرمایا کہ معاند لوگ بزرگوں کو برا بھلا کرتے ہیں بزرگوں پر یہ بھی خدا کی ایک رحمت ہے کہ اس سے عجب پیدا نہیں ہوتا اور مجھ کو جو برا بھلا کرتے ہیں اس کی ایک خاص وجہ بھی محمد اللہ میری سمجھ میں آگئی ہے وہ یہ ہے کہ میری ساری عمر مفت خوری میں کئی ہے پہلے توباپ کی کمائی کھائی بس پیچ میں بہت تھوڑے دنوں تباہ سے گزر ہوا پھر اس کے بعد سے پھر وہی سلسلہ مفت خوری کا جاری ہے یعنی مدت سے نذر انوں پر گذر ہے نہ کچھ کرنا پڑتا ہے نہ کمانا۔ کھانا کھانے کو دونوں وقت ملتا ہے یہ تو دنیا کا قصہ ہوا چونکہ آخرت کے متعلق بھی کوئی ذخیرہ اعمال کا نہ تھا جس سے آخرت میں کچھ ملتا س کا ذریعہ یہ ہو گیا کہ لوگ برا بھلا کہیں جس سے ان کے اعمال میں سے کچھ مل جائے گا۔

پس یہاں بھی مفت خوری میں گذری اور یہاں بھی مفت خوری سے کام بنے گا کسی کی نمازل رہی ہے کسی کی زکوٰۃ بس اس طرح کام چل جائیگا۔

ملفوظ ۵۱۲: غیبت کرے تو اپنی ماں کی کرے

فرمایا کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر غیبت کرے تو اپنی ماں کی کرے خواجہ صاحب نے بہت ہی تجہب آمیز لہجہ میں عرض کیا کہ امام صاحب نے فرمایا کہ ماں کی غیبت کرے فرمایا کہ آپ کو کیوں تجہب ہوا یہاں بھی بات فرماتے ہیں کہ میں اگر غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں تاکہ اگر میری نیکیاں کسی کے پاس جائیں تو ماں ہی کے پاس کیوں نہ جائیں۔ گھر کی نعمت گھر ہی میں رہے کہیں باہر نہ جائے۔ اسلئے یہ فرمادیا تو اس میں تجہب کی کون سے بات ہے۔

ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ ایک شخص ان کو گالیاں دیا کرتا تھا یہ بزرگ اس کو روپیہ پیسہ دیا کرتے تھے اس نے یہ سمجھ کر کہ محض ہیں گالیاں دینی چھوڑ دیں ان بزرگ نے روپیہ پیسہ دینا چھوڑ دیا۔ اس شخص نے ان بزرگ سے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا فرمایا بھائی یہ تو لینا دینا ہے تم پہلے کچھ دیا کرتے تھے ہم بھی دیتے تھے تم نے دینا چھوڑ دیا ہم نے بھی چھوڑ دیا۔

ملفوظ ۵۱۳: شب قدر میں تین چیزوں کا اہتمام

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج ستائیں سویں شب ہے اس کو شب قدر کہتے ہیں اس میں کیا پڑھنا چاہئے فرمایا کہ ایسے موقع پرسلف میں تین چیزیں معمول تھیں اب لوگوں نے دو کو حذف کر کے ایک پر اکتفاء کر لیا ہے وہ تین چیزیں یہ تھیں ذکر، تلاوت قرآن، نفل نماز۔ اس میں سے عابدین نے نفل نماز اور تلاوت قرآن کو حذف کر دیا۔ یعنی اس میں مشغولی بہت ہی کم ہے بس زیادہ تر ضریب ہی لگاتے ہیں اور اتفاق سے مجھ کو یہ تینوں چیزیں ایک آیت میں جمع مل گئی ہیں:-

أُتْلُ مَا وَدِيَ الْيَكْثَرَ مِنَ الْكِتَبِ وَأَقِمِ الظَّلَوةَ . إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ . وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ .

الحمد لله حسنة اول "الافتضالات اليومية" کا تمام ہوا۔

عام فہم اردو

حل قرآن

تألیف

مفسر قرآن حضرت مولانا حبیب احمد کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ عصر حاضر کے فرق باطلہ کے رد میں اپنی نوعیت کی
متاز عام فہم تفسیر..... ترجمہ سلیمان و شفقت
اجزاء قرآنیہ میں ربط کی خاص رعایت
افادہ عام کے پیش نظر لغات و تراکیب کی طرف اشارہ
تو اعد شرعیہ و عربیہ میں رہتے ہوئے توجیہات۔
بعض جگہ میرے حواشی ہونگے جن سے میرا جوش و جد
ظاہر ہو گا..... الحاصل یہ تفسیر ان تمام ضروریات کے
اوقایار سے مفید ہے جو اس وقت حاضر ہیں۔

چند اہم خصوصیات اور تعارف

یہ وہ تفسیر ہے جسے جنید وقت حکیم الامت حضرت تھانوی نے حرفاً حرفاً پڑھنے کے بعد
اسکی صحت کی تصدیق فرمائی گویا اب اس تفسیر کو حضرت ہی کی تفسیر کہا جا سکتا ہے۔ مفسر "حل
القرآن" مولانا حبیب احمد کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ خوش نصیب صاحب علم ہیں جنہیں عرصہ دراز
تک حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی زیر نگرانی تصنیف و تالیف کا موقع ملا۔ آپ کے
علمی کمال کیلئے یہی بات کافی ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے آپ کو عرصہ تک صرف اسی
کام پر مامور کیا تھا کہ آپ کی تصنیفات و تالیفات میں کہیں کوئی فروغ کذاشت پائیں تو اسکی
نشاندہی کریں۔ اس عظیم خدمت پر مامور ہونا آپ کے علم و فضل کی روشن دلیل ہے۔

مفتی اعظم مرتب "فتاویٰ دارالعلوم دیوبند" حضرت مولانا مفتی قفسیر الدین صاحب مدظلہ العالی
ایے عظیم صاحب قلم شخصیت نے تفسیر "حل القرآن" پر عنوانات کا اضافہ کر کے اس کی افادیت کو چار
چاند لگادیئے ہیں۔ ان عنوانات کی اتحاد اس سے استفادہ کرنا نہایت سہل ہو گیا ہے۔

تفسیر "حل القرآن" باطل کے رد اور بالخصوص قادر یانیت کی تردید میں امتیازی شان کی واحد تفسیر ہے
جس کی جدید ترتیب و اشاعت نے اس کی اہمیت کو مزید آشکارہ کر دیا ہے۔

تفسیر عوام و خواص اور علماء و طلباء کیلئے یکساں مفید ہے۔

کپیوٹر ایڈیشن..... جدید ترتیب خوبصورت 3 جلد..... اعلیٰ امپورٹڈ پرینٹ

خدا سے ملائے والی راہنمای کتاب

الصلحاء

یعنی

مکتبات و ملفوظات اشرفیہ

حضرت مولانا الحاج محمد شریف صاحب نور اللہ مرقدہ کی آپ بیتی کے کس طرح راہ معرفت پر ان کے سفر کا آغاز ہوادل کی دنیا بدلتی چلی گئی اور بالآخر شیخ کامل حکیم الامم مجدد الدامت برکاتہ علیہ تھانوی قدس سرہ کی نظر کیمیا اثر نے انہیں محبت و قرب خداوندی کی منزل مقصود تک پہنچا دیا اور پھر بڑے بڑے علماء نے ان سے اپنی اصلاح کرائی آج ان کی یہ آپ بیتی ہمارے لئے مشعل راہ ہے اور اس آپ بیتی کو پڑھ کر کتنے لوگ خدار سیدہ ہو چکے ہیں آخر میں حضرت والا کی باطیلہ مختار مس کے اصلاحی خطوط بھی شامل ہیں کہ انہوں نے حضرت حکیم الامم تھانوی رحمۃ اللہ سے کس طرح مکمل طور پر اپنے حالات لکھے اور اصلاح کرائی، خطوط خواتین کیلئے اصلاحی نسخے ہیں

اعلیٰ کاغذ، خوبصورت جلد، قیمت -120 روپے رعایتی قیمت -70 روپے ڈاک خرچہ -35 روپے

ادارۃ الیقانۃ اشرفیہ
چوک فوارہ ملکان پاکستان
فون: 540513